



اہل تسنن اور تشیع کے سیاسی نظریات

محمد مسجد جامعی

مترجم: ضمیر حسین بھاولپوری

مجموع جهانی اہل بیت (ع)

---

## فہرست کتاب

مقدمہ ناشر

مقدمہ مولف

### پہلی فصل:

دور حاضر کی دینی تحریکیں

دور حاضر کی دینی تحریکیں

شیعہ اور سنی حضرات کے سیاسی انکار کے سرچشمے

مختلف نظریات

دینی قیادت

شخصیات اور دانشوروں کی حکومت

جو انوں کا میدان میں وارد ہوں

مشرقی سیاسی محاذ (Bloc) میں تبدیلیاں

توسیع اور ترقی کا برابر اور خلاق نہ ہوں

قدیمی و راشتوں کے بارے میں حساسیت

گذشتہ حقائق کی تلاش

اسلام، عیسائیت اور تمدن جدید

دوبارہ پلٹن

اعتقادی اختلافات کی بنیادیں

پہلی فصل کے حوالے

### دوسری فصل:

فہم تاریخی

صدر اسلام کی تاریخ پر ایک نظر

ابو بکر کا انتخاب

نیارنگ اختیار کرن

خاندانی چیقاتش

عمر کی سیاسی جدوجہد

بیرونی دھمکیاں

ایک نئی موقعت

عثمان کا اقتدار حاصل کرن

عمین اور تیز بدلاؤ

ایک عظیم بحران

ایک عمومی نظریہ

## حضرت علی اور قبول خلافت

روحی پریشانیاں

معاشرہ اور سماج کا درہم برہم ہونا

مشکلات کا سرچشمہ

حقیقت کی بدلی ہوئی تصویر

حضرت علی سے مقابلہ آرائی

مقام صحابہ کا اتنا ہم ہو جان

دین فہمی میں بدلاوہ

دوسرے تنقید کرنے والے

فلکری اور اعتقادی نتائج

دوسری فصل کے حوالے

## تیسرا فصل:

حکومت اور حاکم

خلافت کی اہمیت

صدر اسلام کا تقدس پاں

جدید مسائل

نفیاٹی جاذبے اور قلبی کشش

صریح اور واضح فیصلہ کی قدرت کا نہ ہونا

واقعہ عاشورا کے بالمقابل سکوت اختیار کرنا

نئے تجربہ کی روشنی میں نیا اور اک

سید قطب کی راہ گشائی

سید قطب کے نظریہ کی اہمیت

تاریخی تنقیدوں کی خط

عبدالرزاق کا تاریخی تصور

حاکم کی بہ نسبت اہل سنت کا نظریہ

حکومت اور حاکم

شیعوں کا موقف

دونظریے

قضاؤ قدر کا مسئلہ

قدیم ایام میں میں اعراب کی خداشناستی

جبکے رہجان کی تبلیغ

تاریخی شواہد (نمونے)

جعل حدیث

مرجحہ کی فکر

## تیری فصل کے حوالے

**چوتھی فصل:**

قدرت اور عدالت

مفہوم عدالت

دو مختلف تفسیروں کے نتائج

عدالت کا فقہی مفہوم

شرط عدالت کا انکار

شرط عدالت کے انکار کی اہمیت

عمل اور اس کے شرائط

حکومت کی ذمہ داریاں

دارالاسلام کی وسعت

عیسائی طاقتوں کی حکمرانی

قدرت اور امنیت

غزالی کا نظریہ

حفظ نظام

ابن قیم کا نظریہ

عدالت خواہی اور قدرت طلبی

انقلابی پوشیدہ تو انسائیوں کے مقامات  
انسان میں فداکاری کا جذبہ  
حاکم نظام کا طرزِ تفکر  
جدید اعتراضات  
شیعہ کا موقف  
علمائے تتبیع اور صفوی سلاطین  
شیعوں کی گوشہ نشینی اور اس کے نتائج  
دباو اور نئی ضرورتیں  
اسلامی حکومت کی فکر  
خلافت کا خاتمه  
مغربی قوانین کا نفوذ  
شریعت کی مطابقت  
چوتھی فصل کے حوالے  
کتاب کے عربی اور فارسی منابع اور مأخذ کا تعارف  
کتاب کے مغربی (انگریزی) منابع اور مأخذ کا تعارف

## مقدمہ ناشر

یقیناً اہل بیت (ع) کی وہ میراث جسے ان کے مکتب نے ذخیرہ کیا اور اس کے مانے والوں نے بر باد ہونے سے بچایا، اسے ایک ایسے مکتب سے تعبیر کیا جاتا ہے جو اسلامی معارف کے تمام اصول و فروع کو حاوی ہے۔ لہذا اس مذہب کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ایسے افراد کی تربیت کرے جو اس کے صاف و شفاف چشمہ سے کچھ گھونٹ نوش کر سکیں اور امت اسلامیہ کو فیض پہنچانے کے لئے ایسے اکابر علماء کو پیش کرے جو اہل بیت (ع) کے نقش قدم پر گام زن رہتے ہوئے تمام اعتراضات نیز مختلف مذاہب کے مسائل اور اسلام کے داخلی اور خارجی گونا گون مکاتب فکر کا بہتر سے بہتر جواب دیتے ہوئے، صدیوں کے اعتراضات کا حل پیش کریں۔ چنانچہ اسی مقصد کی تکمیل کے لئے اہل بیت (ع) کی تاسی میں مجمع جہانی اہل البیت (ع) نے اپنی ذمہ داری محسوس کی اور حرمیم رسالت نیزان کے ایسے حقوق کے دفاع کرنے کے لئے پیش قدمی کی جن پر ارباب فرق و مذاہب نیز اسلام دشمن عناصر اعتراضات کی بوچھار کر رہے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ مکتب اہل بیت (ع) ہمیشہ ہونے والے اعتراض کا جواب دیتا اور اس کی رد پیش کرتا آرہا ہے، اس کے علاوہ یہ بھی کوشش کرتا آرہا ہے کہ دشمن کے سامنے اپنے استقلال اور ثبات قدمی کا مظاہرہ کرے اور ہر دور میں اپنی مراد کو پہنچے۔ پیشک علمائے اہل بیت (ع) کی کتابوں میں موجود تحریبے اپنی نوعیت میں بے نظیر اور انوکھے

ہیں کیونکہ یہ ایک ایسے علمی ذخیرے ہیں جن کی تائید عقل و برہان کرتی ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ نفسانی خواہشات سے دور رہ کر مذموم تعصب سے اجتناب کرتے ہوئے اپنے فن میں تحریر اور ماہر علم، مفکرین اور دانشوروں کو ایسے جالب انداز اور جاذب خطاب کے ذریعہ فکر و نظر کی دعوت دیتا ہے، جسے عقل اور فطرت سلیم قبول کرتی ہے۔ مجمع جہانی اہل البتت (ع) کی بھی بہی کوشش رہی ہے کہ حقیقت کے طالب افراد کے لئے انھیں تالیفات اور بحثوں سے حاصل شدہ بے نیاز تحریر بول کے ذریعہ ایک نئے مرحلہ کا آغاز کرے، گذشتہ اکابر علمائے شیعہ کی تالیفات، تصنیفات اور تحقیقات نیزان کے دیگر آثار کی بھی نشر و اشاعت کرے تاکہ حق کے تشنہ افراد کے لئے یہ تالیفات اور کتابیں ایک شیریں اور خوشگوار چشمہ کے مانند ثابت ہوں، مكتب اہل بیت (ع) نے جن حقائق کو بیان کیا ہے انھیں استمام آل محمد کے لئے آشکار کریں، وہ بھی ایک ایسے دور میں جبکہ عقلمنیں منزل کمال تک پہنچ رہی ہوں اور انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ بڑی تیزی اور آسانی سے بڑھتا جا رہا ہو۔ محترم قارئین سے امید ہے کہ وہ ہمیں اپنے قیمتی نظریات اور گرانقدر مشوروں سے نوازتے ہوئے تعمیری نظریات اور تقيید کا اظہار کریں گے۔

جس طرح ہم ان تمام اہمیت کے حامل مراکز، علماء، مؤلفین اور مترجمین سے اسلام محمدی ﷺ کی اصل تہذیب اور بنیادی ثقافت کے تحفظ کی درخواست کرتے ہیں۔

اسی طرح خداوند عالم کی بارگاہ میں اتحاکرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس قلیل عمل کو قبول کرتے ہوئے اپنی خاص عنایت کے زیر سایہ اپنے خلیفہ حضرت مهدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ

الشریف) کا اتباع کرنے کی روز افزودوں تو فیق سے نوازے۔

اب ہم اس کتاب کے مؤلف جناب محمد مسجد جامعی اور اس کے مترجم جناب ضمیر حسین کے بے حد ممنون اور شکرگزار ہیں کہ انھوں نے اس کتاب کو تالیف اور ترجمہ کیا، اسی طرح ہم اپنے ان تمام ساتھیوں کے شکرگزار ہیں جنھوں نے اس اثر کی تکمیل میں حصہ لیا، بالخصوص ان حضرات کا جو اس ادارہ ترجمہ میں کام کرتے اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں ہمہ وقت کوشش رہتے ہیں۔

شقافتی ادارہ، مجمع جهانی اہل البیت (ع)

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### مقدمہ مؤلف

آنندہ کی تاریخ اس بات کی نشاندہی کرے گی کہ موجودہ صدی کی ۷۰ءی اور ۸۰ءی کی دہائیاں، اسلام اور مسلمانوں کے سیاسی افکار و نظریات کی تاریخ میں اہم ترین موڑ ہیں، اب یہ کہ یہ موڑ کس طرح کے مستقبل کی صورت میں سامنے آئے گا یہ ایک الگ مسئلہ ہے؛ اہم بات یہ ہے کہ ایک بڑی تبدیلی آگئی ہے اور طرح طرح کے تجربات اسلامی دنیا میں بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی اس تبدیلی کے پشت پناہ ہیں۔

ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ اسلام کا آنے والا زمانہ، چاہے ایک دین کے عنوان سے ہو یا ایک مستقل تاریخی ثقافتی اور معاشرتی حقیقت کے عنوان سے، پوری طرح یقیناً موجودہ صورت حال سے وابستہ ہے اور یہ موجودہ صورت حال بھی اس دین کی گذشتہ تاریخ، خاص طور سے اس کے دریجہ میں وارد ہونے کی کیفیت، اس کے باہمی عمل اور عمل، نیز اس کی اپنی درونی تو انیسوں اور سعتوں کا ہی نتیجہ ہے۔ ان تین اسباب، خاص طور سے آخری سبب کا موجودہ حالت کے وجود میں بڑا کردار رہا ہے اور رہے گا۔ یہاں، اہم بات یہ ہے کہ ایک انقلاب آفرین محرک کے عنوان سے خود اسلام کے بنیادی اور فیصلہ کرن کردار کو فراموش نہیں کرنا چاہئے۔ ایسے لوگ بہت ہیں جو خود اسلام کی ذاتی تو انیسوں اور صلاحیتوں اور بالواسطہ یا بلاواسطہ اثرات پر توجہ دیئے بغیر تاریخ اسلام میں رونما ہونے

والے تغیرات اور موجودہ اسلام کی تحقیق میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اس کو ایک ایسی تاریخی، ثقافتی اور معاشرتی تحقیق کے عنوان سے دیکھتے ہیں جو محض عصری تبدیلوں پر مشتمل ہے، ایک ایسی تحقیقت کے عنوان سے نہیں دیکھتے مذکورہ خصوصیات کے علاوہ مستقل طور پر خود اپنی فعالیت اور خلاقيت کا بھی حامل ہے۔ حالانکہ ادیان الٰہی اور ان میں سرفہرست اسلام، میں رونما ہونے والی تبدیلوں کا اس آخری نکتہ کی طرف توجہ دیئے بغیر تحقیق و جائزہ ناممکن ہے۔

اس بات میں کہ دین، اپنے ماننے والوں کا ایمان و اعتقاد ہونے اور انہی کے ذریعہ معاشرے میں وارد ہونے کے سبب اور خود تاریخی اور معاشرتی قوانین پر مشتمل ہے، کسی کو کوئی کلام نہیں ہے۔ کلام تو اس میں ہے کہ آیا اس کی ماورائے تاریخ کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم یہ مان لیں کہ دین کی تاریخ سے ماورائیک مستقل حقیقت ہے اور ایک طرح سے اسے تاریخ کا ایک حصہ بنادیا گیا ہے تو ہم کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس خصوصیت کی طرف توجہ کئے بغیر اس کو صرف ایک ایسے عامل کی حیثیت سے دیکھنا کہ جس کو تاریخ وجود میں لاتی ہو، ہم کو غلط نتائج کی طرف لے جائے گا، اب اگر ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں تو منطقی طور پر سے ہمیں بھی یہ قبول کر لینا چاہیے کہ دین کے تاریخ سے ماوراء ہونے کا یہ عضر بھی مختلف معاشرتی، فکری اور سیاسی حوادث کے مقابلے میں کار فرما رہا ہے اور اپنے اصول اور خصوصیات کے مطابق اس نے مختلف عکس العمل ظاہر کئے ہیں اور اس روڈ کو جانے کے لئے جس طرح سے تاریخی، معاشرتی، اقتصادی اور ثقافتی حالات کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح اس عنصر کی انقلاب آفریں خصوصیتوں، اس کی توانائیوں کے سرچشمتوں اور حالات کے

مطابق ڈھل جانے کی صلاحیتوں پر بھی توجہ دینا ضروری ہے۔

ادھر دو تین دہائیوں کے دوران اسلامی حلقوں اور مسلمان نشین ملک میں حقیقی اسلام پسندی کی ایک نئی لہر اٹھی ہے جس نے شیعوں اور سُنیوں دونوں کو ممتاز کیا ہے۔ ان دونوں، خاص طور پر انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کے بعد اسلام پسندی کی یہ لہر جب اپنے کمال تک پہنچ گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ دونوں (مکاتب فکر) ایک دوسرے کے مانند جدید واقعات کے سلسلہ میں بھی رعمل ظاہر کریں گے۔ لیکن بعد میں جب احساسات کا یہ طوفان ٹھنڈا پڑ گیا، تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں اپنے تاریخی تجربوں، فقہی و کلامی اصولوں اور نفیسیاتی و معاشرتی ڈھانچوں کے مطابق دو الگ الگ طریقوں سے نئے مرحلوں کو طے کریں گے اور یہ فرق جس طرح مختلف تاریخی تجربوں کا مرہون منت ہے، ٹھیک اسی طرح مختلف فقہی اور کلامی نظام کا بھی مرہون منت ہے۔ اس رہ گزر میں دونوں کی موجودہ صورت حال جو یہاں تک پہنچی ہے جدید مرحلہ کے جس قدر اپنے تاریخی تجربے سے ہماہنگی رکھتی اسی قدر اپنے اعتقادی نظام اور اصولوں سے بھی ہماہنگ ہے۔

موجودہ حالت کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ ان دونوں نکات کا پوری تکمیل اور دقت کے ساتھ جائزہ لیا جائے؛ خاص طور سے یہ معلوم ہونا چاہئے کہ ان دونوں فرقوں نے اپنی جامعیت اور تمامیت کیساتھ اپنے پیروؤں میں دینی، سماجی اور روحانی ڈھانچے کو کس طرح تشکیل دیا ہے اور ان میں سے ہر ایک کے یہاں زمانہ کے تغیرات، دباو اور خود پر عائد شدہ فرائض سے مقابلہ کرنے کے تین وسائل اور قابلیتیں پائی جاتی ہیں؟ یہ نکتہ اس سے قطع نظر کہ

موجودہ حالات کے سمجھنے میں بہتر مدد کر سکتا ہے، کسی حد تک آئندہ کے حالات کی بھی نشاندہی کر سکتا ہے۔

یہاں ہماری بحث کا مقصد نہ تو مناظر انہ اور اپنی اہمیت جانا ہے کہ اسلام سے متعلق کونسا تجربہ اور کون سی تفسیر صحیح اور کوئی غلط ہے، نہ ہی اختلاف آمیز مسائل کو چھیڑنا مقصود ہے کہ اسلامی اتحاد و بھائی چارگی میں خلل واقع ہو؛ یقین طور پر دونوں مکاتب فکر کے روحانی، تاریخی، اعتقادی اور فکری امتیازات کو غیر جانب داری کے ساتھ علمی پیرائے میں بیان کرنا اور بتانا کہ ان امتیازات کے اسباب عمل کیا تھے اور ان کے نتائج اور اثرات کیا پڑے؟ چونکہ زیادہ گہرائی سے صحیح شناخت میں مددگار ثابت ہوں گے، ان کے چھپانے سے کہیں زیادہ، اخوت اور اتحاد کے استحکام میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ آج کی اس کھلی ہوئی، مواصلاتی ذرائع سے بھری دنیا میں نہ تو ہی ممکن ہے اور نہ ہی مناسب ہے کہ حقیقتیں خصوصاً یہاں وہ دین کی قوتیں اور گہرائیوں کی حامل ہوں لوگوں سے چھپائی جائیں۔ کسی بھی مکتب فکر کے ماننے والوں کی طرف سے اس کی حقیقت کا چھپایا جانا ہی اس بات کا سبب بنتا ہے گا کہ دوسرے افراد اس کی تحریف شدہ شکل دنیا کے سامنے پیش کریں اور اپنے انداز میں اس کی تفسیر کریں۔

تفاہم، ہماہنگی، ہم فکری اور ایک دوسرے کے تین ذمہ داریوں کا احساس اور تقدیر ساز مشترکہ مسائل میں مشارکت اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب دونوں اخلاص اور شجاعت کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھیں اور خود کو ایک دوسرے کے سامنے پیش کریں کہ ہیں۔ یہ امور

آج کی دنیا میں ایک دوسرے کو کھل کر سمجھنے کے علاوہ اور ایک دوسرے کے احترام کی رعایت کئے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔

اس شناخت کا معمولی ترین نتیجہ یہ ہو گا کہ دونوں فریق ایک دوسرے سے ان کے محدود وسائل اور اصول و نظریات کے دائروں سے زیادہ امیدیں اور تو قعات نہیں رکھیں گے، (افسوس کہ یہی وہ مشکل ہے مسلمان جس سے ہمیشہ رو برو رہے ہیں اور آج بھی ہیں) انہیں معلوم ہونا چاہئے کہ وہ کون ہیں اور ان کے م مقابلے کون ہے؟ اور وہ کن مقاصد کو حاصل کرنا چاہئے ہیں اور ان کے مقاصد اور ان مقصد کی تکمیل کے بارے میں دونوں کے تصور اور نظریات کیا ہیں؟ اور کس طرح دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی مشارکت اور تعاون کر سکتے ہیں۔

یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے اُن چار تقریروں کی ذرا تکمیل و تفصیل کے ساتھ ترتیب شدہ شکل ہے جو ۱۹۸۷ء کے موسم خزاں میں عصر حاضر کے فن پاروں کے موزیم ہال میں کی گئی تھیں۔ اس زمانہ میں ان تقریروں کے اہتمام کا واحد مقصد یہ تھا کہ شیعوں اور سنیوں کے سیاسی افکار کے بنیادی میدانوں پر کھل کے گفتگو کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ میدان کیوں اور کس طرح وجود میں آئے؟ کن اسباب و عوامل سے متاثر ہیں؟ کس طرح ان دونوں کے سیاسی افکار میں مؤثر ہوئے ہیں؟ اور یہ کہ ان دونوں طرزِ فکر نے موجودہ زمانے کے تیزی سے بدلتے ہوئے عجیب و غریب تغیرات نیز اس کی ضرورتوں اور تقاضوں کے مقابلہ میں کیا عمل و عمل ظاہر کیا ہے اور ظاہر کر رہے ہیں۔ اور ایک آخری اور بنیادی ہدف یہ تھا کہ شیعہ ا

ورسی دنوں فریق ایک دوسرے کی صاف و شفاف اور حقیقی صورت کو بہتر طور پر پہچان لیں، ایک دوسرے کی فقہی اور کلامی حد بندیوں اور ضرورتوں کو نیز ایک دوسرے کے تاریخی تجربوں اور اعتقادی ڈھانچوں کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ ایک دوسرے کی توقعات اور امیدیں ان ہی اصول و معیارات اور قابلیتوں کے مطابق ہوں۔

اس کے باوجود کہ بیان شدہ موضوعات و مباحث کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا گیا تھا، اس کے زیور تحریر سے آراستہ ہونے میں تاخیر ہوئی۔

یہاں جبات کی یاد ہانی ضروری ہے وہ یہ کہ اس کتاب کی چاروں فصلیں ان ہی تقریروں کے محور پر نظم و ترتیب دی گئی ہیں۔ اگر یہ کتاب مستقل طور پر ان تقریروں پر توجہ کئے بغیر مرتب کی جاتی تو اس کے ابواب قائم کرنے میں تبدیلی نظر آجائی اور بہت سی بحثیں ایک مستقل باب کی شکل میں پیش کی جاتیں، لیکن بعض اسباب و عوامل کہ جن میں سب سے اہم وقت کی تینگی مباحث کی وسعت اور دور حاضر کے مختلف مسائل کی پیچیدگی ہے کہ جن کے تحت یہ کام نہیں ہوسکا۔ یہ واقعات اسی طرح، سبب بننے کے حوالے زیادہ اور بعض وقت طولانی ہو جائیں اور اس بات کے لئے ضروری ہو گیا کہ ہم اپنے محترم قارئین سے مغدرت چاہیں۔

آخر میں میں اپنے اوپر لازم جانتا ہوں کہ ادارہ تحقیقاتی امام صادق کے سربراہ حضرت آیت اللہ جعفر سبحانی دام نسلہ کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس کتاب کی نظم و ترتیب میں اپنے ادارے کے تمام وسائل خصوصاً اس (ادارہ) کے کتب خانہ کو میرے اختیار میں دے دیا تھا اور میں نے پوری طرح اس سے استفادہ کیا، اسی طرح جناب بہاء الدین خرمشاہی زید

توفیقاتہ کا شکر یہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اس کتاب کی نظر ثانی کی ذمہ داری قبول کی اور جناب مصطفیٰ تاج زادہ کا ممنون ہوں جنہوں نے ان تقریروں کے انعقاد کے اہتمام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔

اسی طرح لازم ہے کہ جناب محمد باقری لنگرانی صاحب کا شکر یہ ادا کروں جنہوں نے ان تقریروں کے کیسٹوں کو زیور تحریر سے آراستہ کرنے کی ذمہ داری قبول کی اور یہ کتاب سب سے پہلے مرحلہ میں ان ہی کی زحمتوں، مشقتوں اور انتہک کوششوں کی مر ہون منت ہے؛ اسی طرح جناب علی رضا بہشتی صاحب، جناب کیومرث امیری صاحب، جناب محمد باری دامت عز ہم اور دوسرے بھائیوں کا بھی شکر یہ ادا کرتا ہوں جن میں سے ہر ایک نے الگ الگ اس کتاب کے منظر عام تک پہنچنے میں لانے میں خاص اہتمام برتا ہے خدا ان سب کو ان کی زحمتوں کا اجر عطا کرے۔

محمد مسجد جامی

موسم سرما۔ ۱۹۸۹

## پہلی فصل

### دور حاضر کے دینی تحریکیں

آخری دس سال کے دوران اسلامی دنیا، عالمی سطح پر سب سے زیادہ بے چینی کا شکار، خبروں میں پیش پیش رہی ہے اور یہ مسئلہ صرف ایران تک محدود نہیں رہا ہے اور نہ ہے، بلکہ پوری اسلامی دنیا کا یہی حال ہے۔ اگرچہ اس مدت میں ایران اسلام پسندی کا مرکز، بلکہ اس تحریک کا روح رواں اور جوش و خروش کا محور رہا ہے۔

آن کل جس چیز کو اسلام کے احیا اور اسلامی اصول پسندی سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اس وقت اسلامی دنیا کے آخری مغربی حصے یعنی تیونس اور مراکش تک اور مشرق میں اس کے آخری حصہ یعنی انڈونیشیا اور مسلمان نشین بستیوں پر مشتمل فیلپائن تک پھیل چکی ہے۔ بے شک ان تمام اسلامی ممالک بلکہ مسلمان نشین ان ملکوں میں بھی جہاں وہ ملک کی آبادی کی نسبت اقلیت میں ہیں، اس سے قطع نظر کہ وہ مقامی باشدے ہیں یا غیر مقامی مہاجر، اس نئی اسلامی لہر سے متاثر ہوئے ہیں۔ اگرچہ ان کے اثر کو قبول کرنے کی کیفیت اور میزان یکساں نہیں ہے، حالات کے اعتبار سے ان میں فرق پایا جاتا ہے۔

البتہ یہ انقلابات اور بے چینیاں صرف ان آخری دس سالوں سے مخصوص نہیں ہیں۔ شاید اسلامی دنیا میں موجودہ اخطراب اور بے چینی اس صدی کے دوران دنیا کے دوسرے

حصوں کے مقابلہ میں کچھ زیادہ اور نسبتی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ کم سے کم یہ تو کہاہی جاسکتا ہے کہ موجودہ ادیان کے درمیان، اسلام جس نے ایک دین کی حیثیت سے اور ایک تہذیب اور تمدن کے عنوان سے، ایک مستقل تہذیب اور تمدن خود خلق کی ہے اور اس کے حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اپنے کاندھوں کے اوپر اٹھا رکھی ہے، دیگر تمام ادیان سے کہیں زیادہ اس دوران انقلابی، ثابت قدم اور برسر پیکار رہا ہے۔ کسی بھی دوسرے دین نے اس حد تک نئی تہذیب و تمدن کی بہم گیر توسعی پسندی کے خلاف اپنا ر عمل نہیں دکھایا ہے۔ اگرچہ ممکن ہے کہ انہوں نے ایک زمانہ میں کچھ عرصہ کے لئے کسی ثبت یا منقی پہلو سے انقلابی اقدام اور مقابلہ سے کام لیا ہو، لیکن بالآخر یا تو انہوں نے اس تہذیب کے تسلط کو قبول کر لیا یا پھر اس ایک طرح کی مفہومت کے ساتھ صلح آمیز زندگی بس رکرنے کے لئے جھک گئے۔ یعنی اپنے اصول اور معیارات کو نظر انداز کرتے ہوئے خود کو موجودہ حالات کے سانچے میں ڈھال لیا۔ کیونکہ اس کے علاوہ اپنے تحفظ کے لئے ان کے پاس نہ تو کوئی اور چارہ کا رہتا اور نہ ہی وہ کسی اور طرح سے اپنی اولاد اور پیروں کے انحراف کو روک سکتے تھے۔ (۱)

مختلف ادیان کے درمیان صرف اور صرف اسلام ایک ایسا دین تھا جو اپنے اصول و قوانین اور مذہبی حقائق پر ثابت قدم رہ کر نئی تہذیب و تمدن میں ضم نہیں ہوا اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر برابر سے مقابلہ کیا اور کم سے کم اپنی سر زمینوں میں، اپنی حاکمیت اور بقا کی جنگ لڑتا رہا۔ وہ حکمرانی جوئی تہذیب و ثقافت اور اس کے علم برداروں کے ذریعہ یا تو ناقابل قبول تھی یا پھر وہ اس کو محدود کر دینا چاہتے تھے۔ اس آخری دہائی بلکہ صدی کے دوران اس دین کی

استقامت اور مقابلہ آرائی کے واقعات اور کوششوں کی داستانیں ان کے سیاسی اور معاشرتی وجود کے تحقیق اور مجاہدت و مقابلہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور یہ سب چیزیں خود اسی دین کی بدولت ہیں۔ اس دین کی اندر ورنی ساخت کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ اپنے پیروں کو خود اپنے آپ کو ثابت کرنے اور غیروں کو تھکرا دینے کی کوشش کرتے رہنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایک مسلمان جب تک مسلمان ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دین کے اصول و قوانین کی پابندی کرے۔ یہ اس کے اعتقاد نیز اس کی اخروی فلاج و نجات اور دنیوی عزت و سر بلندی کا لازم ہے۔ یہ ایک دینی اور اعتقادی ضرورت اور ایک ناقابل تبدیل فریضہ ہے۔ اگرچہ ممکن ہے کسی مختصر یا طویل زمانہ میں کسی سبب کے تحت مثلاً ضعف ایمان، یا پھر سماج اور معاشرہ کے نامناسب حالات کی بنا پر اور عملی طور پر یہ فریضہ انجام نہ پائے لیکن ہمیشہ کے لئے اس کو فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ جب تک اسلام ہے اور مسلمان باقی ہے، یہ فریضہ بھی رہے گا اور اس بات کا احتمال پایا جاتا ہے کہ یہ دین (یعنی دین اسلام) موجودہ حالات کے خلاف موقف اپنائے اور صورت حال کو اسلام سے ہماهنگ کرنے کے ارادہ سے حالات کے خلاف اٹھ کھڑا ہو۔

مختصر یہ کہ اس دین کا ہر بیگانہ چیز سے مقابلہ اور پیار خود اس کی ذات اور حقیقت کی طرف پلٹتا ہے۔ یہ مقابلہ آرائی کسی وقت ابال یا جوش و جذبات کا نتیجہ اور مختصر مدت میں ختم ہو جانے والی چیز نہیں ہے۔ اگرچہ مجموعی طور پر بیرونی اسباب و عوامل اس کے وجود و ظہور، اور وجود و ظہور کی کیفیت میں اہم کردار رکھتے ہیں، لیکن اصل سبب خود اسی دین کے اندر موجود ہے

بیرونی اسباب و عوامل صرف حالات کو سزاوار و ہموار کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام سنت و بدعت کے درمیان ایک مسلسل اور کبھی ختم نہ ہونے والی جنگ کی تاریخ ہے۔ تاریخ اسلام سنت کو قائم کرنے اور بدعت کو ختم کرنے کی ایک مسلسل تلاش اور کوشش ہے۔ (۲)

اب یہ بات اہمیت نہیں رکھتی کہ اس بدعت کی شکل اور اس کے پہلو کیا ہیں۔ جب تک بدعت کا وجود رہے گا جنگ بھی جاری رہے گی اور یقیناً بدعت کا سلسلہ بھی ختم ہونے والا نہیں ہے لہذا قدرتی طور پر یہ جنگ و مقابلہ بھی کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اگرچہ اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ یہ مقابلہ گرامی سیاسی انداز کا نہ ہو۔ مبارزہ کی شکل کیا ہو درحقیقت حالات طے کرتے ہیں۔ لیکن اس کو ایک اصول کے طور پر جاری رہنادین طے کرتا ہے۔ (۳)

اسلام کی پوری تاریخ خصوصاً آخری صدی اور دہائی کے دوران شیعہ اور سنی دونوں فرقوں میں ہم نے اس طرح کی جہادی کوششوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ اسلامی احکام و قوانین کے نفاذ و استحکام اور اسلام کے علاوہ جو کچھ بھی ہے تمام چیزوں کو ٹھکراؤ یعنے کے سلسلے میں شیعوں اور سنیوں دونوں نے برابر سے ایک ہی انداز اور ایک ہی جذبے کے تحت جدوجہد کی ہے۔ درحقیقت اس مقابلہ آرائی کی بازگشت خود اسلام کی طرف ہے اور یہ مقابلے دو طرح کے نہیں ہو سکتے یہی وجہ ہے ایران کی مانند مذہبی ملکوں کے مقابلے اور پیارکی داستانیں دوسرے اسلامی ممالک مثلاً عراق، شام، مصر اور پاکستان وغیرہ کے واقعات سے بنیادی قسم کا فرق نہیں رکھتیں اور اسی لئے دور حاضر کی تاریخ نے ان داستانوں کو یکساں طور پر بیان کیا ہے۔ (۴) لیکن ان سب کے باوجود قبول کرنا ہوگا کہ ان کے درمیان کچھ فرق بھی پائے

جاتے ہیں اور اگر ان کی طرف توجہ نہ دی جائے تو بہت سی مشکلات اور غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اتحاد و تکمیل کی کوششوں کی طرف موجودہ جھکاؤ اس بات سے مانع رہا ہے کہ ان فرقوں کو صحیح طور سے سمجھا اور جائزہ لیا جائے اور یہ ایک بڑی مشکل ہے جو صرف اسی صورت میں حل ہو سکتی ہے کہ جب پوری غیر جانبداری اور جرأت و دلیری کے ساتھ اس سے رو برو ہو جائے۔ یہ فرق ایک طرف تو شیعہ نشین اور سنی نشین ممالک کے سیاسی، تاریخی، معاشرتی اور اقتصادی لحاظ سے مختلف حالات اور امتیازات سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسری طرف اس نے ان دونوں مکاتب فکر کے اعتقادی خصوصیات ہیں اور ان خصوصیات نے معاشرتی مذہبی اور اعتقادی عمارت بنانے میں اپنے معتقدین کے درمیان جو کردار ادا کیا ہے ان سے تعلق رکھتا ہے۔ اور یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان دونوں فرقوں کا اسلام اور دینی عقائد کے بارے میں سوچنے اور سمجھنے کا انداز دو طرح کا ہے۔ بلکہ اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ یہ دونوں اپنی دین فہمی اور عقائد کی روشنی میں پوری تاریخ کے دوران میں دو طرح کی مختلف خصوصیات سے متاثر ہو کر پروان چڑھے ہیں۔ دو الگ الگ ثقافتی، سیاسی اور معاشرتی ماحول میں زندگی بسر کی ہے ہیں لہذا ان کی نفیسیات اور مذہبی شخصیت، افکار و نظریات اور مذہبی جذبات اور احساسات بھی دو طرح کے ہیں۔ (۵)

اب چونکہ ان کے نظری عقائد کی خصوصیات کا تحقیقی جائزہ اسلامی تحریک کی موجودہ صورت حال کو ذرا گہرائی سے بہتر طور پر سمجھنے میں مدد کر سکتا ہے، ان دونوں (شیعہ اور اہل سنت) کے سیاسی افکار کی تحقیق بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے لہذا تمہید کے طور پر ہم اس کو بیان کر رہے ہیں۔ (۶)

## شیعہ اور سنی حضرات کے سیاسی افکار کے سرچشمہ

پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اصول و اسباب، چاہے تاریخی ہوں، یا فقہی اور کلامی (شیعوں اور سنیوں کی اور مذہبی سیاسی سوچھ بوجھ کی تشكیل میں کس طرح موثر ہوئے ہیں اور کیوں اس طرح وجود میں آئے ہیں؟ اور اس طرزِ تفکر نے ان کی گذشتہ اور موجودہ دینی سیاسی تغیرات کی تاریخ پر کیا اثر ڈالے ہیں اور ڈال رہے ہیں؟ آیا ان دونوں کی سیاسی اور معاشرتی حتیٰ ثقافتی تبدیلیوں کا سفر جہاں دین و مذہب کے ساتھ آمیزش اور ٹکڑا و ہوا ہے، یکساں رہا ہے یا دونوں میں فرق پایا جاتا ہے اور اگر فرق رہا ہے تو یہ فرق کس حد تک سیاست اور دین کے دائرے میں دونوں کے نظریاتی بنیادوں اور دونوں کے باہمی رابطہ کی کیفیتوں سے متاثر رہا ہے؟ نیز یہ کہ اس فہم نے دونوں مذہب کے ماننے والوں کے معاشرتی اور معنوی ڈھانچہ پر کیا اثر ڈالا ہے؟

اس موضوع کی گہرائی کے ساتھ تحقیق صرف اس لئے اہم نہیں ہے کہ اس کی روشنی میں اہل تشیع اور اہل سنت کے ماضی کو بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے بلکہ اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اس پر توجہ دیئے بغیر اسلامی تحریک کی موجودہ حالت کو صحیح طور پر سمجھا نہیں جا سکتا۔ اگرچہ ممکن ہے کہ موجودہ اسلامی تحریک، شیعہ اور سنی علاقوں میں یا کم سے کم بعض علاقوں میں یکساں طور پر احاطہ کئے ہوئے ہو، لیکن اس سے اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ تحریک ایک ہی جیسے مقدمات اور بنیادی نظریات سے وجود میں آئی، پھولی پھلی اور آگے بڑھی ہے تو یہ غلط ہے۔ سیاسی،

معاشرتی اور اقتصادی حالات کی تاثیر نیز ان دونوں مذاہب کے پیروں کے کم و بیش مشترکہ سامراجی تجربات اور تاریخی ماحول موجودہ حالات وجود میں لانے میں اس قدر قوی اور فیصلہ کرن رہے ہیں کہ کسی منتقلہ امر کے آغاز میں ہی ان دونوں مکاتب کی اعتقادی خصوصیات اور سیاسی، مذہبی عمارت کی اہمیت کو دو طرح سے اسلامی تحریک کے عملی تعین میں صاف طور پر پرکھا جاسکتا ہے۔

البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مختلف میدانوں میں مختلف سیاسی افکار کے دائرے میں ان دونوں کے بہت سے مشترکات کو نظر انداز کر دیا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں میں باہمی شبہتوں بلکہ بہت سارے مشترکات کے باوجود باریک قسم کے اہم فرق پائے جاتے ہیں۔ ایسے فرق اور امتیازات جن کو آج کے پیچیدہ حالات نے اور زیادہ بہتر طور پر نمایاں کر دیا ہے۔ ان باریک اور ذہن سے پھسل جانے والے فرقوں سے غیر جانبدارانہ صحیح واقفیت جس قدر گھری ہو گئی اتنا ہی ایک دوسرے کی شناخت میں مددگار ہو گئی اور باہمی مشکلات و بدگمانیوں کو زائل کر دے گی۔ لہذا ضروری ہے کہ ان کو پیش کر کے ان کے بارے میں بحث کی جائے نہ یہ کہ ان کو پوشیدہ رکھا جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ شیعہ اور سنی، خصوصاً سیاسی نظریات میں بالکل دو طرح کے مختلف مکاتب ہیں اور سیاسی و مذہبی تحریک، ان دونوں معاشروں میں دو طرح سے وجود میں آئی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک معاشرتی اور سیاسی تحریک خود اپنے حلقے میں موجود سماجی اور نفسیاتی حقیقوں، تاریخی تجربوں اور اعتقادوں سے متاثر ہوتی ہے اب جبکہ یہ ثابت ہے کہ حقیقتیں

مختلف ہیں تو فطری طور پر تحریک کو بھی متاثر کر دیں گی۔ ایک شیعہ اور ایک سنی کے مذہبی نفیسیات بھی مختلف ہیں اور ان دونوں کے دینی و معاشرتی ڈھانچے میں بھی فرق پایا جاتا ہے اور جب ایسا ہے تو نتیجہ بھی خواہ مخواہ اس فرق سے ضرور متاثر ہو گا۔ (۷)

بطور نمونہ ایران میں عام طور پر اہل سنت کے یہاں دینی اور سیاسی رہبری کا نہ ہونا عصر حاضر کی اسلامی تحریک میں ایک بڑی کمزوری سمجھی جاتی ہے۔ جبکہ یہ تنقیدی پہلو شیعوں اور سنیوں کے درمیان ایک بے جاموازنہ کی دین ہے اور ناقدین نے اس نکتہ کو نظر انداز کر دیا ہے کہ یہ خصوصیات دونوں کی فقہی، کلامی عمارت، روایتی تاریخ نیز نفسیاتی اور معاشرتی ڈھانچے سے متاثر ہے۔ ایسی بنیاد میں اور ضرورت میں اصولی طور پر اہل سنت کے یہاں نہیں پائی جاتیں جبکہ شیعہ، شیعہ ہونے کی حیثیت سے، نہ یہ کہ وہ ایرانی ہے یا موجودہ زمانہ میں زندگی بسر کر رہا ہے، اپنے دینی لزوم کے تحت، نہ صرف رہبری کو قبول کرتا ہے بلکہ خود رہبر تربیت کرتا رہا ہے اور یہ ضرورت اور لزوم اہل سنت کے یہاں نہیں ہے۔ نہ تو ان کے یہاں اس طرح کا کوئی نظریاتی سرچشمہ پایا جاتا ہے اور نہ ہی ان کے یہاں کوئی تاریخی تجربہ رہا ہے؛ نہ تو ان کی معنوی اور مذہبی عمارت اس طرح کے ستون پر کھڑی اور بلند ہوئی ہے کہ وہ ہر مسئلہ میں اپنے مرجع دینی کی طرف رجوع کریں اور نہ ہی ان کے مذہبی معاشرہ کا ڈھانچہ اس طرح کا ہے کہ کسی ایسے شخص کو اپنے فیصلوں میں آخری نقطہ اقتدار قرار دیں۔

## مختلف نظریات

اس بحث کی اہمیت کے پیش نظر کہ جس کی یہ حامل ہے بہتر ہے ہم پہلے کتاب الفکر السیاسی الشیعی کے مؤلف علامہ محمد جواد مغفیلی کی بصیرت افرزوں تنتیل کا ایک حصہ یہاں پر نقل کر دیں۔ علامہ موصوف اپنی کتاب الشیعیہ والحاکمون میں تحریر فرماتے ہیں: جمہور اہل سنت حاکم جائز کی اطاعت اور اس کے ظلم و جور پر صبر کرنے کو واجب جانتے ہیں اور اس کے خلاف خروج کی اجازت نہیں دیتے، لیکن شیعی ظلم اور برائی کے خلاف انقلاب اور مقابلہ کو واجب جانتے ہیں۔ شیعیت اس مسئلہ میں سینیت کی مخالف ہے اور اس نے اس کا مقابلہ کیا ہے۔ اکثر اہل سنت کی نظر میں کسی ظالم و جابر حاکم کے خلاف خروج دین اور اسلام سے خروج ہے اور شیعوں کی نظر میں اس طرح کا خروج عین دین ہے اس کے برخلاف ظلم پر صبر کرنا دین سے خروج شمار ہوگا۔ اور اسی مقام پر احمد امین اور ان کی مانند و مسرول کے اس قول کی سچی اور صحیح علت سمجھ میں آتی ہے جو کہتے ہیں: شیعیت ہر اس فرد کے لئے جو اسلام کی نابودی کا درپے ہو ایک سائبان ہے کیونکہ احمد امین اور ان کے بزرگوں کی نظر میں، اسلام ایک حاکم کے وجود میں، چاہے ظالم ہو یا عادل، محسم ہوتا ہے لہذا ہر وہ شخص جو اس کے مقابلہ میں قیام کرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن شیعوں کی نظر میں خود حاکم ظالم ہے اور وہ اسلام سے خارج ہے... اسی بناء پر یہ بات تجب آور نہیں ہونی چاہئے کہ وہ (احمد امین) ایک شیعیہ کو اگر نابود کرنے والے سے تعبیر کریں۔ جی ہاں! یقیناً شیعہ گمراہی اور برائی کو نابود کرنے والے ہیں۔ یہ حسن بصری تھے جو کہا کرتے تھے: بنی امیہ کی اطاعت واجب ہے اگرچہ وہ ظلم و ستم ہی

کیوں نہ کریں... خدا کی قسم ان کے ذریعہ جو بھلائی سامنے آئی ہے وہ ان کی برائی سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے بیان میں مزید اضافہ کرتے ہیں: شیعوں کے ائمہ، فقہاء اور ادباء نہیں کہ حکام جور کے خلاف قیام کیا ہے اور ان کی مدد اور تعاون کو گناہ اور معصیت میں قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ تشبیح اپنی حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے باطل کے خلاف قیام اور استقامت کا حامی ہے اور وہ حق کی برقراری کے لئے ایشارہ حکم دیتا ہے اور یہ معقول نہیں ہے کہ صاحبان قوت و اقتدار اس بات سے غافل رہے ہوں، یہی سبب ہے کہ وہ حکام جور شیعوں کو آزار و اذیت میں مبتلا رکھتے تھے اور ہر جگہ ان کا پیچھا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے علمائے سوء کو خرید لیا اور دونوں (حکام جور اور علمائے سوئی) نے مل کر طبعے کر لیا کہ خدا اور رسول کے مخلص مونین اور ان کو قتل کر دیں۔ یہ لوگ ان کے قتل کو مبارک سمجھتے اور ان کے خروج کے خلاف، اس دین سے کہ جس کی وہ فسیر کرتے تھے، فتویٰ دیا کرتے تھے۔ (۸)

جو امام غنیمی کی یہ بات خود اپنے مذہب کے سلسلے میں شیعوں کے عمومی تصویر کو بیان کرتی ہے اور اسی طرح اہل سنت اور ان کے علمائے سوء کے بارے میں ان کے خیال کی ترجمان اور یہ بیان اگرچہ اپنی حد تک صحیح ہے لیکن یہ کامل اور مکمل نہیں ہے؛ حقیقت کا ایک حصہ ہے نہ کہ پوری حقیقت؛ دیکھنا ہوگا کہ کیوں یہ ایسے اور وہ ویسے ہیں؟ آیا یہ صورت صرف شخصی اور اخلاقی دلائل کا نتیجہ ہے یا مسئلہ اس سے زیادہ گہرا اور باریک ہے۔ ان دونوں مکاتب فکر کے موافق کا جائزہ لینے کے لئے پہلے مرحلہ میں ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ انہوں نے اپنے اعتقادی، فکری، معاشرتی اور تاریخی فیصلوں میں کن بنیادوں پر عمل کیا ہے اور ان کے نزدیک

اور پابندیاں کیا رہی ہیں؟ کیونکہ وہ بہر حال اپنے اعتقادی، فقہی اور کلامی حدود سے باہر قدم نہیں نکال سکتے تھے۔ جو شخص اپنے اصول و ضوابط اور اعتقادی ذمہ دار یوں کے تحت اپنے قدم اٹھاتا ہے نہ فقط یہ کہ وہ شخص سرزنش کے قابل نہیں ہے، بلکہ اگر وہ اس کام کو اخلاص اور حسن نیت کے ساتھ انجام دے تو وہ قابل ستائش اور تعریف بھی ہے۔

اگر کوئی اعتراض اور تنقید بھی ہو تو اسے بھی آزادی کے ساتھ ہونا چاہئے نہ یہ کہ خاص اصول (تواعد) اور معیار کو قبول کر کے اس کی پابندی کی جائے اور اسی طرح اصول اور فرائض سے دست بردار ہو کر توقع رکھنا ایک بے محل اور بے جا توقع کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔

مغنتیہ کے بیانات نقل کرنے کے بعد (نقد) تنقید کرنے والا اس طرح تنقید کرتا ہے: بغیر اس کے ہم اس بارے میں تعصب سے کام لیں اور تعصب کی آگ بھڑکائیں استاد مغنیہ کی قدر دانی اور شکریہ ادا کرتے ہوئے ہمیں یہ کہنا چاہئے کہ ہم ان کے اس تجربیہ کی موافقت نہیں کر سکتے۔ ان کی احساساتی اور خاص روشن پر توجہ کئے بغیر ایک عام انسان یہ احساس کرتا ہے کہ شیعہ اور اہل سنت کا حکام کے ساتھ سلوک اور بر تاؤ بنیادی طور پر دو طرح کا رہا ہے۔ اسی طرح پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد یہ دونوں حکام کی حاکمیت کے تحت دو مختلف حالات میں زندگی بسر کیا کرتے تھے۔

اس کے بعد وہ اس طرح اضافہ کرتا ہے: وہ نظریات جو فقہائے عظام سے صادر ہوتے تھے وہ کوئی شخصی اور ذاتی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ وہ عام مسائل سے متعلق تھا کسی فقیہ سے صادر ہونے والا فتویٰ اس کی شخصیت اور ذات سے مخصوص نہیں تھا، بلکہ ان کے ماننے والے اور پیروی

کرنے والوں، مریدوں اور مقلدوں کو بھی شامل ہوتا تھا۔ لہذا کسی بھی مسئلہ کی اس طرح تحقیق و تجزیہ نہیں کرنا چاہئے۔ ان کے بیان میں ایک بہت بڑا اشتباہ اور غلط فہمی ہو گئی ہے جس پر کوئی ایک بھی محقق ان کی موافقت نہیں کر سکتا، اگرچہ یہ نظریہ کچھ ایسے حقائق اور مطالب پر بھی مشتمل ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ہمیں اپنے موقف اور نظریہ کے بیان میں شجاع اور صاف گو ہونا چاہئے، لیکن اس کے حدود اربعہ و فراموش نہیں کرنا چاہئے۔ بیان میں صراحت صرف ایک وسیلہ کی حیثیت رکھتی ہے نہ یہ کہ یہی ہمارا اصلی مقصد ہے لہذا اس صورت میں ہم نے اپنے مقصد کو وسیلہ پر قربان کر دیا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف موقف یہ ہے کہ ظالم حاکم سے متعلق شیعوں کا موقف یہ ہے جس کی بازاگشت ایک عین اور گھرے معیار کی طرف ہوتی ہے اس کی بنیاد ائمہ معصومین (ع) کا حکام کے ساتھ سلوک اور روایہ ہے اور شیعہ ان (ائمه معصومین (ع)) کے تابع ہیں۔ (۹)

پھر بھی یہ مسئلہ کا ایک رخ ہے۔ اور اس کا دوسرا رخ خود عوام ہی کی طرف پلٹتا ہے۔ مسئلہ صرف نہیں ہے کہ اہل سنت کی فقہی و کلامی عمارت نیز اہل سنت کا اجماع اور تاریخی تجربہ ان کے علماء کے متعلق ان کے سیاسی اور معاشرتی میدانوں میں ہمیشہ ان کے علماء کی کارکردگی اور فعالیت میں رکاوٹ پیدا کی ہے۔ اور ایسا بھی ہے کہ اہل سنت کے علماء کی ایسی محدودیت نے اس پوری تاریخ میں عوام کی سطح امید کو بھی محدود بنادیا ہے۔ ایک مذہبی عالم کے بارے میں ان کی فکر اور سوچ بھی شیعوں سے بہت زیادہ مختلف ہے اور شیعوں کا اپنے علماء کے بارے میں سوچنے میں فرق کے ساتھ ساتھ ان (شیعہ و اہل سنت) کی (اپنے علماء کے ساتھ) توقع بھی

ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔

اہل سنت کے درمیان ان کا مذہبی عالم و شخص ہے جو بالقوی انسان ہوا اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اسلامی علوم میں خاص مہارت کا بھی حامل ہے اور اسی لئے وہ اپنے دینی مسائل میں اس (علم دین) کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ (۱۰)

لیکن شیعہ نقطہ نظر سے ان کا عالم ان معیاروں سے کہیں اونچا ہے وہ لوگوں کے امن و امان کا مرکز اور ان کی پناہ گاہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ لوگ دینی مسائل میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں بلکہ اپنے ذاتی امور میں بھی اس کی طرف رجوع کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے سیاسی، سماجی اور معاشرہ کے مختلف مسائل میں بھی اس سے کسب تکالیف کرتے ہیں اور یہ ایسا کیوں ہے؟ اس فرق اور اختلاف کو فقط معاشرتی دائرہ میں تلاش نہیں کرنا چاہئے۔ ایک طرح سے اس اختلاف کا اہم جزو سماج اور معاشرہ ہے اور وہ اس کے اعتقادی اور نظری (Ideologic) اسباب کے تحت ہے۔ شیعوں کے نزدیک اجتہاد کے دروازہ کا کھلا ہونا اور زندہ مجتہد کی تقلید کا واجب ہونا، بالکل درست اہل سنت کے برخلاف ہے، یہ اہم ترین دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ اس کے لازم اور ضروری ہونے کا فطری اور منطقی نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں پر ضروری ہے کہ وہ لوگ اپنے جدید مسائل میں (حوادث واقعہ) چاہے جس قسم کا نیا مسئلہ ہو اور وہ جس موضوع سے بھی متعلق ہو، دینی ضرورت کے تحت زندہ مجتہد کی طرف رجوع کریں اور اپنے جواب کو اس سے حاصل کریں اور اس کے ذاتی نظریہ کو معلوم کریں اس لئے کہ یہی (یعنی اس سے سوال کرنا) اور اس کی اطاعت کے واجب ہونے کے لئے

معتبر اور قابل قبول ہے۔ اور ایک سنی عالم کی حیثیت، فتویٰ نقل کرنے والے سے زیادہ نہیں ہے، (اس عالم سے چار مجتہدوں میں سے کسی ایک مجتہد کا نظریہ معلوم کرنا) اور وہ فتویٰ بھی ایسا فتویٰ جو ایک ہزار سال سے بھی زیادہ سابقہ رکھتا ہے۔ (اسی کے مقابلہ میں) ایک شیعہ عالم اپنی نظر بیان کرتا ہے یا کم از کم کسی زندہ مجتہد کے نظریہ کو بیان کرتا ہے۔ نفسیاتی اور ذاتی اعتبار سے بھی وہ شخص جو اجتہاد اور مقام فتویٰ تک پہنچ گیا ہو اور جس کی روحی اور ذاتی حیثیت جو زیادہ سے زیادہ نقل فتویٰ کے آخری مرحلہ تک پہنچ پائی ہو ان کا باہم مقابیہ نہیں کیا جاسکتا اور ان میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے، اسی طرح ان لوگوں کی ذہنی اور ذاتی سطح جو اپنا جواب پانے کے لئے دو مختلف عالموں سے رجوع کرتے ہیں۔ اگر یہ فرق ماضی میں اسلامی مراکز خصوصاً اسلامی ممالک کے مذہبی معاشرہ کے بند ہونے کے سبب اور معاشرتی ثقافتی اور اقتصادی حالات کے بدلاو میں مستی کی بنا پر کھل کر سامنے آنے کا موقع نہیں تھا، آج اس فرق کے ظاہر کرنے کا موقع فراہم ہو گیا ہے۔

اس مقام پر نکتہ یہ ہے کہ یہ تفاوت اور فرق کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ایسا فرق ہے کہ کم و بیش یہ دونوں مذہبوں کی ابتداء سے چلا آ رہا ہے البتہ موجودہ دور میں پردة خفاء سے نکل کر سیاسی عرصہ میں معاشرتی تجلی حاصل کر لی ہے۔

اس سے قطع نظر کہ اہل سنت کے اپنے بہت سے ایسے امور ہیں جن میں وہ لوگ حاکم کو یہ حق دیتے ہیں اور تمام امور میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن شیعہ فقہ میں ان تمام امور میں فقیہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ یہ موضوع صرف سیاسی حیثیت کا حامل نہیں ہے۔ اس

کی معاشرتی حیثیت بہ درجہ ہا بہت ہی قوی اور بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور ایسی صورت میں شیعہ عالم بھی اپنے کو ضروری اختیارات کا حامل سمجھتا ہے اور لوگ بھی اپنے تمام امور میں اس (مجتہد جامع الشرائط) کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لہذا شیعہ عالم بھی اپنے آپ کو واجب الاتباع سمجھتا ہے اور لوگ بھی اس کی اطاعت کو ایک دینی فریضہ سمجھ کر قبول کرتے ہیں۔ ایسے مسائل اہل سنت کا معاشرہ اور ان کی تاریخ نے کبھی بھی ایسا تجربہ نہیں کیا ہے اور نہ ہی وہ ایسے تجربہ حاصل کرنے پر قادر ہیں اور بہت بعيد ہے کہ وہ (اہل سنت) آئندہ بھی اس بات کا تجربہ کر پائیں۔ (۱۱)

### دینی قیادت

دینی مرتعیت کا مفہوم اور مجتہد جامع الشرائط کی اطاعت کا واجب ہونا دقیق طور پر شیعہ فقہ اور علم کلام کے معیار سے وجود میں آیا ہے۔ یہ موازین اور معیار جس طرح سے کہ مجتہدین کرام کو ان کے بلند و بالا مقام پر پہنچاتا ہے، لوگوں کو بھی ان (مجتہدین کرام) کی اطاعت پر آمادہ کرتا ہے۔ بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ شیعہ حضرات اپنے روزمرہ پیش آنے والے مسائل میں مجتہدین کرام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر مذہب تشیع کی (شیعہ) بناؤٹ کچھ اس طرح ہے کہ وہ اس بات پر قادر ہیں کہ ایسے مجتہدین کی تربیت کر کے ان کو سماج کے واسطے پیش کریں۔ پھر بھی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ شیعہ علماء اپنے ہم پلہ سنی علماء کے مقابلہ میں جنگ طلب اور شجاع ترین رہے ہیں، بلکہ مسئلہ اس بات میں ہے کہ انھوں نے شیعوں کے نظری

معیار کو مضبوط کرنے والی حتیٰ ایسی خصوصیات کے موجدا اور بانی ہیں۔ (۱۲)

ایک شیعہ عالم اپنے عقاید پر بھروسہ کرتے ہوئے بغیر کسی شک و شہمہ اور کسی خوف و ہراس ایک حکومت کے مقابلہ میں ایسے مقامات پر جہاں وہ ضروری سمجھے قیام کرے ہے اور لوگوں کو اس قیام کی طرف دعوت دے۔ لیکن اس کے مقابلہ میں ایک سنی عالم اپنے عقاید کے کون سے حصوں پر تکمیل کر کے ایسا اقدام کرے۔ یہ صحیح ہے کہ سنی فقہ اور کلام میں بھی ظالم حاکم اور بادشاہ کے مقابلہ استقامت جس کو وہ جائز یا پھر لزوم کا قائل ہوا یہے مقابلہ کے کچھ نمونے ملتے ہیں لیکن اولاً یہ نمونے معارضہ اور نکراوہ (یعنی اس کے مقابلہ میں مخالف قول) سے دو چار ہیں۔ یعنی بہت سے مقامات پر اہل سنت کے درمیان بہت زیادہ مشاہد اور بہت ہی معتبر اقوال اس فکر کے مقابلہ موجود ہیں (اہل سنت کے نزدیک)۔ (۱۳) دوسرا یہ کہ کم از کم ہم یہ صراحة اور قاطعیت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جو قطعی نصوص (یعنی قرآنی دلیلیں اور روایات ائمہ) شیعہ فقہ اور کلام میں موجود ہیں وہ سنی فقہ اور کلام میں ہرگز اس صراحة و قاطعیت کے ساتھ نہیں پائی جاتی ہیں اور اصل نکتہ یہی ہے۔ ایسے حالات میں کس طرح ایسے علماء کے میدان میں آنے کی توقع کر سکتے ہیں جو اپنے اعتقادی و کلامی اور فقہی مسائل میں ذمہ داری کو قبول کر کے پابندی بھی کریں اور عین اسی عالم میں وہ ایسی جنگ طلب خصوصیات کے بھی مالک ہوں۔

اس نقطہ نظر سے یہ مسئلہ شخصی اور ذاتی مسئلہ نہیں ہوگا اور صرف شیعہ اور سنی علماء کی ذاتی خصوصیات پر ختم نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ یہ ان دونوں کے فقہی اور کلامی ڈھانچہ کا لب لباب ہے جس کے

سب ان کے عالموں اور ماننے والوں کو اہم سیاسی مسائل میں اور اس کے مقابلہ میں اپنا اپنا مسلک اختیار کرنے میں ان لوگوں کی دو طرح سے پرورش اور تربیت کی ہے۔ فطری طور پر اس فکری اور نظری معیار کو اس پوری طولانی مدت میں معاشرتی اور سیاسی بنیادوں اور ان کے مذہبی رجحان کی عمارت کو اپنی خصوصیات کے مطابق مستحکم اور استوار کر کے عملی طور پر شیعہ حضرات اہل سنت والجماعت اور ان دونوں مذہبوں کے علماء کو دو مختلف تاریخی، معاشرتی، فکری اور اعتقادی میدان میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ (۱۴) اگر ہم یہ چاہیں کہ ان دونوں (شیعہ اور سنی) کے فرق کی طرف توجہ دیئے بغیر ان کے بارے میں ملاحظہ کر سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہو گی البتہ یہ ممکن ہے کہ اہل سنت کے فعال جوانوں کا ایک مذہبی اور دیندار گروہ احزاب اسلامی کے ایسے مجموعہ میں (اسلامی گروہ) جمع ہو کر کسی ایک شخص کو سیاسی اور مذہبی ریاست کی کرسی پر بٹھا دیں لیکن یہ بہت سخت ہے کہ ایسا قدم اس لحاظ سے کہ دینی بنیاد اور اس کے لزوم سے عاری رہے اور اور ایسی توفیق حاصل کر کے اس کی بقاء کے ضمن ہو جائے اور ایسے سخت حقائق سے مقابلہ کرنے میں خود درہم برہم نہ ہو۔ اس سے قطع نظر ایسے محدود اقدام کو تمام معاشرہ اور سماج میں نفاذ نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ ہر معاشرہ اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ترقی کے راستہ پر گام زن ہو جاتا ہے نہ کہ کسی خاص گروہ کے منشا اور چاہت کی بنیاد پر کہ جس طرح وہ چاہیں معاشرہ کو اس ڈگر پر لگا دیں۔ (۱۵)

بہر حال یہاں پر ان اختلاف اور فرق کی کامل توضیح دینا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ بلکہ اس مقام پر اس نئتے کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ یہ دونوں مذہبوں کے حامل لوگ موجود ہیں اور ان

دونوں مذہبوں کی جڑیں تاریخ کی گھرائیوں میں پائی جاتی ہیں۔ (ان کے بارے میں قضاوت کرنے سے پہلے) یہ لازم ہے کہ علمی اور بغیر کسی پیش داوری اور پہلے سے فیصلہ کئے ہوئے ان کو پہچانا جائے تاکہ ہم نتیجہ کے طور پر ایک دوسرے کی بہتر پہچان کر سکیں اور اپنے اپنے اعتقادی خصوصیات سے زیادہ ایک دوسرے سے توقع نہ رکھیں اور ہر ایک کی وسعت کا لحاظ رکھیں۔ اس لئے کہ ایسی مشکلیں خصوصاً ان آخری سالوں میں موجود رہی ہیں۔

یہ معلوم کرنے کے لئے کہ شیعہ حضرات اور اہل سنت کی سیاسی افکار کی موجودہ اسلامی تحریک پر کیا اثر پڑا ہے، اس تحریک کی خصوصیات کو واضح و آشکار ہونی چاہئیں۔ البتہ اس بارے میں بہت کچھ کہا اور لکھا جا پکا ہے۔ بلاشبہ و شہہ ان آخری دس سالوں کے دوران (۱) میں الاقوامی سطح پر اس تحریک کے برابر (۱) لوگوں کے افکار اور نظریات کی توجہ کا مرکز نہیں بن پایا اور اپنی طرف جذب نہیں کر پایا ہے۔ البتہ اس مقام پر تحلیل و تجزیہ یا تکرار مقصود نہیں ہے بلکہ موجودہ زمانہ میں تاریخی اور معاشرتی پس منظر میں پوری تیسری دنیا جس کا ایک حصہ اسلامی دنیا ہے اس کے بارے میں چھان میں مقصود ہے۔

اپنے موقف سے اوپر اٹھ کر سوچنا اور جامع رویہ نگاہ سے، موجودہ اسلامی تحریک دور جدید کی تاریخ کا پیش خیمه (طلیعہ) ہے جو تقریباً تمام تیسری دنیا پر چھا گیا ہے۔ اگرچہ اس تاریخی دورہ ظہور کے نمونے تیسری دنیا میں یکساں طور پر نہیں ہیں، لیکن جزوی طور پر ساری دنیا میں یہ پایا جاتا ہے؛ اور اسلامی دنیا میں کچھ خاص اسباب کی بناء پر زیادہ قدرت کے ساتھ ظاہر ہوئی ہے۔ اگرچہ اسلامی دنیا میں بھی تاریخی حالات کے اعتبار سے اور دینی نفوذ کی گہرائی اور گیرائی

کے تحت نیز اقتصادی تکنیکی و معاشرتی اور خلاقیت کے معیار کے اعتبار سے نیز سیاسی جم کے بدلاو کے اعتبار سے، اس موج کی قدرت اور قوت مختلف ہے۔ لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ اس کی وسعت ہر جگہ موجود ہے اور یہ تمام اشیا پر اثر انداز ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہو گا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟

جس وقت سے تیسرا دنیا کے ممالک عصر جدید میں وارد ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے ورود کی کیفیت علاقوں کے اختلاف کے اعتبار سے بہت زیادہ مختلف تھی، ایک جدید تاریخی دور کا آغاز ہو گیا جو کم و بیش ۶۰ءی کی دہائی کے آخر میں اور ۷۰ءی کی دہائی کے شروع تک یہ (دور) باقی رہا۔ اس زمانہ کے بعد ایک دوسرا دور شروع ہوا، جو ازکم تہذیب و ثقافت، یا یہ اور معاشرتی لحاظ سے ان کی طرف جھکاؤ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جو اپنے پہلے والے دور سے بہت زیادہ اہم فرق کا حامل ہے۔ البتہ یہ فطری بات ہے کہ اس آخری دور میں تمام ممالک میں شروعات اور ابتداء کی تاریخ ایک نہیں ہے۔ تاریخی، اقتصادی اور سیاسی خصوصیات کے اعتبار سے ان تمام ممالک میں جلدی اور دیر سے بلکہ آخری دورہ میں شدت اور ضعف کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ ۶۰ءی کی دہائی کے آغاز سے لے کر ۷۰ءی کی دہائی کے آخر اور ۸۰ءی کی دہائی کے شروع تک عموماً تیسرا دنیا کی حکومتوں میں موجودہ اضطراب اور بے چینیاں بالخصوص اسلامی دنیا میں اس دور جدید کی سیاسی علامتوں کے عنوان سے رونما ہوئی ہیں۔ (۱۶) جو یا تو یکسر اور کاملاً اس تاریخی دورہ کی تخلیق ہیں یا ان خصوصیات کی زیر اثر قرار پائی ہیں۔

جس وقت سے تیسری دنیا والوں نے اس جدید تاریخ اور تمدن کے ساتھ وارد ہوئے ہیں، اب چاہے استعمار کے راستہ کو اختیار کیا ہوا اور چاہے زمانہ کے عمومی حالات اور فطری طور بغیر کسی سامراجی سیاست کو بروئے کار لائے ہوئے اس کام کو انجام دیا ہو، وہاں پر تاریخ کے نئے دور کا آغاز ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ اس سے پہلے وہ اپنے گذشتہ طریقہ پر زندگی بس رکرتے تھے۔ اس طرح ان کی چین، جاپان سے لے کر ہندوستان، ایران، مصر اور تمام افریقی ممالک اس دور جدید کی لپیٹ میں آگئے اور جنوبی امریکہ کے ممالک کچھ تاریخی اسباب و عوامل اور ملکی آبادی کی بناء پر ہماری اس بحث میں داخل نہیں ہیں۔ یعنی ہماری اس بحث سے خود بخود خارج ہو گئے ہیں۔ گفتگو ان ممالک کے اس گروہ کے بارے میں ہے جو خود اپنی ایک تاریخ اور مستقل تہذیب و تمدن کے حامل تھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بس رکر رہے تھے اور اچانک اس نئی دنیا کے رو برو ہوئے تو ان میں تغیر اور تبدیلی پیدا ہو گئی اور اس طرح سے ان لوگوں نے ایک نئے دور میں قدم رکھ دیا۔ بغیر اس کے کہیہ تاریخی صانح جنوبی امریکہ کے مانند لوگوں کا جو حق در جو حق بھرت کرنا، جو ثقافت اور تمدن کے لحاظ سے وہاں کے مقامی لوگوں سے بہت زیادہ فرق رکھتے تھے، اس کو قطع کر دیا جائے اور طرح طرح کی تبدیلیاں ان پر تحمیلی ہو جائیں۔ (یعنی ان کے چاہت کے خلاف ان پر لا ددی جائیں)۔ (۱۷)

ان سر زمینوں پر اس موجود تغیر و تبدل اور تبدیلی سے پہلے ان کی اپنی ذاتی تاریخی و ثقافتی خصوصیات ایک حدود اربعہ میں ٹھیں لیکن جس وقت سے اس (نئی تہذیب) سے رو برو ہوئے اور آہستہ آہستہ اپنے اندر گیرائی اور وسعت پیدا کر لی تو ایک نئے دور کا آغاز ہونا

شروع ہو گیا۔ یہ دور کچھ خصوصیات کا مالک تھا جو ہماری بحث سے متعلق ہیں ان میں سے چند اہم خصوصیتوں کی طرف اشارہ کریں گے۔

## شخصیات اور دانشوروں کی حکومت

اس دور کی اہم خصوصیت یہ تھی کہ دانشور اور پڑھا لکھا طبقہ جن کے ہاتھوں میں زمام حکومت اور اقتدار تھا، وہ طبقہ جدید تہذیب و ثقافت سے اچھا خاصاً متاثر تھا۔ باوجود اس کے کبھی اس طبقہ (دانشور اور شخصیات) کی تاثیر بہت ہی عمیق اور گہری اور کبھی تاثیر قبول کرنے میں والہانہ انداز اختیار کر لیتی اور اپنے آپ کو بھول جانے اور سرمست ہونے کی حد تک پہنچ دیتی تھی، اس کے برخلاف عوام کی اکثریت نے ۶۰ می ۷۰ میں کی دہائی کی ابتداء میں، مختلف معاشرتی و اقتصادی حالات کے تیزیاں است اور مضم بدلاؤ کے اعتبار سے سماج کے بسیط اور محروم ہونے اور حسب ملشابر اہ راست پورے طور پر اس نئی تہذیب کے اثر کو قبول نہیں کیا تھا۔ وہ لوگ اپنے روایتی اور قدیمی ماحول پر خاص طرز پر اپنی قدیمی روایت جوان کے پہلے والوں سے ان کو میراث کے طور پر ملی تھی اسی کے مطابق اپنی زندگی بسرا کر رہے تھے۔ ان کے مقدسات وہی قدمیم مقدسات اور ان کے زندگی گزارنے کا طریقہ، ان کی چاہتیں اور ان کا مثالیہ کردار اور نمونہ عمل (Idial) سب کچھ قدیمی طور طریقہ پر تھیں۔ اگرچہ تہذیب نو کے بعض عناصر، چاہے ان دانشوروں، روشن فکر اور پڑھے لکھے طبقہ کے ذریعہ یا وہ لوگ اپنی زندگی میں روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے اور تکنیکی چیزوں (Technologic) کے

روز افزوں دباؤ کے تحت ان کی زندگی کا جز بن گئے تھے، لیکن وہ مجموعی حیثیت سے اتنی مقدار میں اثر انداز ہو کر حالات میں تبدیلی لانے پر قادر نہیں تھے۔ معاشرتی، مذہبی، ثقافتی اور اقتصادی بنیادیں یا تو بالکل ویسے ہی اپنی ہی قدیمی شکل میں باقی تھیں اور یا ان میں جدید انقلاب کی روشنی میں اس حد تک تبدیلی نہیں آئی تھی کہ ان کی قدیمی روایات، رسم و رواج اور ان کی بنیادیں بالکل نابود ہو جائیں۔ (۱۸)

یہ تاریخ کا تیسرا موڑ یا دور تیسرا طرح اسلامی ممالک میں بھی دو اہم خصوصیات کا حامل ہے۔ ایک تو وہی خصوصیت ہے جسے سابقًا بیان کیا گیا ہے۔ یعنی دانشور، روشن فکر اور پڑھنے لکھنے طبقہ میں گہری تاثیر اور جن کے ہاتھوں میں ان کے معاشرہ کی زمام حکومت تھی ان لوگوں کا جدید تہذیب سے بے حد متاثر ہونا اور کم و بیش اپنی قدیمی تہذیب اور روایات سے دور ہو جانا (البتہ افراد، حالات اور ان کے علاقوں کے اعتبار سے اس تاثیر میں فرق پایا جاتا تھا) مذہب و ثقافت اور قدیمی و راشتوں اور رسومات عوام الناس کے ذریعہ ہمیشہ باقی اور زندہ رہیں۔ دوسری خصوصیت یہ تھی کہ تمام معاشرہ پر جو نظام حاکم تھا اس پر بغیر کسی اختلاف اور نزاع کے قہر بر ساتے ہوئے اپنے مقدس نظام کو مضمون ارادہ والے نظام اور سماج کے کلی نظام پر تہذیب نو کو مسلط کر دیا تھا، البتہ یہ تسلط اور قبضہ بھی ان دانشوروں کے ذریعہ وجود میں آیا۔ جو لوگ نئی تہذیب سے بہت زیادہ متاثر تھے یہ غلبہ اور اقتدار ایک طرف سے ان دانشوروں اور شخصیات کے پختہ اعتقاد رائج سے متعلق تھا جوئی تہذیب کی مطلقاً برتری کے معتقد اور قائل تھے۔ (۱۹) اور دوسری طرف سے ان عوام سے متعلق تھا جن کو ضمی طور پر وہ عوام الناس

اقرار کر رہے تھے کہ اگر ایک خاص ماحول میں قدیمی روایات کے مطابق اپنے معاشرے میں زندگی بس کر رہے تھے، لیکن وہ ایک طرح سے اس نئی تہذیب کی بالادستی اور برتری کا یقین رکھتے تھے۔ ایک ایسا اعتماد اور اطمینان کم سے کم واضح طور پر تہذیب کی بہ نسبت مخالفت کا اعلان نہ کرنے کے ذریعہ حاصل ہوا۔ اگرچہ بعض لوگوں نے خود جوش، وقیٰ اور ناپائیدار مخالفت بھی کی جو اس نئی تہذیب کے خلاف دیکھنے میں آئی ہیں، لیکن یہ مخالفتیں منظم نظام کے تحت، دائمی، پائیدار سوچے سمجھے نظام کے تحت نہیں تھیں۔ بے شک اس دوران تہذیب نوکو تسلط بخشنے میں استعماری طاقتوں اور سامراج نے بھی بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ (۲۰)

اجمالی طور پر اس تاریخی دور کی یہ فطرت عموماً تمام تیسری دنیا کے ممالک اور اسلامی دنیا کے ملکوں کی دور حاضر کی تاریخ بھی یہی رہی ہے۔ عوام الناس کی اکثریت اور ان سے متعلق تہذیب و ثقافت موجودہ پُرکار، فعال، سیاسی، معاشرتی اور تہذیب تمدن کے ساتھ موجود رہی ہے۔ اس جدید تر طرز کے مالک دانشوار اور نخبگان ہی حاکم مطلق تھے۔ ایک ایسی حاکمیت جو تاریخِ جدید میں وارد ہونے سے پہلے جو کہ ظالمانہ حاکمیت کی اساس پر قائم تھی۔ صرف فرق یہ تھا کہ یہ لوگ اپنی حکومت کو ظاہری طور پر نئی (Modern) اور سفوارے ہوئے تھے اور اتفاقاً یہی ظاہری خوبصورتی، ان کی حکومت کی پائیداری میں زیادہ مدد کر رہی تھی۔ ان کا واحد ہدف اور مقصد یہ تھا کہ معاشرہ کو اس سمت لے جائیں جو ان کے لئے اہمیت اور ان کی خصوصیات کی طرف رہنمائی کرتا تھا اور یہ تمام چیزیں ظاہری طور پر تمام لوگوں کی رضا مندی

کے سبب انجام پاتا تھا کم از کم قدیم و راشتوں کے ورثداروں اور اس کی حفاظت کرنے والے مخالفین کے سکوت اور خاموشی کی بنا پر انجام تک پہنچتا تھا۔ (۲۱) البتہ یہ ہرگز اس معنی میں نہیں تھا کہ تہذیب و ثقافت اور گزشتہ میراث یکسر فراموش کر دی گئی تھیں اور نئی تہذیب کے دلدادہ اور جدت پسند دانشور حکام اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے۔ ایسا ہرگز نہیں تھا بلکہ کبھی کبھی قدیم و راشتوں کی حفاظت کی تاکید بھی کی جاتی تھی۔ بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ نئے اور ان کے اہمیت کے حامل نظام اور تہذیب نو کی کیفیت پر غور و فکر کے بعد اس کے بارے میں خوب چھان بین اور رفتار کی جاتی تھی۔ لہذا اس کی حقیقت سے بہت کم اور جو عام لوگوں کے درمیان موجود تھی، شاہت اور یکسانیت پائی جاتی تھی۔ گذشتہ زمانے کی ایسی تصویر اس کی ہویت و حقیقت، ضرورتوں، ان کے قلبی لگاؤ، مقاصد اور ثقافت، وہی معاشرہ پر حاکم ثقافت اور (نئی تہذیب کے علمبردار) حکام وقت یعنی دانشوروں کے ساتھ سازگار اور ہم آہنگ تھیں۔ (۲۲)

دقیق طور پر اسی کے تحت سبب عوام اپنی فعالیت کے اعتبار سے سیاسی اور معاشرتی زندگی میں فعال تھے۔ وہ لوگ ایسا وسیلہ تھے جو صاحبان قدرت اور معاشرہ کے جاہ طلب لوگوں کی خدمت میں آجاتے تھے، البتہ ہر دو فکریں جدیدیت کی علمبردار اور جدت پسندی کے عنوان سے سماج میں جانے جاتے تھے۔ اور عوام الناس اپنی کوئی خاص نظر نہیں رکھتے تھے اور کبھی کبھی بے توہنی اور خوف و حراس کے ساتھ حوادث پر نظر رکھتے تھے نہ تو وہ لوگ عقلی اور فکری اعتبار سے اس حد تک پہنچے ہوئے تھے کہ وہ لوگ جدید اور نئے نظریات کو حاصل کر لیں اور نہ

ہی اس بات کی قدرت رکھتے تھے کہ تہذیب نو سے مقابلہ کریں اور ان کی بلا منازع نئی تہذیب تمدن اور اس کی دعوت دینے والوں اور ان کے حامیوں جو کہ اس کے معاشرہ پر حاکم تھے اس کے مقابلہ میں آواز اٹھا سکیں۔ تمدن نو، اس کی دعوت دینے والوں اور ان کے حامیوں کے زرق برق نے لوگوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا تھا۔ یہ بھی اسی کے سبب ہے اس تاریخی دورہ کے سیاسی، معاشرتی بدلاو، تغیرات اکثران حکام (داشمندوں اور مفکروں) کے ذریعہ جو کہ موجودہ حاکم نظام کے خلاف سوچتے ہیں اکثر حکام یا جدا گانہ سونچ رکھنے والے شخصیت حاکم نظام کے ذریعہ اپنی موجودگی کو ثابت کر دیتے تھے، البتہ اس کو فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ اس میں جو ہری اور حقیقی فرق نہیں پایا جاتا تھا (یعنی بنیادی و اساسی مخالفت نہیں تھی) کیونکہ ہر دو طبقے صاحبان اقتدار (حاکم) اور چاہے ان کے سیاسی مخالف کہ ان میں کے اکثر سب کے سب طرز نو کی حامل شخصیات تھیں وہ لوگ Modernity (جدت پسندی) اور جدید تمدن کو مثالیہ کردار بنانے میں باہم مشترک تھے۔ اختلاف یا تو قدرت کے حصول کے بارے میں یا انداز اور سلیقہ کے بارے میں تھا۔ بعد والے دورہ کے بالکل برخلاف جو تغیر اور تبدیلی کو نہ تو یہ گروہ ایسا تھا جو عملی طور پر جو وہ لوگ ہیں جو اس کو وجود بخشتے ہیں۔ (۲۳) جیسا کہ ہم بیان کرچے ہیں کہ اس دورہ کے سیاسی اور معاشرتی یہاں تک کہ فکری اور ثقافتی انقلاب مغرب پرست جدت پسند دانشوروں کے ذریعہ وجود میں آتا ہے۔ عام لوگ انقلابوں اور اپنی معاشرتی زندگی میں ایک کنارہ ہو جاتے ہیں اور لوگ یا لا پرواہی کے ساتھ دنیا کے حوادث کا نظارہ کرنے پر چُکی سادھ لیتے ہیں یا ان کے ذریعہ اس نئی تہذیب کو مستحکم کیا

جاتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ لوگ بہر حال اس سے متاثر اور اس کے تابع ہیں نہ یہ کہ وہ خود فعال، سرنوشت ساز اور صاحب ارادہ بھی نہیں ہیں۔ اس مدت میں بھی قدرت دانشوروں اور شخصیات کے ہاتھ میں ہی تھی اور ان کے سیاسی قائدین، جو حکام وقت کے مقابل تھے وہ بھی انہیں دانشوروں میں سے تھے۔ گویا سیاسی اور معاشرتی فعالیت اور اثر کو قبول نہ کرنے کی صلاحیت عوام الناس کی عملی زندگی کے حالات سے زیادہ وسیع پیانہ پر وجود میں آتی تھی۔

---

## جو انوں کا میدان میں وارد ہونا

اقتصادی اور معاشرتی حالات کا تیزی سے بدلنا اور سیاسی ثقافتی دباؤ کا بڑھ جانا۔ ۵ یہ کی دہائی کی ابتداء اور اس کے بعد، ایک دوسرے تاریخی دور کے وجود میں آنے کے حالات ہموار ہوئے، جو زیر بحث ہیں۔ ایک ایسا دور جو فکری اور ثقافتی رجحان اور اسی طرح معاشرتی ضروریات، سیاسی اقتضا اور اس کے نظام رہبری کے لحاظ سے پہلے والے دور سے مختلف اور جدا ہے۔ تیزی کے ساتھ اقتصادی، صنعتی اور تکنیکی تبدیلی کا آنا (Technologic) قدیم معاشروں کا مختصر اور محدود ہو جانا بلکہ تقریباً ان تجارتی مرکز کا بند ہو جانا یہ چیزیں عام لوگوں کی اندر ورنی خواہشات کو چکنا چور کر دیتی ہیں۔ ان کے معاشرہ کو بند اور انحصار سے بچنے کے جدید علم و فکر اور فلسفہ سے رو برو کر دیتی ہے۔ جیسا کہ ان (عام لوگوں) کو اپنی قدیم تہذیب کی باوسطہ یا بلا واسطہ تو ہیں و تغیری اور ذلت ان کی قدیمی و راشتوں، رسم رواج اور دین و مذہب کے مقابلہ میں حساس اور ناراض کر دیتا اور تیوریوں پر بل آنے لگتے ہیں۔ عام لوگوں کا بڑے شہروں میں آباد ہونا، وہاں کی آبادی کا بڑھنا، گروہی مواصلاتی نظام میں وسعت، تعلیم و تربیت کا عام ہو جانا، طبقاتی تضاد اور مخالفت کی زیادتی، ایسے اداروں میں سستی اور کندی کا آ جانا بلکہ ان کا درہم برہم ہو جانا (ایسے ادارے) جو معاشر میں کسی شخص یا فرد کی مقام و منزلت اور اس کی شخصیت بنانے میں اساسی کردار ادا کرتے ہیں، (یہ تمام چیزیں) ایک نئی صورت حال کو جنم دیتی ہیں اور آخر کار ظاہری اعتبار سے روشن فکروں کی تجدید پسندانہ

حکومت جس کے پائے ثابت میں تزلزل ممکن نہیں ہے اور حاکم کی فکر اور آرزو نیز اسکی جدت پسندی کا لباس پہنتی ہیں۔ (۲۴)

اب یہ کہ لوگوں کی قلبی خواہش کس طرح منتقل ہو کر ختم ہوئی اور دوسرا دور کا کس طرح آغاز ہوا اور معاشرتی اور ثقافتی حالات اور اس کا مطلق العنوان تصرف کس طرح نابود ہو گئی اور ایسا رجحان اور یہ قلبی میلان قاعدة کیوں کرو جو دیں آیا اور یہ قلبی میلان علاقوں اور معاشرہ کے کس حصہ میں زیادہ قوی اور مستحکم تھا؟ یہ ایسے مسائل ہیں جن کی الگ سے مفصل بحث کی ضرورت ہے۔ اس مقام پر جو چیز اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ یہ دورہ (اس صدی کے) دو تین گذشتہ دہائیوں سے شروع ہوا، البتہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ شدت وضعف (کی ویادتی) تقدم و تاخیر تمام علاقوں میں اس کی علامتیں اور نشانیاں گذشتہ دہائی کے درمیان ظاہر ہو گئیں اور اس دور کی اہم خصوصیت حقیقت کی تلاش اور صرف اپنے آپ کو اہمیت دینا ہے۔ دوسری عبارت میں یہ کہا جائے کہ اس (دور) کا اصلی مقصد قومی، علمی، دینی، نسلی، سانی اصلاح اور حقوق کی طرف پلٹنا ہے، یہ چیزیں تاریخی اور ثقافتی امتیازات ہیں یہاں تک کہ اگر تجزیہ طلبی اور توڑ پھوڑ کا سبب بنے۔ (۲۵)

ایسے دورہ کی پیدائش کے مظاہر کو تیسری دنیا کے بہت سے ممالک میں تلاش کہ کیا جاسکتا ہے۔ تیسری دنیا کے بہت سے ممالک کے معاشرتی اور سیاسی اضطراب اور ناامنی، یہ اس مقام پر ان کے معاشرتی، سیاسی اور ثقافتی حالات کی طرف پلٹتا ہے اور اکثر اسی دور جدید کی پیدائش کا سبب ہے، اس صدی کی آخری دہائی کی اسلامی تحریک کو بھی ان طبقہ

بندیوں کے اندر جگہ دے سکتے ہیں۔ (۲۶)

دورہ جدید پہلے والے دورہ کے مقابلہ میں اہم تفاوت (فرق) کا حامل ہے۔ اس کی فطرت اور حقیقت کے اعتبار سے ہو یا اس کے معاشرتی اور ثقافتی حالات کے اعتبار سے اور یا اس کے مقاصد اور اس کی طرف جھکاؤ اور رجحانات (قلبی لگاؤ) کے اعتبار سے ہو۔ پہلے دورہ کی پیدائش نئی ثقافت اور تمدن کے ملابپ کا نتیجہ ہے اور گذشتہ تاریخی رہنمادر سے اُلٹے پاؤں واپس بلٹ آنے اور معاشرہ کوئی تہذیب سے ہم آہنگ کرنے کی پوری کوشش، اس مقام پر صاحبان قدرت اور حکام نے کم سے کم منتظمین (حکومت کے منتظمین) سے متعلق ہوتا، اس طرح کا تھا۔ یہاں اس کے مقابل ایک عکس اعمال سامنے آیا ہے ایسے آنکھ بند کر کے اثر قبول کرنے والے ملابپ کے مقابلہ میں بغیر کسی قید و شرط تابع ہونے اور اپنے آپ کو ان کی فکر کے مطابق ڈھال لینے کے علاوہ کچھ نہیں سوچتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ (معاشرہ) اپنی اصلاحت اور قدیمی حقائق کی طرف لوٹ جائیں۔ اگرچہ اس ہدف تک پہنچنے کے لئے انہیں بھاری قیمت ہی کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ وہاں پر قدرت اور حکومت کی باگ ڈور مغرب پرست دانشوروں کے ہاتھوں میں تھی اور وہاں کے لوگ عملی طور پر میدان سے دور تھے، وہ دور سے ان کی سیاست بازیوں کا ناظراہ کر رہے تھے اور یہاں پر حکومت اور اقتدار ان جوانوں کے ہاتھ میں ہے جو دور جدید کے معیار سے اپنا منہ موزے ہوئے ہیں۔ اور لوگوں کی اکثریت (عوام الناس) بطور فعال سیاسی اور معاشرتی زندگی میں وارد ہو گئی ہے۔ ان دو تاریخی مرحلوں کے آپس میں بہت زیادہ اختلافات کے باوجود، دوسرے مرحلے کی

پیدائش پہلے مرحلے کی حاکمیت کا فطری اور منطقی نتیجہ ہے۔ جدید تمدن نے تیسری دنیا میں داخل ہوتے ہی، اس طرح آنکھوں کو خیر کر دیا تھا کہ کسی شخص میں بھی اس سے مقابلہ اور لٹکر لینے کی ہمت تک باقی نہیں رہ گئی تھی۔ ایک مختصر سارگروہ اسی (جدید تمدن) میں ضم ہو گیا اور لوگوں کی اکثریت کسی شدید عکسِ العمل کے بغیر تماشائی بنی رہی اور اس کے مقابلہ میں سکوت اختیار کر لیا۔ لیکن یہ ان کی آخری تسلیم اور خود پر دگی کے معنی میں نہیں تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ان کے حوالہ کر دیا ہو (خصوصاً ان علاقوں میں جہاں کے رہنے والے روشن اور درخشاں تہذیب و ثقافت کے وارث اور مالک تھے۔) گویا ان پر ایک قسم کا سکتہ (بے ہوشی) طاری ہو گیا تھا اور یہ حالت (اس صدی کے) آخری دو تین دہائیوں تک اسی بے ہوشی میں باقی رہی اور ان لوگوں کا اس حالت سے خارج نہ ہونا دوسرے نورانی مرحلہ کا پیش نیمہ تھی۔

بہر حال یہ بھی لازم تھا کہ ایک مدت گزر جاتی اور حالات میں بدلاؤ اور انقلابات رونما ہوتے اور تجربے حاصل ہو جاتے اور اس کے ساتھ جس میں واقعیت کے خلاف نامطلوب حالات سے ٹکر لینا پڑتا اور موجودہ حاکم کے مقابلہ میں قیام کی جرأت و جسارت پیدا ہو جاتی، تاکہ اتنا بڑا تغیر و تحول پیدا ہو جائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ تیسری دنیا کے بہت سے ممالک کے بڑے بڑے اقتصادی اور معاشرتی انقلاب، اقتصادی اور معاشرتی تبدیلیاں دوسرے تاریخی مرحلہ کو وجود بخشنے اور ظہور میں لانے کے لئے بہترین حالات فراہم کرنے والی رہی ہیں۔ قدیمی معاشرہ کا تربیت یافتہ جوان بہت ہی کم اور ضروری خصوصیات سے محروم تھا جو قدرت، ثقافت

وتمدن اور موجودہ نظام حاکم کے مقابلہ کے لئے قیام کر سکے۔ اس کا امکان پایا جاتا ہے کہ ایمان میں استحکام اور پختگی اور دینی مسائل میں تعصب اس کو اس اقدام پر ابھارے اور یہ کوئی اقدام کر بیٹھے، لیکن یہ اقدام ایک بڑے حادثہ اور تحریک کو وجود میں نہیں لاسکتا ہے اور ایک جدید تاریخی دورہ کو اپنے ساتھ نہیں لاسکتا۔ عنوان مثال سکھوں کی تحریک جو ۸۰ء کی دہائی کے اوائل سے اب تک اپنی مرکزی حکومت کے مقابلہ میں سخت استقامت کے ساتھ مقابلہ کرتی رہی ہے، سکھوں کی تحریک سب سے زیادہ ان آخری دہائیوں میں ہندوستانی معاشرہ کے بہت بڑے تغیرات کی مرہون منت رہی ہے، نیز ہندوستانی قدرت مندو لوگوں کے دستور اعمال بنانے کی کیفیت کی بھی مرہون منت ہے۔ بے شک اگر بجز اس آخری سبب کے علاوہ تمام اسباب موجود ہوتے تو بنیادی طور پر ایسی تحریک وجود ہی میں نہیں آتی یا کم از کم ایسے حدودار بعہ اور اس میں اتنی استقامت اور شدت پیدا نہ ہوتی (۲۷)

موجودہ اسلامی تحریک بھی مندرجہ بالا نکات کی طرف توجہ دیتے ہوئے جائزہ لینے کے قابل ہے اور دینی اور سیاسی علامت کے عنوان سے اسلامی دنیا کا یہ دوسرا تاریخی مرحلہ ہے۔ اگرچہ یہ تحریک، تیسری دنیا کی غیر اسلامی حکومتوں میں اس کے مشابہ دوسری سیاسی تحریکوں سے مقایسہ اور موازنہ میں یہ تحریک وسیع اور کافی عمیق (و گہری) ہے، البتہ یہ خصوصیات اسلام اور اسلامی تمدن کی طرف پلیٹی ہیں۔

دین اسلام مورداً عقائدِ دین ہونے اور اسلامی تمدن اور ثقافت کے عنوان سے قبل فخرشان و شوکت والی میراث ہے، جو اور عین اسی عالم میں مسلمانوں کی موجودہ تاریخی حقیقت بنانے

کے اعتبار سے طرح موجودہ مسلمانوں کو سنوارنے والی ہے، اسلامی معاشروں کا جدید تمدن سے رو برو ہوتے ہی، اسلامی تمدن لگا تارکسی نہ کسی طرح سے نکتہ چینی کا مرکز تنقید اور حملہ کی آماج گاہ حتیٰ موروث تجاوز قرار پایا ہے۔ اگرچہ مسلمانوں نے بھی موجودہ تقاضوں کے تحت ان کے حملوں کا مقابلہ کر کے عکس العمل ظاہر کیا ہے، لیکن یہ عکس العمل کبھی بھی اس حد تک نہیں پہنچا کہ مغرب پرست حکام جو اسلامی مرکز پر قابض تھے ان کے افکار اور ان کی حکومت اور اقتدار کو ختم کر پائیں۔ اور اگر کبھی ایسے موقع پیش بھی آئے ہیں تو وہ بہت ہی محدود اور بے اہمیت اور سطحی تھے اور زیادہ تر یہ حالات دینی پختگی، استحکام اور اس میں بہت زیادہ پابندی سے وجود میں آتی تھی نہ کہ فکر میں بلندی، مطلوبہ معاشرتی اور ثقافتی پختگی اور بالیگی کے استعمال اور صحیح سوچ بوجھ کے سبب وجود میں آتی ہو۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مغرب (مغرب پرستی) اس مدت میں اسی طرح اپنا پورے اقتدار کے ساتھ ان کے اتهامات کے مقابلہ میں اپنا قبضہ اور تسلط جمائے ہوا تھا حتیٰ کہ اسلام کا دفاع بھی انھیں کی مدد کا محتاج اور نیازمند تھا۔ ان کی دلیلوں کا لب لباب اس طرح تھا کہ اسلام تبھی حق ہو سکتا ہے جب وہ اگر مغربی تمدن اور جدید تمدن کے معیار کے مطابق اور موافق ہو اس لئے کہ اسلام دراصل انہیں (مغربی تمدن) کی طرح ہے بلکہ وہ ہو بہ ہو وہی ہے۔ اس مدت میں ساری کوششیں صرف اس بات پر کی جا رہی تھیں کہ اسلام کے ایسا کوئی نیا تمدن کھو ج نکالیں اور اس طرح سے انہیں کی حقانیت ثابت ہو جائے۔ (۲۸)

یہ حالات تقریباً ۶۰ کی دہائی تک جاری اور برقرار رہے۔ لیکن وہ تمام اسباب جن کا ذکر

طوالت کا باعث ہے، اس بات کا سبب بنا کر مسلمانوں اور خاص طور پر جوان طبقہ اور طلباء (Students) تیسری دنیا کے اپنے ہم عمر ساتھیوں کی طرح، شدت و سرعت کے ساتھ، دوسرا راستہ اختیار کر لیں۔ اس طرح دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ جن ممالک میں اقتصادی، معاشرتی نیز شفاقتی، فکری اور مذہبی اور شفاقتی تغیرات میں تیزی و گہرائی زیادہ پائی جاتی تھی ان ممالک میں ایمان اور اسلامی تہذیب و ثقافت پر زیادہ ہجوم اور حملہ تھا اور اس پر مستقل دباؤ بننا ہوا تھا ان علاقوں میں اسلام بہت جلدی نمایاں ہوا اور طاقتوں اور عینیت تر ہو گیا اور انھیں ممالک کے ذریعہ دوسرے علاقے بھی اس کی لپیٹ میں آگئے البتہ معاشرتی، فکری و دینی روحان اور اس کے حالات کے اعتبار سے کس حد تک اس جدید مرحلہ سے سازگار ہو کر زیر اثر قرار پا گئے۔

## مشرقی سیاسی محاذ ((Bloc میں تبدیلیاں

یہاں پر مناسب ہے کہ مشرقی سیاسی محاذ (Bloc) کی موجودہ تبدیلیوں کو جو وہاں کے ساکن لوگوں، خاندانوں اور ملتوں کی مذہبی، دینی، قومی اور شفاقتی حقائق اور اسباب کا اثر قبول کئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں اشارہ کیا جائے۔ اگرچہ اس میں شک نہیں کہ اس (Bloc) سیاسی محاذ نے بہت سی مختلف دلیلوں (دلائل) اور اسباب کے ذریعہ تیسری دنیا کو دینی و ملی اور شفاقتی اصلاحت کی طرف لگا کر، ان کی اصلاحت اور حقائق کی طرف کھینچ لے گئی ہے، لیکن یہ بات بھی قبل انکار نہیں ہے کہ یہ دونوں موجودہ زمانہ میں اپنے مقاصد کو

پانے کے لئے کم و بیش ایک ہی مقصد کے حصول میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں اور ظن غالب کی بنا پر اپنے ہدف تک پہنچنے میں کامیابی کے لئے ایک دوسرے کی تحریک ہر ایک اپنے لئے راستہ کھون ہکانے کا سبب بنی ہے۔ اس بلاک (Bloc) (میں رہنے والے بعض قومی و نسلی اور خاندانی گروہ کی خود مختاری اور انفرادیت کی خواہش کبھی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ بلا شک و شمشہ اصلاح اور حقیقت پرستی اور انفرادیت کی لہر تیسری دنیا والوں میں تحریک کی آگزرو دوڑا دے گی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہو گا کہ بات کیا ہے اور وہ کیسے وجود میں آئی ہے؟

جیسا کہ تیسری دنیا کے موجودہ انقلابات اور تبدیلیاں عموماً ایک جدید تاریخی دورہ کے سبب ان ممالک کی تاریخ میں وجود میں آئی ہے، ان پیوستہ سالوں میں مشرقی سیاسی محاذ (بلاک) کے بہت عظیم اور بہت سریع اور تیز تغیرات کے بھی جدید تاریخی مظاہر میں سے ایک مظہرجس کا آغاز ایک مدت سے ہو چکا ہے اور وہ اسی طرح باقی ہے اور باقی رہے گا۔ ان دونوں دوروں میں جو بنیادی اور اساسی فرق پایا جاتا ہے وہ اسی میں ہے کہ پہلے تاریخی دورہ کا تعلق تیسری دنیا سے ہے اور اس کی تاریخ مختلف اسباب و عوامل کے زیر اثر ہے جن میں سے اکثر نظامی، سیاسی اور تکنیکی کمزوریوں کے زیر اثر ہیں، وہ کمزوری اسی علاقہ میں باقی رہے گی، لیکن تاریخ کا موجودہ اور آخری دوراً گرچہ وہ موجودہ زمانہ میں مشرقی بلوک (Bloc) میں ہے، لیکن یہ کہ (اولاً) اس کی پیدائش کے کچھ اسباب و عوامل بین الاقوامی دلائل اور وجوہات کے حامل ہیں اور صنعتی اور غیر صنعتی چیزوں میں تیز تبدیلیاں (چاہے وہ فوجی۔ مکنالوجی ہو اور چاہے غیر فوجی

ٹکنیکو لوجی ہو) ستر اور اسی کی دھائیوں میں ترقی یافتہ ممالک سے متعلق ہے۔ (۳۰) دوسرا اس لحاظ سے ہے کہ یہ نیمہ (مشرقی بلک) بین الاقوامی سطح کے دو بڑے سیاسی حصہ داروں میں سے ایک رہا ہے، لہذا اس کے مصلحت نتائج اس کے ملکی حدود سے بہت زیادہ وسیع اور بہت گہری حدود تک پہنچ جائے گا اور موجودہ دور کی پوری تاریخ میں ایک بہت بڑی گہری اور عین تبدیلی پر ہی تمام ہو گی۔

بہر حال سب سے زیادہ ہم اس دور کی خصوصیات کا حاصل کرنا ہے اور یہ کہ کیوں اور کس طرح یہ دور رونما ہوا ہے،؟ جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ اس دور کی پیدائش میں مختلف اسباب اور عوامل دخیل اور شریک رہے ہیں۔ یہاں پر اس دور ان جائزہ لینے کا مقصد وہاں پر اس حد تک ہے کہ ثقافتی حقائق، ثقافت کے اپنے عام مفہوم کی طرف پلٹتے ہیں

یہ کہ یہ خصوصیات کیا ہیں؟ اور اس کے پیدائش کے اسباب اور عوامل کون کون سے ہیں؟ اس نکتہ کے واضح اور آشکار ہونے کا لازم ہے کہ تہذیب و تمدن اور اس کی تینی تاریخ کا آغاز کس طرح ہوا؟ اور ان ممالک میں (اس سے مراد وہ ممالک ہیں جنہوں نے بعد میں مشرقی نیمہ (Bloc) کو ڈھوندھ نکالا) اس کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہا ہے (مشرقی بلک) ان ممالک میں کس طرح اپنے قدم جما کرو ہاں پڑھ گیا اور کس طرح ان ممالک میں جذب ہو کر اس نے اپنا کام شروع کیا؟ اور کیا کیا تغیرات اس نے پیدا کئے؟ اور قدیمی تہذیبوں، ثقافتوں، تمدنوں اور قومی ولسانی اور دینی و مذهبی و راثتوں اور مجموعی طور پر یہ کہا جائے کہ جو چیزیں اس سر زمین کے لوگوں کی تاریخی، ملی، قومی ماہیت اور حقیقت کو تعمیر کرنے والی ہیں ان

کے ساتھ اس (مشرقی بلاک) کا کیا روایہ رہا ہے؟ اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ اس معاشرہ پر حاکم طاقت (حکومت) نے اس بارے میں کیا موقف اختیار کیا؟ اور کس طرح اس نے صنعتی، اقتصادی اور معاشرتی میدان میں ان کو وسعت دے کر ترقی کے راستے پر گامزد کر دیا؟ آخر کار آیا قدیمی تہذیب و ثقافت کو بالکل نظر انداز کر دیا اور نئی تہذیب و ثقافت اور اس کی ضروریات اور چاہتوں کے علاوہ بالکل کچھ نہ سوچا اور یا مقامی تہذیب و ثقافت کے پہلنے پھولنے کے لئے کوئی موقع نہیں چھوڑا اور اسے دشمنی کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ (۳۱)

اس (نکتہ) بات کا جائزہ لینا زمانہ حال اور آئندہ کے بہت سے تغیرات کی بنیاد کو واضح اور آشکار کرتا ہے۔ اگرچہ مشرقی سیاسی مجاز (Bloc) کے بہت زیادہ محسوس اسباب و معوال جو اکثر سیاسی، اقتصادی اور صنعتی حیثیت کے حامل تھے وہ تبدیلیاں شروع ہو گئیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تحوالت اور تبدیلیاں قاعدتاً بدلاولانے والی پوشیدہ صلاحیتیں ایک اعتبار سے ان تبدیلیوں کا سبب بنی ہیں، اس کو اپنے فطری راستوں پر قرار پا جانا چاہئے تھا۔ البتہ ان راستوں میں سے ایک بہترین راستہ اور طریقہ حقیقت طلبی اور قدیمی روایتی رسم و رواج پر لگا دینے کا راستہ تھا۔ اکثر اُسی سوچ کے زیر نظر اور اس کے ماتحت ہے کہ تغیرات اور تحوالت، اس مقام پر لوگوں سے متعلق ہیں اور کھل کر سامنے آ جاتے ہیں اور قوی احتمال کی بنیاد پر یہ ماتحتی بھی موجودہ سیاسی اور معاشرتی تغیرات و تحوالت میں خود ہی مؤثر ہشم (حصہ) کی حیثیت رکھتا ہے، مستقبل میں بھی یہ اپنی اہمیت کو اسی طرح محفوظ رکھے گا۔

اس سے بھی زیادہ واضح انداز میں بھی کہا جاسکتا ہے کہ جدید تمدن نے شروع میں جنوبی یورپ

کے کچھ علاقوں اور اس کے بعد مغربی یورپ میں وجود میں آئے اور پھر اپنے پیر جمالتے وہاں پر یہ پھلا پھولا اور پروان چڑھا۔ یہ تمدن فطری طور پر طرح طرح کے تغیرات اور تحولات کا محصول اور شرہ تھا کہ عام طور پر مغربی یورپ کے ممالک کو رنسانس کے بعد میں آنے والی صدیوں پر محیط ہو گئے تھے۔ (یعنی ان پر پوری طرح مسلط ہو گئے) لہذا اس کے علاوہ کہ ان علاقوں میں انہوں نے اپنے مختلف تاریخی مراحل کو گذرا تھا، اپنے آپ کو ان سرزینیوں کے تاریخی، سیاسی اور معاشرتی حالات کے مطابق ڈھال لیا تھا اور موجودہ حالات کو بھی اپنے لئے سازگار اور ہماہنگ بنالیا تھا۔ یہ تمدن (تمدن نو) اسی درخت کا ایک پھل ہے اور یہ دونوں باہم کامل سازگاری اور فعالیت میں دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے اور مدقابل تھے۔

### توسیع اور ترقی کا براہ راست خالق نہ ہونا

لیکن یہ تناسب اور باہم سازگاری وہم آہنگی جو مغربی یورپ میں موجود تھی اور دوسرے علاقوں میں ہرگز ایسا نہیں تھا مجملہ مشرقی یورپ اور روس اگرچہ مشرقی یوروپ کے بعض ممالک مثل یوگوسلاوی (چک اسلوکی)، مشرقی جرمنی اور ایک حد تک مجارستان و لهستان گذشتہ اور موجودہ صدی میں کمیونیٹوں کے قبضہ سے پہلے یا تو وہ خود مغربی یورپ سے وابستہ تھے یا پھر کم سے کم اس کے ثقافتی مرکز سے وابستہ تھے یا بلا واسطہ اور تدریجی طور پر اس سے متاثر ہو رہے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوسرے مشرقی یورپی ممالک نہ ان (مغربی

ممالک) کے جغرافیائی مرکز سے کوئی تعلق تھا اور نہ ہی ان کے ثقافتی مرکز سے ان کا کوئی رابطہ تھا۔

یہ بات تحدہ روں (اب روں تقسیم ہو کر بہت سے ملکوں میں تبدیل ہو گیا ہے۔ (باقلم مصحح) کے بارے میں زیادہ صحیح ہے۔ یہ ملک خود ایک بڑا عظیم کے مانند ہے کہ جس نے یورپ اور ایشیا کے ایک بڑے حصہ کو اپنے اندر سمونے ہوئے ہے، مختلف قومیں، ملتیں اور مختلف ثقافتیں کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے۔ اس (روں) کے مغربی حصوں میں آباد غیر روی لوگ جن کی تہذیب و ثقافت اور خصوصیات مغربی یورپ والوں سے مشابہ ہے مثال کے طور پر بالکان کے ثقافتی مرکز سے وابستہ اور اس علاقے کے رہنے والوں کے مانند ہیں یعنی ان سے شabaہت رکھتے ہیں اس کے ایشیا کے گرد و نواح کے علاقوں کے لوگ مرکزی ایشیا اور ایشیا نے بعید کے لوگوں کی جیسی خصوصیات کے مالک ہیں یہاں تک کہ مغربی ایشیا کی قومیں اور اس میں زندگی بسر کرنے والی دوسری قومیں بھی اسی سے شabaہت رکھتی ہیں۔ (۳۲)

اگرچہ تمدن جدید کی ان سر زمینوں میں آمد اس حد تک کہ تیسرا دنیا کے ممالک میں اس کا وارد ہونا خاص طور سے وہ ممالک جو قدیمی اور روایتی زندہ ثقافتیں والی ممکنہ اور قدرت مند تھیں مشکل ساز نہیں تھیں، لیکن اس تہذیب و ثقافت کی آمد اور با خصوصیں اس کے وارد ہونے کی کیفیت اتنی زیادہ آسان اور بے زحمت نہیں تھیں۔ یہ پریشانیاں اور تکلیفیں ان سر زمینوں پر حاکم ثقافت اور نئی تہذیب و تمدن کے ٹکراؤ سے کہیں زیادہ پہلے تیسرا دنیا کے بہت سے ممالک کے مانند، بنیادی جڑوں کی حامل رہے، مختلف شعبوں میں معاشرے کے لئے صنعتی،

اقتصادی اور اجتماعی میدانوں میں معاشرہ کی تغیر کے لئے اب بھی بہت سی مشکلات موجود تھیں۔

مارکس کے نظری عقیدہ (Marxism) کی تابع حکومتیں خود ان ممالک پر حاکم، نظام پیش قدم لوگوں کے عنوان سے جدید تمدن کی وسعت اور صنعتی نوسازی اور اپنے معاشروں کو جدید (Modern) بنانے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ نئی ساخت و ساز سے ان کا مسلح ہونا جوان کی نظر میں بطور کامل اشتراکیت کے نظام میں نمایاں ہو کر چک رہی تھیں اور متحمی تھیں، فوجی و سیاسی اور اقتصادی طاقت کو ان ممالک میں متصرف بنا کر مقامی، قومی اور دینی ثقا فتوں کی حقیقت جیسے تھی ان کو دیسے ہی ظاہر ہونے سے منع تھیں۔ یا ان لوگوں کو سانس لینے کے لئے کوئی موقع فراہم نہیں ہونے دیا آخر کار ان لوگوں کو صرف اتنی فرصت دی جاتی تھی کہ وہ اپنی تہذیب کو مارکس کے نظریہ سے مطابقت دے لیں اور اسے اپنے دین اور ثقا فت کے نام سے لوگوں کے سامنے پیش کریں اور اس تفسیر کو درحد امکان مناسب ترین تفسیر سمجھ کر قبول کریں اور اسی کے مطابق عمل کریں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ مارکس کے نظریہ کو مطلق العنان اور آزاد چھوڑ کر اس کو حقیقت کی شناخت کا معیار قرار دینے کے ساتھ ساتھ اس کو بہترین اور آخری راہ حل سمجھ لیا جائے اور اس فکر و نظر کی رعب و حشت اور طاقت کے بل بوتے پرتلغ و ترونج کر کے اس کو منوالیا، یا موجودہ اور راجح تہذیبوں اور ثقا فتوں کو زبردستی بے حس کر کے پر دہنغا میں ڈال دیا، اس کے بغیر کہ اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں یا اس کو ذرا اس بھی کمزور کریں۔ (۳۳)

مشرقی خیمه (Block) کے بعض ممالک کا فعال، خلاق اور عمومی سہم نہ رکھنے کے سبب تمدن نو کے وجود میں لانے اور اس کے (چھلنے و پھولنے) ترقی دینے میں کسی سیاسی کردار کا حامل نہیں ہے بلکہ کبھی کبھی ان ممالک کا اس ثقافت سے تضاد اور اختلاف اور ان کی بیگانگی اور اس کے باہت اس مقام پر مفید اور کار آمد تجربہ کا نہ رکھنا اور اشتراکیت اور مارکسیسم کے قابل میں ان حکومتوں پر تقابلیں ہو جانا (خود تمدن جدید کی تجلیات میں سے ہے یہ اسی صورت میں ہے کہ مغربی یورپ کے حالات و احوال انسیویں صدی کے وسط میں اس جدید تمدن کے حالات کے لئے مقتضی ہوئے بلکہ اس کی ضرورت محسوس کی۔) (۴)

فوہی اور سیاسی آمرانہ نظام اور اس چیز کا باعث ہوئی کہ مقامی و علاقائی تہذیب و تمدن اور ثقافتوں کو اپنے اظہار وجود اور موجودہ صورت حال سے مطابقت دینے کی انہیں مہلت ہی نہ ملے، یا وہ خود اپنے آپ خاموشی اختیار کر لیں یا ان کو زبردستی سکوت کے لئے مجبور کر دیا جائے۔

### قدیمی و راشون کے بارے میں حساسیت

ایک طرف مرکزی حکومتوں کا دباؤ اور تہذیبوں اور ثقافتوں سے وابستہ لوگوں کو اپنے قدیم اور وراثتی تہذیب کی نسبت حساس بنارہاتھا اور دوسری طرف سے موجودہ صنعتی اور اقتصادی تغیرات کو اپنے اور اپنی حقیقت کے بارے میں سوچنا جوان حساسیتوں میں جلوہ گرتھا، اس چیز پر آمادگی کے تمام حالات فراہم کر کے ان کو مستحکم اور قوی بنارہاتھا (جیسا کہ ہم پہلے بیان

کرچکے ہیں) اقتصادی اور صنعتی تغیرات اس کے بالکل بخلاف لوگوں بالخصوص جوانوں کو قدیمی میراث اور تمدن کے بارے میں یہ تصور چاہے مذہبی ہو یا تاریخی اور یا ثقافتی و راثت کے بارے میں ہو، طولانی مدت میں آہستہ آہستہ اس سے تعلق بڑھا رہا ہے۔

عموماً یہ ممالک اس سے پہلے کہ سالم اور کھلی فضا میں بغیر کسی امر (حکم) کے دباو کے اس نظری اعتقاد سے مسلح ہو کر جو اس بات کے مدعا تھے کہ وہ بہشت جس کا آخرت میں وعدہ کیا گیا ہے اس کو روئے زمین پر لے آئیں گے، نئی تاریخ کو نئے تمدن کی روشنی میں آزمائیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے اور ملی اور قومی مصلحتوں کے بارے میں فکر کرنا سیکھیں، وہ اپنی ہی تعمیر پر مجبور ہو کر خود اپنے کو اشتراکیت کی خصوصیتوں اور اعتقاد کے مطابق سنوارنے میں مشغول ہو گئے۔ ان کی اقتصادی و صنعتی وسعت اور معاشرہ اور ثقافت کی ترقی کے ساتھ ساتھ قدم بقدم اپنی قدیمی اور قومی و راثتوں کی حفاظت کے شعور کو بھی بیدار کریں اور ملی بھیتی اور اتحاد کو تقویت بخشنیں وہ لوگ ایسی صلاحیت کے مالک نہیں تھے۔ (۳۵) البتہ یہ مشکل اس وقت تک باقی رہی جب تک ان کے سر پر فولادی ہٹھوڑا پڑتا رہا اور اظہار کرنے کی جربت نہیں تھی لیکن جیسے ہی دباو کی شدت اور زور کم ہوا، حقیقت خود بخود کھل کر سامنے آگئی۔

یہ اہم ترین دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے جو مشرقی یورپ کے ترقی یافہ اور صنعتی ممالک میں قومی بے چینی اور اضطراب کے نہ پائے جانے کو واضح اور آشکار کرتی ہے۔ ان ممالک کا ترقی حاصل کر لینا اور صنعتی اعتبار سے ترقی یافہ ہو جانا مارکس کے نظری اعتقاد کی تابع حکوم

متوں سے پہلے والے نظام کا مر ہون منت ہے۔ یہ اس معنی میں ہے کہ وہ لوگ تسلط سے پہلے کافی آزاد فضائیں، جدید تمدن کا تجربہ کر چکے ہیں اور اس تجربے کے درمیان ملی اور معاشرتی مطلوبہ اتحاد پا چکے ہیں۔ البتہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے اسباب کی کارکردگی کو نظر انداز کر دیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ان کی صنعتی اور اقتصادی ترقی اس لحاظ سے ہے کہ ان کی ترقی کی کافی آزاد ماحول اور کھلی فضائیں مضبوطی اور قاطعیت کے ساتھ بنا دیا رکھی گئی ہے اور یہ بھی کوشش کی ہے کہ ملی و قومی اتحاد اور انسجام کو مقتدرانہ طور پر بدیہی کے عنوان سے پیش کرے۔

اگر ان حادثات کے برخلاف دیکھنا چاہیں تو روس کی آزادی طلب ریاستوں کے نظریہ میں روس کے مختلف صوبوں یوگوسلاوی، رومانی اور بلغارستان کی قومی کشیدگی میں جنوبی دیکھ سکتے ہیں۔ روس کی جنوبی جمہوری ریاستوں کے موجودہ رجحانات میں بھی یہی حکم نافذ اور راجح ہے۔ اگرچہ عملی رجحانات کا عملی ڈھانچہ ان آزاد ریاستوں (حکومتوں) میں اس لحاظ سے ہے کہ اس کے رہنے والے (باشندے) عموماً مسلمان ہیں لہذا بالٹیک کے علاقہ کی مرکزی جمہوری ریاستوں میں اس کی عملی کیفیت میں فرق پایا جاتا ہے، یہ تقاویت ایک طرف سے دین اسلام کی وجہ سے ہے کیوں کہ اس کے مقدسات مختلف اور بلکہ جدید ثقافت کے مقدسات کے بالکل برخلاف ہیں بلکہ مارکس کے نظام کے مطابق چلنے والی حکومتوں اور اس کے رسم و رواج اور نئی تہذیب و تمدن کے قضاہ (خلاف) کی طرف پہنچتا ہے اور دوسری طرف سے ثقافت کی حقیقت جس کو یہ دین وجود میں لایا اور اس کو پالا پوسا اور پروان چڑھایا

ہے۔ (۳۶)

بالشیک کے علاقہ کی موجودہ ثقافت عیسائیت سے متاثر ہے اکثرًا کیتوںکے عیسائی اور بعض ارتھوڈکس عیسائی ہیں۔ اور پروٹستان سے پرورش پا کر موجود میں آئی ہے۔ لہذا روں کی جنوبی آزادریاں تو پر حاکم ثقافت سے زیادہ نئی ثقافت میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ خود مختار اور آزادی خواہ جنوبی آزادریاں تو کے تغیرات و تحولات کی ماہیت مذہبی حقیقت کی بہ نسبت قوی اور ثقافتی حقیقت سے زیادہ مشابہ ہیں لیکن چونکہ یہ ثقافت اسلامی ثقافت ہے نہ کہ عیسائی ثقافت لہذا اچند جہات کی بنا پر مرکزی بالشیک کے علاقہ حقیقت کے جو رجحانات سے متفاوت اور مختلف ہے۔

جو کچھ بھی اوپر کہا گیا ہے اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ سیاسی، بین الاقوامی اور اقتصادی یا دوسرے اسباب مثال کے طور پر آزادی خواہی اور مغربی سطح کے برابر سطح زندگی لانے کی چاہت اس درمیان ان باتوں کا کوئی دخل نہیں تھا اور اگر اس کا حصہ مان بھی لیا جائے تو بہت ہی کم تھا۔ بلکہ اس معنی میں ہے کہ سب سے زیادہ اہم اور حالات کو بدلنے والے مقامات میں سے ایک مقام کو تخلی بخشنے اور یہ کہ اس کی پیدائش کے اسباب اور کیفیتیں کیا ہیں اور انقلاب برپا کر کے پورے دورہ کی اصلاح کرنے کے حالات کو اجاگر کیا جائے۔ اس کے شیبہ رجحانات کی پیدائش کے اسباب اور کیفیتوں کا تیری دینا سے کیا فرق پایا جاتا ہے؟ اب اپنی اصل بحث کی طرف پلتے ہیں۔

## گذشتہ حقوق کی تلاش

اسی ترح سے اصلاحت اور حقوق کی طرف قلبی جھکاؤ، حتیٰ بہتر یہ ہے کہ ہم اس طرح کہیں کہ ان حقوق اور اصلاحت کی طرف ہجوم بڑی ہی تیزی سے شروع ہو گیا تاریخ کے اس مرحلے میں یہ فکر سب سے زیادہ ترقی طلب اور سب سے زیادہ اپنے حامی رکھنے والی موجودہ معاشرتی اور سیاسی فکر تھی، لہذا دوسرا بہت سے لوگوں کو جو موجودہ سیاسی حکومت سے ایک طرح سے ناراض اور ہم آہنگ نہیں تھے، ان لوگوں کو اس فکر نے اپنے زیر سایہ ٹھینچ لیا۔ یہ بالکل اسی سبب کے تحت ہے فکر کے زیر سایہ بہت سی طاقتیں جمع ہو گئی ہیں جو عناد، بغاوت اور سرکشی کی حالت سے دوچار ہیں اور کبھی کبھی ان کے خلاف سازشیں رپنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ وہ معاشرے جو بڑی تیزی کے ساتھ جدت پسندی کرواج دینے کی ہوا میں لگے ہوئے ہیں وہ لوگ خاندانی، تربیتی اور اخلاقی حیثیت سے فاقد ہیں اور کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ جس وقت اقتصادی، صنعتی اور معاشرتی تغیرات کا جنم (کسی معاشرہ میں) اس کی ہضم کرنے کی صلاحیت سے وسیع ہو جس کو سماج اور معاشرہ برداشت نہ کر پائے تو ایسی مشکلات کے جھینکنے کے لئے اس کا انتظار کرتے رہنا چاہئے۔ (۳۷)

مندرجہ بالا نکتہ کی طرف توجہ دینا تیسری دنیا کی موجودہ سیاسی تحریکوں کی موجودہ حالت کو بھی صحیح سمجھنے کے واسطے اسلامی تحریکیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمام موجودہ طاقتیں جوان کے اندر پائی جاتی ہیں، ان مقاصد کا عقیدہ رکھتے ہوئے اس پر کار بند ہوں، بلکہ وہ ان تحریکوں سے اسی لئے وابستہ ہیں کہ وہ اپنی قلبی اور باطنی خواہشات کا مناسب

جواب دینے کیلئے اس راہ سے بہتر کوئی اور راہ نہیں پاتے ہیں اسی لئے کہ موجودہ حالات سے مکر لیماں کی افکار کے نقطہ مرکزی کو تشكیل دیتا ہے، اسے تلاش نہیں کر پائے ہیں۔

اس واقعہ کے مختلف اسباب ہیں۔ لیکن وہ تمام اسباب اسلام اور اس کی استثنائی خصوصیات کی طرف پہلتے ہیں۔ اسلام پورے موجودہ دور میں، نہ صرف ایک دین کے عنوان سے، بلکہ تہذیب و تمدن اور ثقافت کے خالق اور اسلامی ماہیت اور حقیقت کے اعتبار سے بھی اس پر حملہ اور تجاوز کیا گیا۔ لہذا انی اسلامی تحریک، نہ صرف یہ کہ وہ اسلام کی عظمت اور تقدس کے ساتھ دوبارہ واپسی کے خواہاں ہیں ایک عقیدتی اور باعظمت نظام ہے، بلکہ اسلامی وراثتوں اور ان پر اعتماد اور بھروسہ کرنے کے بھی خواہاں ہیں۔ جدید تاریخی دور میں تیسرا دنیا والوں کی اپنی اصلاح و حقیقت اور انحصار طلبی مسلمانوں کے درمیان وراثت اور اسلامی ماہیت اور حقیقت کی طرف بازگشت کی صورت میں نمایاں ہوئی ہے۔

اسلام اپنی پوری گذشتہ تاریخ میں کبھی بھی کسی کے تحت تسلط اور دباؤ میں نہیں تھا، تا کہ وہ اپنے پیروں کو پیچھے ہٹائے اور زندگی کے فعال معاشرتی، سیاسی اور ثقافتی میدان کو چھوڑ کر ہٹ جائے، لیکن ایسا دباؤ پورے دور جدید میں عملی طور پر موجود تھا۔ یہ دباؤ نہ یہ کہ صرف جدید نہیں تھا اور ماضی میں اس کی کوئی نظیر نہیں تھی بلکہ اس (اسلام) کے اندر ورنی اور ذاتی خصوصیات کے مخالف بھی تھا۔ جیسا کہ دوسرے ادیان سے شمولیت اور پھیلاؤ کے اعتبار سے اسلام کی طرح ان کے پاس اصلاح پسندی نہیں پائی جاتی ہے۔ لہذا یہ لوگ بہتر طریقہ سے عصر نو کے دباؤ میں آسکتے ہیں اور اس سے ہماہنگ ہو سکتے ہیں۔ لیکن دین مقدس اسلام ایسا ہرگز نہیں

کر سکتا اور نہ ہی مستقبل میں ایسا کر سکتا ہے۔

مغرب پرست مسلمان تجزیہ نگاروں یا وہ اہل یورپ جن کی نظر جہاں اسلام کے حوادث اور واقعات پر رہتی ہے، وہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا تھے، وہ تھی کہ مسلمانوں کی گذشتہ صدی میں مقابلہ اور استقامت صرف ان کا خالص تعصب اور دین میں اندھی تقلید کی بنا پر تھا جو آہستہ آہستہ زمانہ کے ساتھ ساتھ نابود ہو جائیگا، وہ لوگ اسی حساب سے مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ لوگ اس دین اسلام کی ذات اور اس کے اندر پائے جانے والے جو ہر سے بے خبر اور غافل تھے اور یہ بھول گئے تھے کہ وہ چیز جو نئے زمانہ کے دباؤ کے ساتھ سازگار اور ہم آہنگ نہیں ہے وہ خود اسلام کا ذاتی جو ہر ہے نہ یہ کہ ان (انگریزوں) کے کہنے کے مطابق اس کے ماننے والوں کو متعصب بنیاد پرست اور رجعت پسند کہا جائے۔ (۳۸)

جو کچھ یہ لوگ (انگریز) اور مغرب پرست مسلمانوں کو، اتنی بڑی غلطی کی طرف کھینچ لایا، یہ اصلاح طلبی کا راستہ تھا، جس کو عیسائیت نے طے کیا اور تقریباً دوسرے تمام ادیان نے بھی کم و بیش اسی راہ کو طے کیا۔ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اسلام بھی ایک دین کے عنوان سے اسی راستہ کا انتخاب کر کے اس پر گامزن ہو جائے گا۔ مگر ایسا نہ ہوا اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ اسلام کی حقیقت، عیسائیت حقیقت سے مختلف ہے اور اپنے ماننے والے مسلمانوں سے اسی ماہیت اور حقیقت کے لحاظ سے توقع بھی رکھتا ہے۔ ایمان کی شرط، اس دین کی کلیت اور تمامیت میں ایمان شرط ہے (اسلام) اور اہمیت کا حامل یہ تھا کہ عیسائیت کی طرح اس کلیت کو بانٹا نہیں جاسکتا۔ (یعنی تقسیم کے قابل نہیں ہے) مومنین اور زمانہ کا ہر دور میں اجماع

اصول اور اس کے حدود اربعہ کی تعریف (اور اس کی حد بندی) میں، عیسائیت کی طرح، کوئی مداخلت نہیں تھی۔ اس موضوع کی اہمیت کے لحاظ سے اس کا اجمالی جائزہ لیں گے۔

### اسلام، عیسائیت اور تمدن جدید

دین اسلام اور عیسائیت جدید تمدن سے ملاپ کے بارے میں مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ تمدن عیسائیت کے آئین میں، پلا بڑھا اور اسی کے زیر نظر پروان چڑھا اور موجود ہو گیا ہے لہذا اس (عیسائیت) کی اس (نئے تمدن) سے ہم آہنگی اور سازگاری اسلام کی بہ نسبت کہیں زیادہ تھی اور اب بھی ہے، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ عیسائیت ایک دین کے عنوان سے اپنے کو ان تغیرات کے ساتھ جو اس تمدن کے ترقی کرنے سے پیدا ہوئے اور نئی نئی ضرورتیں علمی، سماجیاتی، سیاسی اور رفتاری اخلاقی اور تربیتی مختلف میدان میں پیدا کردی تھیں وہ اپنے آپ ایک طرح سے تمدن نو سے مطابقت کر سکتی تھیں اور یہ مطابقت پہلے درجہ میں خود اس دین کی ذاتی خصوصیات کی مر ہون منت تھی۔ (۳۹) عیسائیت کو اس کے مرکزی نقطہ سے تعبیر کیا جاتا تھا یعنی حضرت عیسیٰ اور کتاب انجلیل کے پیغام اور دستورات اور عہد عقیق سے بھی تعبیر کیا جاتا تھا، جو بعد میں عیسائیت کے ایک جز کے عنوان سے قانونی طور پر پہچانا جانے لگا، اور اس کے کچھ خمنی حصے جو کلیسا کے پادری (روحانی) اور اہل کلیسا کے ذریعہ تدوین کئے گئے تھے، اس میں اضافہ کر دیا گیا تھا تاکہ عیسائیت کو ایک ایسے جامع و کامل دین میں تبدیلی کر دے جو قرون وسطی میں مومنین، تمام مادی، معنوی و ذاتی اور معاشرتی امور پر مشتمل تھی۔

قرون وسطیٰ میں یورپ پر عیسائیت اسی طرح حاکم تھی جس طرح اسلام اس دور کے مسلمانوں پر حاکم تھا۔ یہ دونوں دین یکساں طور پر اپنے ماننے والوں کی تمام مختلف جہات سے فردی اور اجتماعی زندگی میں ضرورتیں پورا کرتے اور فعالانہ طور پر حاضر رہتے تھے، اس فرق (تفاوت) کے ساتھ کہ اسلام کی تمامیت ذات خود اسی سے وجود میں آئی تھی، یعنی قرآن و سنت سے پیدا ہوئی تھی اور صرف اس زمانہ کی عیسائیت کی حقیقت بعض ابتدائی کے ایک حصہ کی طرف پلٹتی تھی۔ حقیقت میں یہ کلیسا کے پادری اور معنوی روحانیوں (پادریوں) اور کلیسا والوں کا اجماع ہی تھا جو عیسائیت کے خلاء اور کم و کاست کی تلافی کیا کرتا تھا تا کہ ایک جامع اور کامل دین میں تبدیل ہو جائے۔

یہ فطری بات ہے کہ یہ دونوں دین اس دباؤ کے مقابلہ میں جوان کے مقابلہ کے لئے اٹھتا تھا ان کے عقب نشینی اور اس کی واپسی کا خواستگار تھا، و مختلف کیفیتوں کا عکس العمل ظاہر کریں، ایک جگہ پر خود یہی دین تھا جو اس کے اصول و قوانین اور بنا دوں اور اس کے حدود اربعہ کو بیان اور معین کرتا تھا اور دوسری جگہ پر اس (دینی) مجموعہ کے کچھ حصے شارع مقدس کے ذریعہ نہیں بلکہ بعض دوسروں کے ذریعہ اگرچہ وہ لوگ بھی مقدس اور معتبر تھے مگر وہ لوگ ہرگز شارع مقدس کے ہم پلہ اہمیت حاصل نہیں کر سکتے تھے، ان کے ذریعہ اس دینی مجموعہ کی توضیح اور تعین کی جاتی تھی۔ اہمیت کی حامل بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی رائے کا اعتبار اور ان کا جحت ہونا بھی جن کو خود دین سے حاصل کرنا چاہیئے نہ کہ مومنین کے اجماع اور اتفاق سے۔ یہ اہل کلیسا کا اتفاق اور اجماع تھا جس نے قدیسین اور کلیسا کے روحانیوں اور پادریوں کو اس

مقام و منزلت پر لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ ان کے نظریات اور آراء کو دین کے برابر اور قانون کا درجہ دیکر اس کا ایک حصہ سمجھ لیا جائے۔

عملی طور پر بھی یہ دونوں (دین) جدید تدبیان کے مقابلہ میں حقیقی طور پر اس کے رقبہ بلکہ اس کے مخالف محسوب ہوتے تھے، وو طرح سے رد عمل کا اظہار کیا۔ عیسائیت نے ایک طویل عرصہ تک اس کا مقابلہ کیا مگر یہ مقابلہ فطری طور پر تاریخی بہاؤ کے رخ کا مخالف تھا اور اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں تھا آخر کار یہ استقامت اور مقابلہ شکست کھا گیا۔ اس مقابلہ کے دوام نہ پانے اور اس کے بکھر جانے کے بہت سے وجوہات ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک و شمح نہیں کہ اس کی اہم ترین نقصان اور ضرر قبول کرنے والی خصوصیت خود اسی سے متعلق ہوتی تھی۔ اسی خصوصیت نے لوٹ اور کالون اور دوسرے تمام پروٹستانیزم (Protestant) کے بانیوں کی اور ان کو میدان میں لے آئی۔ وہ لوگ جنہوں نے دوسری تعبیر کی وہ تمام سختیوں اور موافع کے باوجود فوز کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔

کیا اس کے علاوہ کچھ اور ہے کہ جو لوگ خالص اور حقیقی ابتدائی عیسائیت کی طرف رجوع کرنے کے مدعا تھے، وہ لوگ عیسائیت کو ہر اس چیز سے سنوارنے کی فکر میں لگ گئے جس کا آہستہ آہستہ کلیسا اور اہل کلیسا کے ذریعہ بڑھا وادیا گیا تھا۔ انہوں نے اس فکر و خیال کے ساتھ میدان میں قدم رکھا اور ایسی فکر کو آگے بڑھانے کے لئے حالات بھی مناسب اور سازگار تھے۔ لہذا بڑی تیزی کے ساتھ یہ نظریہ پھیلا اور تمام رکاوٹوں کو بالکل صفحہ صستی سے ختم کر دیا۔ ایسا حادثہ کسی اسلامی مملکت میں وجود میں نہیں آ سکتا تھا جو بعد میں اپنے آپ کو

و سعت دے۔

اگرچہ اسلام میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو اس آخری صدی کے دوران عیسائی (Protestant) مذہب کی پروٹستان شارخ کی پیروی کرتے ہوئے اٹھے یا اس کی طرف توجہ دیئے بغیر، کم و بیش ایسے مقاصد کی پیروی کرتے تھے۔ لیکن یا یہ لوگ شروع ہی سے شکست کھا گئے اور یا یہ کہ نتیجہً اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ (۴۰) جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس کا اصلی سبب یہ تھا کہ یہ دو دین و مختلف ماہیت اور حقیقت کے حامل ہیں۔ مذہبی اصلاح کے معنی یہ ہیں کہ بعض مذہبی اعتقادات کو ترک کر دیا جائے اور بلکہ عیسائیت کے معیار پر عیسائیت میں یہ اتفاق رونما ہو سکتا ہے اور اسلام میں اس اتفاق کے رونما ہونے کا امکان بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ ایک عیسائی ہو سکتا ہے کہ معتقد اور مؤمن بھی ہو وہ اوضاعات کو اس اعتبار سے کہ یہ اضافات شارع واقعی سے متعلق نہیں ہے الہذا اس کو ایک کونے میں ڈال دے (یا اصل شریعت عیسیٰ میں نہیں ہے) یہ چیز اس کے ایمان و اخلاص کے خلاف اور منافی نہیں تھی لیکن ایک مؤمن اور معتقد مسلمان ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ کیونکہ جس چیز پر وہ ایمان و عقیدہ رکھتا اور اس پر پابند تھا وہ تمام چیزیں اسلام کی طرف سے تھیں نہ یہ کہ وہ علمائے اسلام کی طرف سے آئیں کہ جن پر انہوں نے اتفاق کر لیا تھا۔

البتہ اسلام میں بھی دوسرے آئین مذہب اور مکتب فلکر کی طرح پوری تاریخ میں خود ساختہ بہت زیادہ اضافے پائے جاتے تھے اور اس کے بہت سے قواعد اور قوانین اور مفہومیں جس کو خود اسلام نے بیان کیا تھا، اس کے خلاف بہت سی رنگ برنگ تفسیریں دیکھنے کو ملتی اور راجح

تحیں۔ بہت سے لوگوں نے قیام کیا تاکہ ان اضافات کو آہستہ آہستہ ختم کر دیں ان غیر صحیح تفسیروں کی اصلاح کریں اور اس کو حقیقت کے مطابق پچھوائیں۔ لیکن یہ اصلاحات ان اصلاحات کے برخلاف ہیں جو عیسائیت یادوسرے ادیان میں پائی جاتی ہیں اور جدید تمدن اور تاریخ کی درخواست کے عین مطابق قرار پائی ہیں۔ یہ تمدن اس سے زیادہ کہ ان ادیان میں اصلاح اور اس کے بنانے اور سنوارنے کا ان کے آخری معنی میں طلبگار ہو، (ادیان) کی تقسیم اور طکڑے طکڑے کر دینے اور ان کی عقبِ نشینی اور ان کو پیچھے ڈال دینے کے خواہاں تھے۔ تمدن نو چاہتا تھا کہ دین اپنے تمام معاشرتی مسائل کو یکسر پس پشت ڈال دے اور اس کے سامنے سرتسلیم کر دے۔ اس (تمدن جدید) کا مقصد یہ تھا عیسائیت اور دوسرے ادیان بھی ان کو تعمیری اور ثابت جواب دے سکتے تھے۔ لیکن اسلام سے یہ ممکن ہی نہ تھا۔ اور اصلاح طلب مسلمان جو اپنے ایسے اہداف تک پہنچنے کے لئے وہ اپنے خیال خام میں اصلاح کے لئے سبقت کی یا اصلاح کے لئے اقدام کیا تھا، جلدی یا کچھ دیر میں اسے شکست اٹھانی پڑی۔ اصلاح پسندی کی موجودہ تحریک اصلاح طلبی کی تحریکوں اور ان کے افکار، خود یہ ان کی شکست پر بہترین دلیل ہیں اصلاح طلبی کی تحریکیں ہی ہیں جو ایسے افکار اور اہداف کی مالک ہیں، ان کی شکست سیاسی دلائل سے زیادہ اعتقادی دلیلوں کی حامل تھی یعنی ان کی شکست کا واحد سبب مذہبی اور اعتقادی معیار تھے۔ (۴۱)

البتہ اسلام اور عیسائیت کا تفاوت اور ان دونوں کا جدید تمدن سے مقابلہ، صرف اسی نکتہ پر ختم نہیں ہوتا ہے عیسائیت لوٹر پذیر ہے اور اسلام لوٹر پذیر نہیں ہے یا عیسائیت کے پروسطان

کے ایسا گروہ عیسائیت میں تغیر اور انقلاب پیدا کر کے کامیاب ہو سکتا ہے لیکن اسلام میں ایسا بدلاؤ ہرگز پیدا نہیں ہو سکتا۔ عیسائیت کی اصلی شاخ اور حقیقت پسند جدید تمدن اسلام کے بر تاؤ کے مقابلہ میں مخالف ٹکراؤ کا حامل ہے یہ بھی ان دونوں کی حقیقت اور اس کے اندر ورنی ڈھانچہ کی طرف پلٹتا ہے۔ اور یہ اسلام کا جامع اور کامل ہونا اور اس کے دستورات اور احکام کے کامل نفاذ اور یہ کہ اخروی کا میابی حتیٰ ہم مسلمانوں پر زور دیا گیا ہے کہ دنیاوی عزت بھی ایسے کامل دستاویز پر کی مر ہون منت ہے، دوسرے ادیان کے برخلاف یا کم از کم ان کی موجودہ تفسیر کے خلاف، یہ بات بڑھتے ہوئے اور نئی تاریخ کو ذمیل و خوار کر دینے والے دباؤ کے مقابل اس دین کی اصلاح کا محافظ ہے۔

جانسن (Johnston) نے اس بات کی دوسرے زاویہ نگاہ سے اس طرح توضیح دی ہے: آج اسلام اور مغربی دنیا بآہم ایک دوسرے کے خلاف صفاتی کئے ہوئے ہیں اس طرح کہ وہ لوگ مقابلہ کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے کہ کسی بھی بڑے دین میں ایسی صفاتی نہیں ہوئی ہے نہ عیسائیت میں کہ وہ خود مغربی دنیا کا ایک حصہ ہے اور جدت پسندی کے ذریعہ وہ اسی میں ختم ہو گیا ہے، ہندوایزم کو اور بودھایزم کے طریقہ پر تعلیل و تجزیہ نہیں کیا ہے کیوں کہ ان کی گھرائی میں صرف روحانیت پائی جاتی ہے اور روح کی نجات و فلاح کے علاوہ کچھ نہیں سوچتے اور نہ ہی یہودیت کہ ایک بہت چھوٹا سا آئین و مذہب اور ایک قوم و ملت میں محدود ہے۔ اور ان ادیان کے مذہبی رہنماؤں میں سے کسی رہنمہ کا وہ اثر نہیں ہے جتنا کسی خلیفہ، مہدی اور آیت ا... کا اثر مغربی دنیا پر ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اسلام

نے ڈیڑھ ہزار سال کے عرصہ میں مغرب کے ساتھ نظامی (فوجی) مقابلہ بنائے رکھا اور دور حاضر حالت میں بھی وہی جنگی صورت حال اور ٹکراؤ کا سلسلہ باقی ہے۔ (۴۲)

اگرچہ اس کی تحقیق اور چھان بین اور اس کی تفسیر اسلام اور مغرب کے مسلحاء اور سیاسی ٹکراؤ پر ناظر ہے لیکن یہ بات واضح ہے کہ یہ ٹکراؤ اسلام کی دینی حیثیت سے ہے جو اپنے حقائق اور اصالت پر زور دیتا ہے اس جدید تمدن کے مقابلہ میں جو درمیانی رویہ اختیار کرنے کا خواہاں، بلکہ اس کے پیچھے ہٹنے کا خواہاں ہے۔

### دوبارہ پلتنا

لہذا اس دین کی ذاتی خصوصیات کی طرف توجہ کرتے ہوئے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اس دین نے ایک مدت کے لئے اس جدید تاریخی میدان کو ترک کر دیا، (اور گوشہ نشینی اختیار کر لی) مگر ایسا نہیں ہے کہ آج کل متحرک اور فعالانہ طور پر میدان میں قدم رکھ دیا ہے؟ جو کچھ آج ہم دیکھتے ہیں، یہ اس کے اندر وہی خصوصیات کے ساتھ باہمی توافق اور آپسی سازگاری ہے اور اس سے پہلے جن چیزوں کو دیکھتے تھے، وہ ایک عارضی اور ناپائیدار حادثہ تھا۔ خصوصاً یہ کہ کوئی بھی دین اس دین کے برابر اس طرح سے کہ ہر طرف سے معاشرہ اور تاریخ میں اس قدر عمیق رسائی نہیں رکھتا ہے اور اپنا اثر نہیں ڈالتا ہے اور اس حد تک کہ اپنے پیروؤں کو اپنے مقصد کے حصول کے لئے اکٹھا کرنے اور اپنے مقاصد کو وجود بخش نے پر قادر نہیں ہے۔ جیسا کہ اس کا خاصہ مغرب سے پیکار اور بلکہ اپنے غیر سے آمادہ پیکار رہنا دین

اسلام میں دوسرے ادیان سے زیادہ عینیت اور قاطع ہے۔ (۴۳)

حقیقت میں موجودہ اسلامی تحریک جدید تمدن کے پوری دنیا پر چھا جانے کے مقابلہ میں اس دین کی استقامت کا ایک نمونہ ہے۔ اس کا اصلی مقصد یہ ہے کہ اس کو اسلامی دنیا میں چھا جانے سے روکنا ہے جو خود اس سے متعلق ہے اور یہ ایک فطری امر ہے۔ ایسے جریان کا فقدان غیر فطری امر اور سوال طلب ہے؟، نہ یہ کہ اس کا وجود سوال طلب ہو اگر دوسرے ادیان اور ثقافتیں ایسی تحریک کی حامل نہیں تھیں، یا کم از کم اگر ایسی ہوں بھی تو وہ اتنی گہرائی اور شدت کی حامل نہیں تھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ذاتی طور پر جدید تمدن کے دنیا پر چھا جانے کے مخالف نہیں تھے۔ یا پھر یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اپنی حکومت اور سرزی میں کے واسطے ایسے مقدسات اور معیار جو اس کو واجب اور لازم جانیں ان کے پاس نہیں ہیں اور یا اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ اس بات پر قادر تھے کہ اپنے معیار کو ان کے معیاروں اور مقدسات کو تمدن جدید اور اہم موجودہ نظام کے ساتھ ہماہنگ اور موافق بناسکیں۔ (۴۴)

البتہ، اس بات کا اضافہ کرنا چاہیے کہ اسلامی معاشرہ میں اس آخری صدی میں رونما ہونے والے انقلابات اس طرح تھے کہ اس استقامت اور ٹکراؤ کے لئے ضروری مادی طاقت کو فراہم کر لیا ہے۔ اس زمانہ کے حوادث اور واقعات اور پہ در پہ مسلمانوں کو جدید تمدن کے ذریعہ دھپکے لگے ہیں، اس سے ان کے افکار، اعتقادات اور ان کی شخصیت کی کچھ اس طرح پروژش کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی بڑی اور عظیم تحریک کی خدمت کے لئے آمادہ کر لیں۔ اس بات کا پتہ لگانے کے لئے اس کا بہترین نمونہ اس آخری دوران میں اسلامی فکر کی تحقیق

اور اس کی چھان بین ہے جس سے مسلمان ابتدائی دہائیوں میں اسلام اور جدید تمدن کے مقابلہ اس طرح معروب ہو گئے تھے کہ وہ اپنے دین کے دفاع کے سلسلہ میں اس کے سوا کہ اسلام کو تمدن نو کے برابر ثابت کریں کچھ اور سوچ ہی نہیں رہے تھے وہ لوگ معذرت خواہی کے جواب کے ذریعہ اپنے زعم ناقص میں اس شباهت اور برابری کو ثابت کرنا چاہتے تھے۔ بعد میں آنے والی نسل خود اپنے اوپر تنقید کرتے ہوئے اپنے اعتقادات کو زیادہ سے زیادہ بیان کرنے میں لگ گئی۔ اس نسل کا ہدف اپنے اسلاف کی طرح اسلام کو جدید تمدن کے معیار کے مطابق اس کے مانند اور برابر ثابت کرنا نہیں تھا۔ بلکہ نسل جدید کا مقصد (ہدف) یہ تھا کہ ان کو اس کی مستقل طور پر توضیح دیں۔ آج کل کی نسل کا علم و فہم اور بیان قاعدة (اصولی طور پر) دوسری طرح اور جدا گانہ ہے اور وہ اپنے دین کی پورے طور پر حاکمیت اور چاہتوں کی تجھیں کے علاوہ کچھ نہیں سوچتے اور یہ نسل اس سے کم پر قانون اور مطمئن ہونے والی نہیں ہے، اس نسل کی نظر میں صرف اسلام ہی حق و باطل کا معیار ہے اور یہ دوسرے (تمدن) ہیں جن کا مقایہ اسلامی معیار پر کیا جائے نہ یہ کہ اسلام کا قیاس دوسروں سے (یعنی اسلام کا قیاس دوسری تہذیبوں اور ثقافتوں کے ساتھ نہ کیا جائے چونکہ اس سے ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔) (۴۵)

یہ تغیری اور تبدیلی خود اس بات کی حکایت کرتی ہے کہ مسلمانوں میں دینی رجحانات کی شناخت اور ذہنی تبدیلی پیدا ہو گئی ہے خصوصاً جوانوں اور مسلم طلباء (Muslim Students) کی فکر میں انقلاب آیا ہے اہم بات یہ ہے کہ یہ تمام تغیرات اور تبدیلیاں ایک ساتھ تمام اسلامی

ممالک میں فکری اور اعتقادی انقلاب کا آجانا بلکہ اسلامی ممالک میں معاشرتی، اقتصادی اور معيشتی، معاشرتی اور سیاسی تغیرات کے ساتھ ساتھ یہ بدلاؤ پیدا ہو گئے ہیں۔ لہذا بڑھ بڑھ کر ایک دوسرے کو قوی اور مضبوط بنانے میں حصہ لیا۔ یہاں تک کہ ۷۰ء کی دہائی کے آخر میں اوج کی آخری منزل تک پہنچ گیا اور لوگوں میں نئے حالات اور حوادث کو وجود بخشنا جس کا سلسلہ اب تک جاری و ساری ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ یہ تحریک (اس دور جدید کی) سیاسی، (دینی اور معاشرتی) اور دور جدید کی ثقافتی نشانی اور علامت ہے کہ اس (تحریک) نے دنیا کے تمام غیر صنعتی ممالک بجز جنوبی امریکہ کے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ عموماً دور جدید اپنے پہلے والے دورہ کا نتیجہ ہے۔ یعنی ایک ایسا دور جو اپنے زرق و برق و قدرت اور جدید تمدن کی تکنیک (Technology) نے یوروپ کے علاوہ دوسرے علاقوں کے تمذنوں کو اپنے رعب و داب اور دھمکی میں لیکر، وحشت پھیلانی اور دوسرے تمذنوں کو پردہ بخفا میں ڈال دیا۔ (یعنی دوسرے تمدن بے اہمیت ہو گئے تھے۔) اور خود نے چوکھا غلبہ کر کے اس پر اپنا قبضہ جمالیا۔ نئی حالت جو نئے تمدن کے غلبہ کے ہمراہ تھا، یہ زیادہ تر عارضی اور ناپائدار تھا یہاں تک کہ فطری طور پر اس ناپائیداری میں استحکام بنا رہا اس طرح، لحاظ کیا جاتا تھا کہ بغیر کسی سبب اور علت کے قدیمی میراث کو فراموشی کے سپرد کر دیا تھا اور اس قدیم تہذیب و تمدن کی اولاد اور اس کے وارثوں کو بھی سکوت و خاموشی پر مجبور کر دیا تھا۔

یہ فراموشی جو اکثر ذلت و رسوانی کے ہمراہ تھی، ایک طولانی مدت تک باقی نہیں رہ سکتی تھی۔

لیکن اس زمانہ کو ختم ہونے کے لئے بھی اس بات کی ضرورت تھی کہ مقدمات کو فراہم کیا جائے۔ کچھ مقدمات اور حالات آخری صدی میں پیدا ہو گئے، آخری دو تین دہائیوں میں اپنے مقام و منزلت اور بلندی کو پالیا اور تیسری دنیا کوتار تھے کے ایک نئے دور میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اس نئے تاریخی دور نے دنیا کے اسلام کو بھی شدت اور زیادہ گہرائی کے ساتھ اپنی لپیٹ میں لے لیا۔

اب دیکھنا یہ ہو گا کہ یہ نیا دور کن اسباب و عوامل اور طاقتوں کے زیر اثر ہے اور اس کے اچھے اور بُرے پہلو کیا ہیں؟ اور وہ اپنی پاسیداری اور خلاقیت اور سر بلندی کی کس حد تک حفاظت کر سکتا ہے؟ یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر جدید دور کی حقیقت طلبی کا عقیدہ اور نظریہ کہ یہ دور خود کسی نہ کسی طریقہ سے اس دور کی مخلوق ہے، تیسری دنیا خصوصاً اسلامی دنیا کی مختلف ضرورتوں کا جواب دہ ہو، ایک طرح سے اصالت اور تجدید پسندی اور اس کی طرف میلان اور تبدیلی کی خواہش، اگر ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے پر فدا نہ ہوں تو ایسی صورت میں اطمینان کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ نظری اعتقاد (Idiology) میدان کا رزار میں کامیاب ہو جائے گا۔ اصالت سے والبُنگی آج کی بہت زیادہ اور مختلف ضرورتوں کو نظر انداز کر کے اس پر شتاب اور آئئے دن تبدیلی کی شاہد دنیا، تنہا اس کامیابی کی ضامن نہیں ہو سکتی (یعنی کامیابی نصیب نہ ہو سکے گی) اور یہ بات ہمارے زمانے میں یعنی .۸۰ کی دہائی اور اس کے بعد آئے والی دہائی میں گذشتہ تاریخ کے تمام زمانوں سے زیادہ صحیح ہے۔ اس کی طرف توجہ دینا نہ صرف یہ کہ اس معركہ میں حقیقت طلبی جس کی بنیاد ڈالی جا چکی ہے نظری اعتقاد کی

کامیابی کی ضامن ہے بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جدید دور کی پائیداری اور اس کا ہمیشہ باقی رہنا کامیابی اور کامرانی بھی اسی کی مرہون منت ہے۔ اس نظری عقائد (Idiology) کی شکست، اور اس دور جدید کی ضروریات و احتیاجات کے پورا کرنے کی توانائی نہ رکھنا، تقریباً اس دور کے خاتمه کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گی۔ (۴۶)

اس مقام پر بہتر یہ ہے کہ کتاب کے آئندہ حصہ میں جس حصہ کے بارے میں بحث کی جائے گی اس کی طرف اشارہ کریں۔ شیعہ حضرات اور اہل سنت کی سیاسی فکر کی تحقیق اور اس کی چھان بین کے لئے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اصولاً (قاعدتاً) ان دو مذہبوں کی حقیقت کیا ہے اور ان دونوں کے خصوصیات اور اختلافات کیا ہیں؟

### عقیدتی اختلافات کی جڑیں (بنیادیں)

اس موقع پر بنیادی مشکل یہ ہے کہ ان دو مذہبوں کے تفاوت اور اختلاف کا مرکز صرف حضرت علی کی خلافت کو بنایا جاتا ہے۔ مسئلہ اور مشکل نہیں ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب پیغمبر اکرمؐ کے بلا نصل وصی ہیں یا کہ چوتھے خلیفہ۔ ان دونوں کے اختلاف کا خلاصہ اسی مقام پر نہیں ہوتا ہے۔

بنیادی طور پر بحث کا مرکز ذات اور شخصیت نہیں ہے اور یہ کہ وہ کون ہے۔ بحث کا مرکز شان اور اس کا مقام و منزلت ہے۔ اور وہ یہ کہ وہ (شان) مقام و منزلت کیا ہیں؟ اور کون شخص اور کون کون اشخاص اس شان و شوکت اور مقام کے حامل ہیں؟ دوسرے لفظوں میں یہ کہ بحث

مصادیق سے زیادہ مفہوم پر منی ہے۔ شروع میں بحث اس بارے میں ہے کہ امامت کا مفہوم کیا ہے؟ نہ یہ کہ امام کون ہے؟ اگر اس مسئلہ پر ایک تاریخی مسئلہ کی حیثیت سے نظر کریں تو یہ ایک (بہت بڑی) غلطی محسوب ہو گی اور حقیقت یہ ہے کہ یہ مفہوم (امامت) اہل سنت و تبعیق کے تمام مختلف زاویہ نگاہ اور دینی افکار کے حدود اور بعد کو متنازع کرتا ہے۔

اس سے زیادہ صراحةً کے ساتھ کہا جائے۔ شیعوں کا اعتقادی، فقہی اور کلامی ڈھانچہ اور اس کے بعد، تاریخی تجربہ، اہل سنت و تبعیق کا نفیاً اور معاشرتی ڈھانچہ اور اہل سنت دو طرح کے مختلف اسباب سے متاثر ہو کر وجود میں آئے اور پروان چڑھے۔ اس اختلاف (تفاوت) کا اصلی سبب یہ ہے کہ اہل سنت اسلام کو (ماوراء اسلام) خلافے راشدین و صحابہ اور تابعین کے زمانے میں اسلام کے وجود کے بارے میں صوری خیال کرتے ہیں اور پھر اسلام کو اسی زاویہ نظر سے دیکھ کر اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ لیکن شیعہ حضرات اس کو جانشینی کے سلسلہ میں پیغمبر اکرم کی تاکید اور سفارش اور فرمان کے مطابق اسلام کے بارے میں فکر کرتے ہیں۔ ایک (فرقة) اسلام کو صدر اسلام کی تاریخ کے اعتبار سے دیکھتا ہے اور دوسرا (فرقة) صدر اول کی تاریخ کو اسلامی معیاروں اور قواعد و ضوابط کے اعتبار سے جائزہ لیتا ہے۔ ایک جگہ دین کو صدر اسلام کی تاریخ کے اعتبار سے دیکھا اور سمجھا جاتا ہے اور دوسری جگہ تاریخ کو دین سے ہٹ کر پرکھا جاتا ہے۔ یہ دونوں کاملاً مختلف زاویہ نگاہ کے حامل ہیں۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ شیعہ و سنی کے اصلی اختلافات اور ان دونوں کے اہم امتیازات اور شناخت دو کلامی اور فقہی مکتب کے اعتبار سے یہ اختلافات وجود میں آئے ہیں۔ (۴۷)

جس وقت صدر اسلام کی تاریخ، خصوصیت کے ساتھ خلافے راشدین کے زمانہ کی اہمیت و عظمت و منزالت خود اسلام کے ہم پلہ ہو جائے، تو یقیناً یہ اسلام دوسرے گروہ کے اسلام سے مختلف ہو گا جو گروہ نہ فقط اس تاریخ کی اہمیت و منزالت کا معتقد نہیں ہے بلکہ اس کی اہمیت کا قائل ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو تقيیدی نگاہ سے دیکھتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مسئلہ اس سے بھی زیادہ سنجیدگی کا حامل ہے کہ پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں کا اختلاف، اسلام کو سمجھنے میں و مختلف معیار کی بنیاد پر ہے۔

ایک جگہ امامت و خلافت و امام و خلیفہ کو ایک زاویہ سے سمجھا جاتا ہیا اور دوسرے مقام پر (گروہ میں) دوسری طرح سے درک کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف شان و خصوصیات پیغمبر کی قدر و منزلت اور بعد میں آنے والے خلیفہ (امام) کی خصوصیات کو گھٹا کر برابر کر دیا جاتا ہے اور دوسری جگہ پر امام کی خصوصیات اور اس کے مقام و منزلت کو پیغمبر اکرم تک بڑھا دیا جاتا ہے (البتہ یہ فطری بات ہے کہ وجہ اور نبوت کے علاوہ) ان دونظریات کے پیش نظر بہت سے مسائل وجود میں آتے ہیں کہ جن کا ظہور میں عموماً سیاسی افکار ہی میں ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ ان دونوں فرقوں کے سیاسی افکار اسلام کے بارے میں تمام دوسری بحثوں سے زیادہ ان کے فہم و ادراک اور مختلف زاویہ نگاہ سے متاثر ہونے کی وجہ سے ہے۔

یہاں پر ایک بات یاد دلانا ضروری ہے کہ اس طرح کی بحثوں کے پیش کرنے سے غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے مثال کے طور پر اگر ایسے اختلافات پائے جاتے ہیں پھر وحدت اسلامی کے

کیا معانی ہو سکتے ہیں؟ یا یہ کہ وحدت اصل ہے یعنی اساسی حیثیت کی حامل ہے۔ لہذا ان بحثوں کا یہاں پر چھپیرنا مناسب نہیں ہے۔ اولاً ان تمام اختلافات کے باوجود ان دو فرقوں کے درمیان وسیع اور مسلم معیار جن میں شک و شمحہ ناممکن ہے، ان کی برکت سے اور دوسرے عام اسلامی فرقوں سے بھی اس قدر مشترک بنیادی مسائل پائے جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر بیٹھ سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ خود یہ دین یعنی اسلام نے اس طرح باہم ملنے جانے اور آپس میں اتحاد کے بارے میں شرعی ذمہ داری کے عنوان سے اس کی بہت زیادہ تاکید کی اور حکم دیا ہے۔ لہذا اصولی طور پر یہ مطالب ہماری بحث سے جدا ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان دو مذاہب کی گذشتہ تاریخ کے صحیح اور تجزیاتی درک و فہم اور ان دونوں کی موجودہ حالت کی صحیح چھان بین کے لئے لازم ہے کہ ان دونوں کی بغور شاخت کی جائے اور ان کے مختلف اجزاء اعوام کو ان لوگوں کی سیاسی فلکر کو وجود میں لانے اور اس کو بال و پر عطا کرنے کے بارے میں جائزہ لیا جائے۔ جو کچھ کہا جا چکا ہے اور بعد میں کہا جائے گا وہ اس امر سے متعلق ہو گا اور اس مقصد کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہو گا۔

## پہلی فصل کے حوالے

(۱) مثال کے طور پر اس مقام پر عیسائیت کے اقدامات کے بارے میں رجوع کریں:

Vatican Council 2nd The Conciliar and Post Conciliar

.911-Documents, PP.903

(۲) اس سے زیادہ وضاحت کے لئے دیکھئے العقيدة والشريعة في الإسلام ص۔ ۲۵۔ ۲۶۰۔ اور البدعة: تحدیدہا و الموقف الاسلام منہا، نامی کتاب میں بھی رجوع کریں۔

(۳) اس سے زیادہ وضاحت کے لئے تیسری اور چوتھی فصل میں دیکھئے۔

(۴) براۓ نمونہ، رجوع کریں۔

Pakistan ,Asaf Hussain,Islamic Movements in Egypt.

and Iran

(۵) اس بحث کے واضح ہونے کے لئے لازم ہے کہ معاشرہ اور تاریخ پر اسلام کی تاثیر کی کیفیت کو معاشرہ اور تاریخ پر معاشرتی اور تاریخی تغیرات کے پیدا ہونے میں اس کا کردار کیا ہے، ایک دین کی حیثیت سے دین اسلام کی دوسری خصوصیات کے بارے میں تحقیق کی جائے۔ اس بارے میں کتاب ایدہ لوثی و انقلاب، نامی کتاب کے ص ۱۱۱، ۱۴۹، و نیز افکر السیاسی الشیعی، کے ص ۳۷۔ ۱۱۵ اور العقيدة والشريعة في الإسلام کے ص ۱۳۳۔ ۱۷۷

پر بھی رجوع کریں۔

(۶) شیعہ اور سنی کے نظریاتی اختلاف کی روشنی میں مؤثر اختلاف کو حاصل کرنے کے لئے اس طولانی مدت میں شیعہ اور سنی معاشرہ پر موجودہ زمانے کی پوری مدت میں کیا اثر ڈالا ہے اس کو معلوم کرنے کے لئے رجوع کریں ۔ 31- PP. 35-Faith and Power.

الفکر اسلامی اشیعی نامی کتاب کے ص ۳۷۔ ۱۸۰۔ کتاب کے آخر میں بہترین اور قابل اعتنا مصادر (منابع) اس بارے میں پائے جاتے ہیں۔

(۷) بہترین آخذ میں سے ایک مأخذ جس پر توجہ کر کے بخوبی شیعہ و سنی کے دینی اور فکری، روحانیات کے ڈھانچے میں فرق کو جانا جاسکتا ہے اور اسی طرح شیعہ حضرات اور اہل سنت کی عاطفی اور جذبات پر مبنی حساسیت کو بھی اور ان کے سوچنے کی کیفیت اور ان کی تاریخ پر نظر کو اور خصوصاً صدر اسلام کی تاریخ کو حاصل کیا جاسکتا ہے، کچھ ایسی کتابیں بھی ہیں (جن سے یہ چیز اچھی طرح معلوم ہو سکتی ہے) جو ان سینیوں نے لکھی ہیں جو سنی سے شیعہ ہو گئے ہیں ان کتابوں میں اس سے بحث کی گئی ہے۔ نمونہ کے طور پر آپ محکمہ تاریخ آل محمدؐ مؤلفہ قاضی بہجت آفندی، لماذ اخترت مذهب الشیعہ ہمہ لفہنہا میں الانطا کی اور خصوصاً اس طرح کی آخری کتاب جس کتونس کے روشن فکر سنی عالم جو بعد میں شیعہ ہو گئے، انہوں نے ثم اہتدیت کے عنوان پر لکھی ہے مؤلفہ محمد تیجانی السماوی۔ اسی طرح نظریۃ الامامۃ الشیعۃ الامامیۃ نامی کتاب کی طرف بھی رجوع کریں (مؤلف) احمد محمود صدیقی، ص ۱۵۔ ۶۸۔

(۸) الشیعۃ والحاکمون، ص ۲۶۔ ۲۷:

(۹) افکر السیاسی الشیعی، ص ۶۴-۶۵

(۱۰) اس بات کو عبدالکریم انخطیب نے اپنی کتاب سد باب الاجتہاد و ماترتیب علیہ میں اچھی طرح توضیح دی ہے۔ خصوصاً اس کے ص ۳-۸ پر رجوع کیجئے۔

(۱۱) حقیقت یہ ہے کہ علام اہل تشیع تسنن اعتقادی، تاریخی، فکری اور معاشرتی اعتبار سے دو طرح کے حالات سے متاثر ہو کر وجود میں آئے ہیں اور ترقی حاصل کی ہے اور یہ بات خصوصاً آخری صدیوں میں اور خاص طور پر موجودہ زمانے میں زیادہ صحیح ہے۔ شیعہ مذہب میں علام اور روحانیت کو ایک مستقل حیثیت حاصل ہے۔ جیسا کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ مشکل تہایہ نہیں ہے کہ یہ معاشرہ اور ادارہ اقتصادی اور شکلیاتی طور پر مستقل اور کسی سے وابستہ نہیں ہے۔ زیادہ اہمیت کا حامل یہ ہے کہ یہ ادارہ عوام الناس اور حکومت دونوں کی طرف سے قانونی طور پر ایک مستقل حیثیت حاصل ہے اور خود (علام) بھی اس بارے میں راست یقین رکھتے ہیں اور اسی طرح شیعہ معاشرہ کا بھی یہی عقیدہ ہے، یا کم از کم ایرانی معاشرہ، اس طرح ہے کہ وہ اس سے بے تو جبی اور بے اعتمانی نہیں کر سکتا ہے۔

ایرانی معاشرہ کم از کم تاقچاری نظام کے زمانہ کے بعد سے خصوصاً ان موقع پر جو عوام سے متعلق ہیں اس طرح وجود میں آیا ہے گویا وہ ہمیشہ اس ادارہ کی طرف رجوع کرنے کے لئے ضرورت منداور محتاج ہے۔ اس حد تک کہ اس مقام پر یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اس سے قبل کہ یہ ادارہ (علام) عوام الناس کا ضرورت مند ہو یہ عوام ہیں جو مختلف اسباب کی بنابر اس (ا تجاد اور کمیٹی) کے محتاج رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر یہ کہا جائے کہ علام کا گروہ حقیقت میں

ہمارے عوام کی مادی، دینی، نفیسیاتی اور روحی مشکلات کو برطرف کرنے والا ہے تو کوئی مبالغہ آرائی نہ ہوگی۔ یہی سبب ہے کہ بہت سی اندر و فی اور بیرونی مشکلات کے باوجود اب تک یہ چیز باقی ہے۔ یہ صنف کم سے کم گذشتہ دو تین صد یوں کے درمیان لوگوں کی قلبی (عاطفی) اور اخلاقی بہت بڑی تکمیر گاہ رہی ہے۔ وہ لوگ (عوام الناس) نہ صرف یہ کہ اس کے خواہش مند تھے کہ وہ اپنی ذاتی اور فردی زندگی کی مشکلات میں ان (علماء) کی طرف رجوع کریں اور اپنی مشکلات اور مصیبتوں کو حل کرنے کے لئے ان سے امداد کی درخواست کرتے تھے۔

ان باتوں (نکات) کا کامل جائزہ میں طوالت کا باعث ہے۔ لیکن اس مقام پر مسئلہ شیعوں کی روحانیت اور مردمجعیت کی طرف پلٹتا ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن ان اسباب اور تجربیات میں سے کوئی بھی مسئلہ اہل سنت کے درمیان نہیں پایا جاتا ہے اور شاید اس کا وجود میں آن ممکن بھی نہیں ہے۔ کیونکہ ان کے اعتقادی معیار جدا اور ان کا فردی، معاشرتی اور تاریخی تجربہ اور ہے۔ ان کے نزدیک ایک عالم کی حیثیت اسلامی اور فقہی مسائل کے ماہر سے زیادہ نہیں ہے جس طرح معاشرہ میں مختلف مشغلوں اور پیشے پائے جاتے ہیں اور ہر ایک شخص کسی نہ کسی چیز میں مشغول ہے، علمائی ہمی امامت جماعت و جماعت اور دینی و فقہی مسائل کے مطالعہ میں مشغول ہیں اور ان موقع پر ان کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔

افسوں کا مقام ہے کہ آخری زمانہ کے بدلاو اور تعلیمی نظام کی اصلاح نے ان لوگوں کو زیادہ قانونی، سرکاری اور مغرب پرست بنادیا ہے اور اس کے تیجہ میں وہ لوگ عوام الناس سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ شیخ کشک مشہور ترین اور عربی عوام کا محبوب ترین خطیب نے اپنے ایک

خطبہ کے ضمن میں ۱۹۸۱ء پر ۱۹۶۱ء کی کو علمائے ازہر اور تمام علمائے دین کو خطاب کرتے ہوئے اس طرح بیان کیا (لکارا) میں اصلاح کے نام سے ایک ضربہ جامعہ الازہر کو پہنچایا گیا کہ جس نے واقعاً اس (جامعہ ازہر) کو نابود کر دیا۔ اے جامعہ ازہر والو! مجھے بتاؤ کہ جب تم اپنی سند کو لیتے ہو تو قرآن کا کون سا حصہ حفظ کرتے ہو اور کتنے سوروں کو از بر (ربانی) پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہو؟ آج کل ازہر سے فارغ التحصیل ہو کر لوگ جب نکلتے ہیں تو وہ قرآن کو دیکھ کر بھی صحیح طریقہ سے نہیں پڑھ سکتے۔ جامعہ ازہر نے اتنا سخت ضربہ کھایا ہے یہ کب سے یہ طے پایا گیا ہے کہ جامعہ ازہر سے شیخ یعنی وائس چانسلر کو فلسفہ کا ماہر ہونا ضروری ہے (ایک وائس چانسلر (شیخ) نے جرمن سے ڈاکٹریٹ (پی. ایچ. ڈی کی) ڈگری حاصل کی تھی) اس سے پہلے والے شیخ نے فرانس سے فلسفہ میں (پی. ایچ. ڈی) کی ڈگری حاصل کی تھی۔ آیا مسلمان حضرات اس قدر عقیم اور بے صلاحیت ہیں کہ وہ پی. ایچ. ڈی. کی ڈگری لینے کے لئے فرانس جائیں؟ مجھے نہیں معلوم کہ بعد میں آنے والا شیخ کون ہو گا۔ شاید ایک فوجی اعلیٰ کمان کا افسر (جزل) جامعہ ازہر پر قبضہ جمالے کوئی کیا جانے؟ لیکن بہر حال اصلاح کے زمانے سے، اسلام کے رہبر نے اس کی ہر طرح کی رہبری اور ہدایت کو چھوڑ دیا ہے۔ اور بعد میں اس طرح اضافہ کرتا ہے: نئے مفکروں کا اس زمانے میں نئے طریقہ کے مطابق بغیر استاد یا شیخ کے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ وہ براہ راست کتابوں میں رجوع کرتے ہیں لیکن کچھ بھی ان کے پلے نہیں پڑتا، یعنی کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ ان دنوں ایک ستر سالہ مؤمن واعظ کی جگہ ایک نوبانغ لڑکا لے لیتا ہے ابن تیمیہ اور ابن عبد الوہاب کے چند کلمے اور

کچھ صفحات پڑھ کر آیا محافظ ایمان ہو سکتا ہے۔ کتنی مصلحت خیز نمائش! اے شیخ از ہرا وہ تمام لوگو! جو خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہوا اور اسلام کو تم نے چوپایوں کے چرنے کی جگہ (چراگا ہوں) میں تبدیل کر دیا ہے کہ جس کا جو بھی جی چاہے اس میں چرنے لگے۔ پیا مبرو فرعون، ص ۲۱۹۔ ۲۲۲۔

ان تنقیدوں اور دوسری تنقیدیں جو کہ کی گئی ہیں اور کی جاری ہیں اس کے باوجود یہ کہنا چاہئے کہ جو ناخواستہ طور پر ان معاشروں میں، سیاسی فعال زندگی سے دوری اختیار کر لی ہے اور یہ بہت زیادہ مشکلات خاص طور سے سنیوں کے مذہبی معاشرہ میں پیدا کردی گئی ہیں۔ ان (اہل سنت) کے معاشروں میں اسلامی تحریکوں کے مخفف ہوجانے کا اصلی سبب انھیں واقعات اور حادثات کی طرف پلتا ہے۔ البتہ اس کی تاکید کرنی چاہئے کہ یہ فاصلہ کا ہوجانا ان کی گذشتہ موقعیت کا نظری اور قہری نتیجہ ہے، یہاں تک کہ آگاہانہ ارادہ اور کبھی کبھی ان کا غیر ذمہ دارانہ اقدام سبب بناتا ہے، اسلامی تحریکیں مخفف ہو گئی ہے۔ یہ ان کا مسئلہ آج کا مسئلہ نہیں ہے بل کہ ان کی تاریخ کا مسئلہ ہے اور نہ ہی موجودہ آخری صدی کے حالات کا مسئلہ ہے جو تاریخ کی گہرائیوں میں اپنی جڑیں پھیلائے ہوئے ہے۔

یہ بات قابل ملاحظہ ہے کہ رشید رضا کے ایسا شیعہ مخالف انسان جو شیعوں سے کلی دشمنی رکھتا ہے علمائے شیعہ کی مؤثر فعالیت اور ان کے اساسی کردار اور ان کے اسلامی معاشرہ کی حفاظت کی کوشش کی صریح طور پر قدر ادنی کرتا ہے حتیٰ کہ اپنے مذہب کے علماء کو بھی تاکید کرتا ہے کہ ان (شیعہ علماء) کی طرح اپنا کردار پیش کریں اور فعالیت کو انجام دیں۔ اس کے لئے

اندیشہ سیاسی دراسلام معاصر، نامی کتاب کے ص ۱۴۲-۱۴۱، کی طرف رجوع کریں۔  
اہل سنت کی روحانیت کے ڈھانچہ اور پوری تاریخ اسلام میں ان کے کردار کے بارے میں  
آپ اس کتاب کے مفید مقالے کے سلسلہ میں آپ اس کتاب میں رجوع کریں۔

, Islamic Society and the West,Gibb and Bowen  
113-PP.81

اور اسی طرح رجوع کریں، قابل مطالعہ کتاب الاسلام بین العلماء والحكام عبد العزیز البدربی  
کی تالیف کی طرف علمائے دین اور جدت پسندوں اور ترقی پسند لوگوں کی طرف سے تنقیدوں  
اور اعتراضات کے بازار گرم ہونے کے بارے میں نمونہ کے طور پر آپ رجوع کریں۔  
عربی دنیا کے ایک مذہبی روشن فکر اور نفوذ رکھنے والے شخص خالد محمد خالد کی تنقیدوں میں سے  
ایک کتاب الشیعہ فی الحمیز ان مغنية میں: ص ۳۷۵-۳۷۸۔

عرب کے غیر مذہبی فکروں میں سے ایک بہت معترادیب احمد بہاء الدین کی تنقیدوں میں  
سے ایک کتاب الاسلام والخلافۃ فی العصر الحدیثکے ص ۱۸-۳۴، پر اساسی کردار کے بارے  
میں اس کا بے طرفانہ اور ہمدردانہ نظریہ خصوصاً قدیم عربی ادب کی حفاظت میں ان کا مؤثر  
حصد کیجنے کے لئے من حاضر اللغوۃ العربیۃ کے ص ۲۴، ۲۵ پر رجوع کریں۔

(۱۲) واضح ترین بات جس کی طرف اوپر والی عبارت میں اشارہ ہو چکا ہے نمونہ کے طور پر  
شیخ جعفر کا شف الغطاء اور فتح علی شاہ کے روابط میں اس کو بنوی دیکھا جاسکتا ہے۔ اس کی  
طرف رجوع کریں، رویا رویہ ای اندیشہ گران ایران بادورویہ تمدن بورڑ واژی غرب،

ایران کے متقدکرین اور مغربی مفکرین کے درمیان پہلی مرتبہ مقابلہ، کے ص ۳۲۹، ۳۳۲ پر، دوسرے بہت سے نمونوں کی کوئی نشان دہی کرتا ہے۔

### ❖ Roots of North Indian Shiism In Iran and Iraq

204-PP.113

(۱۳)، معالم الخلافة في الفكرة السياسية الإسلامية نامی کتاب کے ص ۱۲۵ و ۱۲۶ پر رجوع کریں اور اسی طرح انظریات السیاسیۃ الاسلامیۃ کے، ص ۷۱، ۷۲ پر بھی رجوع کریں۔

(۱۴) مک ڈونالڈ گولدزیہر (Goldziher) اس طرح نقل کرتا ہے: شیعہ کے درمیان اب بھی مجتہد مطلق پائے جاتے ہیں۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ (شیعہ حضرات) مجتہدین کرام کو امام غائب کا نمائندہ سمجھتے ہیں۔ اسی بنا پر مجتہدین کرام کی موقعیت اور مقام و منزلت بالکل علماء اہل سنت سے مختلف ہے۔ انہوں نے شاہ پر آزادانہ طور پر اعتراض بھی کرتے ہیں اور اس کو کنٹرول بھی (مہار) کر لیتے ہیں۔ لیکن اہل سنت کے علماء مجموعی طور پر اس کی حکومت کے تابع اور اسی کے افادہ شمار کئے جاتے ہیں۔

. P.158, Shorter Encyclopaedia of Islam

(۱۵) علماء کی صنف (جمعیت) کی طرح دوسرے ادارے بھی اس کے مقابلہ میں مثال کے طور پر مذہبی کمیٹیاں اور مذہبی انجمنیں جو ایران جیسے ملک میں وجود میں آئی ہیں، ہمیشہ معاشرہ کے اسلامی ہونے کی محافظت کرتے رہے ہیں، بہت سے اہل سنت کے مذہبی روشن فکروں نے اسلامی پارٹیوں (گروہ) کی تأسیس کی تجویز پیش کی ہے۔ اس فکر کی ابتداء میں ان کا سب

سے پہلا مقصد یہ تھا کہ یہ ادارے اور انجمنیں قانونی اور معاشرتی طور پر اسلامی قوانین کی حفاظت کے لئے وجود میں آئیں نہ یہ کہ وہ سیاسی کروفر میں مصروف ہو جائیں (ایرانی معاشرہ میں مرکزی حکومتوں کے مہار کرنے اور مغربی بے راہ روی کو روکنے اور ان کی جدت پسندی اور دین مخالف قوم مخالف طائفوں پر قابو پانے والی طاقت کے حامل یہی علمائے دین ہی تھے) معاشرتی اور یہاں تک کہ معیشت کے قدیمی ذرائع کے مرکز اور بازار کے بھی محافظت تھے۔ لیکن یا یہ ادارے تمام اسلامی ممالک میں نہیں پائے جاتے تھے یا اگر موجود بھی تھے تو ان کے اندر اتنی طاقت اور استقلال نہیں پایا جاتا تھا۔ ان ممالک میں جو چیزیں حکومتوں کو کنٹرول اور مہار کرتیں یا ان کو ڈراتی تھیں، وہ لوگوں کے عام افکار تھے۔ لیکن اول یہ کہ یہ سبب بر جعل عکس العمل ظاہر نہیں کر سکتے تھے اور دوسرے یہ کہ موجودہ حکومتوں کی تہذید اور پروپگنڈوں سے متاثر ہو جاتے تھے لہذا روشن فکر لوگ اور صالح و مذہبی علمانے اسلامی احزاب کی تاسیس اور بنیاد کی فکر میں پڑ گئے۔ مثلاً کتاب معالم الخلافة في الفکر السياسي الاسلامي کے مؤلف ایسے احزاب (گروہ) کی تاسیس کو جو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے فریضہ کو ادا کرنا چاہتے ہوں اس کو واجب جانتے ہیں اور اس طرح کہتے ہیں: پس اگر کوئی حزب ایسے عمل پر اقدام کرے جس کا اشارہ آیت میں ہوا ہے تو یہ عمل بقیہ مسلمانوں کے اس عمل کے انجام نہ دینے کے گناہ کو ختم کر دے گا، اس کے انجام نہ دینے کا گناہ بقیہ لوگوں کی گردن سے اٹھا لیا جائے گا۔ کیونکہ یہ (امر بالمعروف و نہیں عن المنکر) واجب کفائی ہے اور شرعاً جائز نہیں ہے کہ دوسرے احزاب کی تشکیل میں کوئی مانع قرار پائے۔ اس لئے کہ یہ منع

کرنا واجب کے مقابلہ میں قیام کرنے کے مترادف اور حرام ہے۔ اس کے بعد وہ اضافہ کرتے ہیں: جیسا کہ واجب کے قائم کے لئے حاکم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایسے قیام کی نسبت حاکم کی اجازت پر موقوف کر دینا حرام ہے۔ لہذا مسلمانوں کا اسلامی احزاد قائم کرنے کے لئے اسلامی حکومتوں کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ اسی مقام پر ص ۲۷۳ اور ۲۷۴ پر رجوع کریں۔

ایک دوسرا مؤلف اس بارے میں اس طرح کہتا ہے: نقد اور اعتراض انھیں حقوق میں سے ایک حق ہے جس کو اسلام نے تمام اسلامی معاشرہ میں رہنے والوں کے لئے مقرر کیا ہے۔ لہذا اگر کچھ لوگ چاہیں کہ لوگوں کو اپنے افکار و نظریات کی طرف دعوت دیں تو وہ لوگ اس کے ذریعہ احزاد اور کمیٹیاں بناسکتے ہیں۔

نظام الحکم فی الاسلام کیسیں ۹۲۔ مزید وضاحت کے لئے دیکھئے اخوان المسلمين والجماعات الاسلامیہ الحیاة السیاسیۃ المصریۃ ۱۹-۴۸-۳۱۲-۱۳۲ پر، نیز معالم فی الطریق کیسیں ۱۷۳ پر رجوع کریں۔

(۱۶) پیامبر فرعون، کے، ص ۲۸۳-۲۹۵-۲۹۵ پر رجوع کریں۔

(۱۷) جنوبی امریکہ میں انقلابی فکر کے بارے میں اور یہ کہ اس کی خصوصیات کس حد تک تیسری دنیا کے بہت سے خصوصاً اسلامی دنیا کے ممالک میں موجودہ انقلابی افکار کے خصوصیات سے کس تدریج مختلف ہیں، اس کے لئے رجوع کیجئے فیدل و مذہب، کی طرف جو فری بتوکی تحریر اور خاص طور پر چکوار کے ظریات اور خطابات کے مجموعہ کی طرف اس عنوان

کے تحت Che Guevara and The Cuban Revolution اور اگر چگوارا کے باعث کے افکار کو جانے کے لئے مثلاً ایران میں انھیں باعث کے افکار کا ہمزاد موجود تھا جو انقلاب کی کامیابی سے پہلے فدائیان خلق، کی راہ و روش اور ان کے نظریات کا حامل تھا اس کتاب کا قیاس جدید نظریہ پردازوں کے بہت بڑے ریسیٹشن جزئی کی کتابوں کے ساتھ کیا جائے، زیادہ توضیح کے واسطے آپ رجوع کریں ایڈولوژی و انقلاب کے ص ۴۲، ۲۱۰، ۲۲۰ اور ایران دیکتا توری و پیشافت (ایران آمریت اور ترقی) کے ص ۳۷، ۴۶ کی طرف مراجعت کیا جائے۔

### Islam and the Search for Social Order in Modern Egypt

اسی طرح مصر کے معاشرہ کی فکری، سیاسی اور معاشرتی انقلاب کو بیسویں صدی کے نصف اول کے روشن فکروں میں سے ایک اہم ترین اور سب سے زیادہ اثر انداز محمد حسین ہیکل کی بایوگرافی کی روشنی میں ان کے بارے میں تحقیق کی جائے۔

(۱۸) نمونہ کے طور پر آن روزہا (وہ ایام) ترجمہ حسین خدیو جم کی طرف رجوع کیا جائے۔  
 (۱۹) بطور نمونہ، طا حسین کے نظریات کی طرف رجوع کریں جس کو انھوں نے اپنی جنگی کتاب مستقبل الثقافة في مصر (مصری ثقافت کا مستقبل)۔ ۴۵ کی دہائی کے شروع میں تحریر کی ہے وہ اس کے ایک حصہ میں اس طرح تحریر کرتے ہیں: تحریک کا راستہ صاف سترہ اور بالکل سیدھا ہے اور اس میں شک و شہمہ اور کسی بھی طرح کی کوئی کجھ نہیں پائی جاتی ہے اور وہ

یہ ہے یورپ والوں کی طرح اپنی زندگی ڈھال کر ان کی روشن کو اختیار کریں اور ان کے راستے پر چلنے چاہئے تاکہ جدید تمدن میں بالکل انھیں کی طرح ہو کر ان کے شریک ہو جائیں وہ چاہے اچھی ہوں یا بُری خوشگوار ہوں یا تلخ چاہے وہ ان کی طرف سے ضروری ہوں یا ان کو برے لگتے ہوں، چاہے اس کی اچھائیاں ہوں یا خرابیاں۔ جو شخص اس کے علاوہ سوچے وہ یا تو فریب کا رہے اور یا فریب خور دہ (دھوکہ میں پڑا ہو) ہے مؤلفات فی المیزان، کے، ص ۱۹ سے نقل کیا گیا ہے۔ اس سے ان کی تنقید اور اجتماعی نظریات کی تحقیق کی جاسکتی ہے۔

16- PP.208, Islam.E.Von Grunebaum

(۲۰) المعالم الاسلامی والا استعمار السیاسی والا جماعتی والثقافی، میں رجوع کریں خصوصاً اس کے ص ۱۵۸-۱۵۹ پر رجوع کریں۔

(۲۱) محمد المبارک شام کا رہنے والا ہے جس نے موجودہ زمانہ میں اپنے وطن شام کے بارے میں زندہ توصیف کو اپنی کتاب الفکر الاسلامی الحدیث فی مواجهۃ الافکار الغربی کے تفصیلی مقدمہ میں تحریر کرتا ہے۔ ایک ایسی تعریف و توصیف جو در دور نجح سے بھری ہوئی ہے۔ ایسا در دور نجح جو اس کی تہذیب و ثقافت، زبان و ادب رسومات اور اس کے دینی مظاہر اور اس کی تہذیب و ثقافت پر حملہ (بجوم) سے پیدا ہوا ہے۔ خصوصاً اسلام در جهان امروز، (اسلام اور عصر حاضر) مؤلفہ کائنٹ ول اسمٹھ کی کتاب کے، ص ۱۱۴-۱۶۱ پر رجوع کیجئے، جو عربوں کے مذہبی احساسات کے مجرود ہونے کو بڑی ہی ہمدردی اور دلسوzi کے ساتھ بیان کرتا ہے اور اسی طرح سے نئے زمانہ میں مسلمانوں کے حالات کی تشریع کرتا ہے۔

مشرق وسطیٰ کے مطالعات کا بین الاقوامی جریدہ، شمارہ ۴، ۱۹۸۱ء۔

(۲۲) اس قسم کے چند نمونوں کو کتاب ناسیونالیسم ترک و تمدن باختر، مؤلف ضیاء کوک آلب، (جدید ترکی کے معنوی باپ) کی اس تصنیف میں دیکھا جاسکتا ہے۔ جس کو سید حسین نصر اپنی کتاب علم و تمدن در اسلام، کی عالمانہ تہبید میں جو اس نظر و تفسیر پر ایک تنقید ہے اس کی طرف رجوع کیا جائے اور اسی طرح ایداؤلوژی و انقلاب، کے ص ۶۴-۹۳ پر رجوع کریں۔

(۲۳) اس تاریخی حصہ میں مسلمانوں اور ان کے حالات اور فکری خصوصیات اور مسلمان روشن فکروں کی فکری خصوصیات معلوم کرنے کے لئے خصوصاً آپ اس تاریخی دور میں ملاحظہ کیجئے جہاں پر خمنی طور پر ان کے نظریات پر تنقید بھی کی ہے۔ Von . E.G

.86-PP.185, 1949, Islam, Grunebaum

(۲۴) افسوس کا مقام ہے کہ اسلامی ممالک کے مذہبی سماج کی طرف سے تہذیب نوکی طرف جھکاؤ کی بہت جوابدہی کے بارے میں اور اسی طرح ان کے نفیيات پر پڑنے والے اثرات کے محاذ سے بھی مسلمان جوانوں کے رحمانات کے بارے میں بہت ہی سرسری جائزہ لیا گیا ہے۔ اس بارے میں ایداؤلوژی و انقلاب کے صفحات ۱۷۸-۲۶۹ پر رجوع کریں؛ پیامبر و فرعون کے ص ۲۷۳ اور ۲۹۵ پر رجوع کریں اس طرح ایک سعد الدین ابراہیم مشہور مصری معاشرہ شناس جس نے اکثر مصر کی معاشرتی اور اسلامی تحریکوں کے بارے میں کام کیا ہے اس کی تحقیقات کی طرف رجوع کیا جائے اس کے مقالہ کے خلاصہ کو اور خود مؤلف اور

اس کی کارکردگیوں سے روشناس کرایا گیا ہے خصوصاً اس کا وہ مقالہ اس کے عنوان کے تحت مطالعات of Egypt Militant Islamic Groups

مشرق و سلطی، مطبوعہ ۱۹۸۱ء کے بین الاقوامی جریدہ کی طرف رجوع فرمائیں۔

(۲۵) ملاحظہ کریں معيشتی اور معاشرتی تبدیلیوں کی تاثیر کے بارے میں تیسرا دنیا کے جوانوں کی جدائی خواہی کی تحریک (اصالت خواہ) کے بارے میں، ہندو پاکستان، نامی کتاب کے ص ۱۴۱-۱۹۱ اور اسی طرح سعد الدین کی کتاب جو The New Arab

. کے عنوان کے تحت ہے اس کی طرف رجوع کریں۔

(۲۶) پیشہ تو پڑھ کے واسطے اس کتاب میں رجوع کریں۔

, The Shape of Ideas to Come, Islamic Future

.59-PP,47

(۲۷) ہندو پاکستان، کے ص ۹۱، ۱۴۱، پر رجوع کریں۔

(۲۸) یہ نکتہ اور اس سے وجود میں آنے والے عوارض کی طرف ہیملٹن گب اچھی طرح سے تو پڑھ دے رہا ہے: .127- PP,124,Modren Trends In Islam:

(۲۹) نمونہ کے طور پر رجوع کریں: Inside the Iranian Revolution:، اور اسی طرح: ایدئولوژی و انقلاب، کے ص ۳۰-۱۸۴ پر بھی رجوع کریں۔

(۳۰) مزید وضاحت کے لئے موج سوم، میں خصوصاً اس کے ص ۳-۲۷-۴۳۱-۴۵۳-۴۵۳-۔

(۳۱) (Idealogy) مارکسیزم ایڈیالوجی کی بنیاد اور فکری عمارت کچھ اس طرح تھی کہ وہ اپنے ماننے والوں اور حاشیہ نشینوں کو ہر وہ شخص جو اس کا مخالف ہے اور بنیادی طور پر اس کی افکار کے مخالف تھا ان کو طلب کر لیتا ان سے بیزاری سے پیش آنے کی دعوت دیتا۔ ان لوگوں کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے کہ جو لوگ ان کی فکر سے ہم آہنگ نہیں تھے ان کے خلاف بڑی ہی سختی اور شدت کے ساتھ پیش آیا گیا ہے، نمونہ کے طور پر ملاحظہ ہو کتاب درزیر زمینی خدا، کا واقعہ ملاحظہ ہو جس میں چینی اور روسی کمیونسٹوں کے ذریعہ ترکستان الشرقيہ، مشرقی ترکستان کے مسلمانوں کا کس بے حری سے قلع قع کیا گیا ہے اس داستان میں اس کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ سماجیان کے ساتھ قیام کے بارے میں خاص طور سے اس کے صفحات پر رجوع کیا جائے، ۱۳۱، ۵۱،

جو چیز اس ملک کے استحکام اور اتحاد کی حفاظت کرتی تھی وہ عملی طور پر اس کے خلاف کرنی حکومت کا فولادی آہنیں مشت موجود تھا جبکہ اور فولادی تہذیب اور عہد استالینی، اور جنگ جہانی دوم کے زمانہ والے اکتبر والے انقلاب کے زمانہ کی نسل ظلم ستیزی کے خلاف ارتباط پیدا کرتا اور زندہ قوموں کے آرمانی ثقاوتوں کا ان کے ملتے جلتے اجزاء سے پیوند مارکسیسم کی نگاہ میں ایسی قوم جو مارکسیزم کو اس کے نزد دیک لائی، صنعتی اور اقتصادی تغیرات اور انقلاب کا وجود میں نہ آنا اور اسی کے اتباع میں سیاسی اور فکری بدلاو جو عموماً ۷۰ کے آخری دہائی اور ۸۰ کی آخری دہائی میں وجود میں آیا اور آج یہ تمام تغیرات اور تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں

نمونہ کے طور پر ملاحظہ ہو کتاب گفتگو با استالیین ۲۸۷، ۲۴۳ ص ۲۹۵، ۲۴۷، ۲۹۰ پر رجوع کریں۔

(۳۳) خصوصاً اپراطوری فروپاشیدہ، کے ص ۲۹۵۔ ۲۴۷، ۲۹۰، پر رجوع کریں۔

(۳۴) فرانسوی مارکسیزم کے ص ۴۹، ۳۰، ۴۹، ۳۰، پر رجوع کریں۔

(۳۵) طبقہ جدید، کے صفحات ۱۳۲، ۱۳۰، پر رجوع کریں۔

(۳۶) روئی مسلمان مبلغین کے ذریعہ اسلام اور مارکسیزم کے درمیان یکسانیت پیدا کرنا اور اس کے کم مدت اور طویل مدت میں حاصل ہونے والے نتائج، خاص طور پر اپراطوری فروپاشیدہ کے ص ۲۷۸۔ ۲۶۱ پر ملاحظہ کریں۔

(۳۷) یہ مشکل تمام ان افکار سے متعلق ہے جو بعض دلیلوں کے سبب ان کے سمجھنے اور ان سے وابستگی کے علاوہ آگے بڑھ رہی ہے مارکسیزم بھی تیسری دنیا کے بہت سے ممالک میں ایسی مشکلات سے رو برو رہی ہے۔ توضیح کے لئے ملاحظہ ہوا یڈل لوٹھی و انقلاب ص ۲۱۵، ۲۱۶۔

(۳۸) Muhammedanism کے جیسی مختصر اور دقیق کتاب کی آخری فصل میں ملاحظہ کیجئے

ہمیلٹن گب نے اپنی کتاب میں ایک زمانہ پہلے بڑی ہی وقت اور ہوشیاری کے ساتھ عصر حاضر میں اسلامی عقب تشنیٰ کے نامکن ہونے کے بارے میں بیان کیا ہے۔

(۳۹) اس تقطیق کا بہترین نمونہ 2nd Vatican Council

1014-PP,903

آپ کو یہ مل جائے گا کہ اسلام اور عیسائیت کا عکس العمل جدید تمدن کے مقابلہ میں اس کے اثر کوئی تہذیب کے ماننے والوں پر بھی چھوڑا۔ اس بارے میں خصوصاً آپ روش فکران عرب و غرب<sup>۱۴</sup> کے ص ۱۷، ۱۴، پرجو ع کریں۔

(۴) بلاں اپنی کتاب The Future of Islam 1882 میں معتقد تھا کہ مستقبل لا مذهب مسلمانوں سے متعلق ہے یعنی سماج میں ان کا بول بالا ہو گا۔ Islamic Futures, P, 25.

(۴) موجودہ صدی میں مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ ترقی پسند اور نئی فلکر کے حامل افراد پر وٹسان کی تحریک سے قوت لیکر بغیر اس توجہ کے قیام کر دیا کہ انھیں کے جیسا کوئی اقدام کریں اہمیت کا حامل مسئلہ یہ تھا کہ ان کے بعض افراد کا لوٹر کی طرح عوام بعض گروہ کی طرف سے تعارف کرایا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ لوگ بھی اسی کی طرح کامیابی حاصل کر لیں گے اور ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ایسا نہ ہو گا۔ اس کا ایک بہترین نمونہ عبدالرزاق ہے اس کے باوجود کہ اس کی کتاب الاسلام والاصول الحکم تقریباً پوری کتاب تاریخی اور علمی حقائق پر استوار ہے لیکن چونکہ اہل سنت کے بنیادی اصول کی مخالف تھی لہذا اپنے لئے راستہ نہ بناسکی۔ اس لئے کہ اس کے اصول ایسے نہیں تھے جو زمانہ کے ساتھ ساتھ پڑانے ہو جائیں اور وہ مکمل ادیے جائیں۔

یہاں مناسب ہے کہ وہ چیز جو اس زمانہ کی معتبر اور معروف ترین نشریات میں سے یعنی المقتطف نامی جریدہ جو اس کتاب اور اس کے مؤلف کی شان میں تحریر کیا گیا ہے میں اُسے

نقل کر رہا ہوں: اس کتاب نے جو غواص پنے مؤلف کے خلاف مچایا جو جامعہ از ہر کے علمائیں سے ہیں اور شرعی عدالت کے قاضیوں میں سے ہیں، ان کے خلاف جنجال برپا کر دیا اس نے ہم کو اس شور و ہنگامہ کی یاد دلادی جو عیسائیت میں دینی مصلح اور ان کے پیشوں لوٹر کے خلاف برپا کیا گیا تھا۔ وہ ایسا شخص تھا جس کے اقدام کا نتیجہ اور زیادہ تاثیر عیسائی ممالک کے دینی، ادبی اور مادی حلقوں میں تھا، ہماری نظروں میں جو کچھ عبد الرزاق نے تحریر کیا ہے وہی اثر پڑنے والا ہے جو لوٹر کی تحریر کی وجہ سے اثر پڑا ہے ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ لوٹر اور اس کے ساتھیوں نے کہا اور کیا وہ پورا کا پورا درست تھا، اسی طرح اس وجہ سے بھی نہیں کہ ہم عبد الرزاق کے بارے میں اس بات کے قائل ہیں کہ عبد الرزاق اور ان کی طرح کے لوگوں نے جو کچھ کہا ہے، وہ سب کچھ صحیح اور اس میں خطأ و غریش کا گذر نہیں ہے، بلکہ اس لحاظ سے ہے کہ بعض متوفکرین کا شہہ آمیز تنقیدی موقف بحث و تحقیق اور چھان بین تک پہنچا دیتا ہے اور پردوں کو چاک کر کے حقائق کو آشکار کر دیتا ہے۔ ہم ابھی تک نہیں بھولے ہیں کہ شیخ محمد عبدہ کے خلاف سب نے مل کر کیا کیا ہنگامہ کیا، لیکن آہستہ آہستہ اموسلا دھار بارش تھم گئی یہاں تک کہ انھیں (شیخ محمد عبدہ کو) امام کا لقب مل گیا۔ سب لوگوں نے ان کی اقتدار کی اور ان کے راستے کو اپنا لیا۔ المقتطف اکتوبر ۱۹۲۵ءی کے شمارہ کے ص ۳۲۲، پر محمد عمارہ کی کتاب الاسلام و اصول الحکم کے مقدمہ کے صفحہ ۲۴، سے نقل کیا گیا ہے۔

P.12th: Islamic Movements, Asaf Hussain مانخواز از

(۴۳) ان حقائق کو بہت سے انگریزوں نے اگرچہ وہ دشمنی اور کینہ سے بھرے انداز اختیار کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔ 44- PP.43, Islamic Futures

:9- PP.4, The Dagger of Islam 35- PP.27. Ibid اور اسی طرح .82-69

کہ اس درمیان مؤلف نے مغرب پرست عیسائیوں اور عربی دنیا میں دنیا پرست مسلمانوں کے فرق کو جدید تمدن سے ملنے پر واضح کیا ہے اس کے واسطے رجوع کریں The 35- 27. p, Dagger of Isran

(۴۴) عیسائیت کا تمدن کے ساتھ رو برو ہونے اور یہ کہ آج کل کے انسانوں کے واسطے کیا پیغام رکھتا ہے اور کیا پیغام رکھ سکتا ہے اس کے بارے میں آپ رجوع کیجئے آج کے عیسائیوں کے بزرگ علماء میں سے ایک بزرگ عالم کی طرف جس نے مندرجہ ذیل عنوان پر لکھا ہے۔

.601-554:112-89:51- PP.25, On Being a Christian

(۴۵) اس بارے میں بہترین نمونہ سید قطب الدین کی کتاب معالم فی الطریق ہے۔ اس کتاب کے ابتدائی اور اہم مقاصد میں سے ایک مقصد ان لوگوں کی جرئت مندانہ اور پوری قدرت کے ساتھ آخری رد ہے جو مؤلف کی تعبیر کے مطابق شکست خورده اور مست عناصر ہیں (المحز و مون روحیاً و عقلیاً) اور ان کی کوشش یہ ہے کہ آج کل کی جدت پسندی اور چک

بھڑک کو اسلام میں نمایاں کر دیں اور اسلام کی شجاعت اور بہادری کی روح کو بالکل سے ختم کر دیں۔ اگرچہ یہ کتاب ایک ایسے تیز گام گروہ کے دستور العمل کے عنوان سے جن لوگوں نے اسلامی معاشرہ کی تاسیس کی ذمہ داری اپنے سر لے رکھی ہے ان کے واسطے لکھی گئی ہے ملاحظہ ہواں کے ص. ۵۱، ۵۲ کی طرف۔ لیکن گویا اس کی اصلی ذمہ داری تمام ان لوگوں کی واقعی اور ہمہ جانبہ مخالفت کا قد علم کرنا ہے جو اسلامی تہذیب اور اس کی حقیقت کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ افکر اسلامی الحدیث و صلة بالافکار الغربی نامی کتاب کی پوچھی طباعت کے مقدمہ کی طرف بھی رجوع کریں اس کا مؤلف صریحاً کہتا ہے: ایسے مشرق پسند لوگوں کی کوششوں کا خطہ جو ہمیشہ مسلمانوں کو نصیحت کرتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے دین کو معتدل کریں اس طرح کہ وہ جدید تمدن کے ساتھ سازگار ہو جائے، مسلمان مارکس کے نظریہ کے تحت چلنے والے نظام کے خطرہ سے کم نہیں ہے قبل ذکر بات یہ ہے کہ مؤلف نے یہ بات ایسے وقت میں کہی جب مارکسیزم نے اپنا ڈیرہ تمام جگہ ڈال دیا تھا۔ زیادہ انقلابی اور جاندار نہموں کو معلوم کرنے کے لئے مصر و شام کی اخوان المسلمين کمیٹی کے الدعوة والندیر نامی جریدہ کے مختلف شہروں کی طرف رجوع فرمائیں۔

(۴۶) یہاں پر لازم ہے کہ اگرچہ اہم نقطہ کو اجمالاً تحریک اسلامی کے آئندہ روابط کے بارے میں یاد دہانی کراؤں۔ افسوس کا مقام ہے کہ اس بارے میں سنجیدگی اور حق گوئی کے طور پر حقیقت کو بہت کم بیان کیا گیا ہے اور یہ اس تحریک کی کمزوریوں میں سے ایک بہت بڑی کمزوری ہے بہر حال کوشش کریں گے کہ ہم چند اہم نکات کو بیان کریں۔

موجودہ اسلامی تحریک کی بنیادی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ وہ اپنی تمام مشکلات کا حل صرف ایمان اور ایثار کی روشنی میں تلاش کرنا چاہتی ہے عصر حاضر کی زندگی کی اہم ضروریات کو تقریباً نظر انداز کر دیتی ہے اور ان ضرورتوں کو مغربی تمدن سے بہت کم جدا کرتی ہے۔ مغربی تمدن بلکہ بہتر ہے کہ تمدن جدید کا نام دیں، کیونکہ اب یہ تمدن فقط مغرب سے متعلق نہیں ہے، اب یہ تمدن عالمی تمدن ہو گیا ہے اور اس انقلاب میں سبھی لوگوں کا کردار اور حصہ ہے، یہ مسئلہ کا ایک رخ ہے اور آج کی دنیا میں زندگی بس کرنے کے لوازم ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ دنیا میں عقیدہ کا حامل کوئی بھی مسلمان بلکہ کوئی بھی مومن اور موحد کی طور پر اس تمدن اور تمدنی یہ کی کاملاً طرفداری نہیں کر سکتا۔ یہ چیز بہت واضح اور روشن ہے اس میں کسی قسم کی بحث و گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ بھولنا چاہئے کہ آج کی دنیا میں زندگی بھی چند اصول و ضوابط کی پابندی کی محتاج ہے ان اصول کی طرف توجہ دیئے بغیر زندگی نہیں کی جاسکتی یا کم از کم باعزت اور مستقل طور پر زندگی گزارنا بس دشوار کام ہے۔ پابندی اور غور و فکر اور پہم کوشش کرتے رہنا اپنی ذمہ داری کو جانا نظم اور قانون مندی، کام کی طرف رغبت، انتظام سنبھالنا، قانون کی فرمابرداری اور قانون شکنی کے لئے عذر نہ تراشنا۔ ذمہ داری کو قبول کرنا اور غیر ذمہ دارانہ مداخلت سے پرہیز کرنا اور اپنی ہی حد تک محدود رہنا اور اپنی قدرت اور وسعت سے زیادہ توقع نہ رکھنا، نعاشرتی طور پر اپنے آپ کو ہم آہنگ کر کے اس کا تعاون کرنا اور آخر کار علم و عقل کی بنیاد پر فکر کرنا اور محاسبہ کے اعتبار سے پختہ ارادہ ہے اور قسمیم کرنا۔ البتہ اس مقام پر جہاں پر علم و عقل اور محاسبہ کو مداخلت کرنی چاہئے وہ مقامات انھیں

لوازم میں سے ہیں۔ اگر گذشتہ زمانہ میں ان چیزوں کی طرف توجہ کئے بغیر معاشرہ کا ادارہ کرنا ممکن بھی ہوتا ہے، لیکن آج کل (علم و عقل کے بغیر) بالکل ممکن نہیں ہے۔ اور تعجب کا مقام یہ ہے کہ اسلام نے بھی ان تمام چیزوں کے بارے میں صریحی اور تاکیدی حکم دیا ہے، لیکن ان آخری صدیوں میں مسلمان لوگ اس طرح زندگی بسر کرتے رہے ہیں کہ دوسری ہرملت و امت سے بہت کم ان چیزوں کے پابند رہے ہیں۔ ان چیزوں پر پابندی نہ کرنے کی بہت سے تاریخی، معاشرتی، اخلاقی، تربیتی اور نفیسیاتی اسباب تھے کہ ہمیں ان کو اچھی طرح غور و فکر کر کے پہچان لینا چاہئے۔

اہم ترین دلیلوں میں سے ایک دلیل مسلمانوں کا اسلام کے بارے میں عینیت ذاتی اور فردی نظریہ رکھنا ہے۔ ماضی میں ایک اچھا شخص وہ سمجھا جاتا تھا، جو عبادی احکام کو بجا لانے کے علاوہ مثال کے طور پر اہل خیرات بھی ہو۔ مسجد، مدرسہ، پانی کے ذخیرہ انتظام اور پل اور اس کے ایسی چیزوں بنانے کے لئے وقف کر دینا تھا۔ موجودہ دور میں لوگوں کی دینی فہمی معاشرتی اور انقلابی میلان کے زیر اثر قرار پائی گئی ہے، اس زمانہ میں اچھا شخص اُسے کہا جاتا ہے جو مثال کے طور پر بے دینوں، مفسدوں اور جباروں سے زیادہ مقابلوں کے مختلف میدانوں میں بہترین استقامت کے جو ہر دکھائے۔ بیشک یہ تمام چیزیں حقیقی ایمان کی علامتیں ہیں۔ لیکن مشکل اس مقام پر ہے کہ اس طرح کی علامتوں کے علاوہ، دینی ایمان کے دوسرے مظاہر کی طرف اساسی اعتبار سے یکسر تو جنہیں دی جاتی ہے۔ ان کی نظر میں کسی شخص کے اچھے ہونے کا یہ معیار نہیں ہے کہ مثال کے طور پر وہ اچھے طریقہ سے غور و خوض اور حوصلہ

کے ساتھ اپنے فرائض کی انجام دہی میں مشغول ہو جائے اور یا لگاتار کام میں لگے رہ کر امانت داری کے ساتھ کام کو آخر تک پہنچائے یا لوگوں کے ساتھ مل کر ان کا تعاون کرے جو آج کی صنعتی اور تکنیکی زندگی کا لازم ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ خلوص کے ساتھ کام میں مشغول ہو جائے کسی بات کو اپنے طریقے سے کان دھر کے سُنے اور مختلف بہانوں کے ذریعہ کام سے جی نہ چرائے اور وہ امور جو اس سے متعلق نہیں ہیں ان میں مداخلت نہ کرے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ ایسے مفہوم اور مطالب ہمارے درمیان جانے پہچانے نہیں ہیں، دین اور دینی ذمہ داری سے کوئی رابطہ نہیں ہے یہاں تک کہ یہ بھی کہنا چاہئے کہ اس قسم کے مسائل نہ فقط پہچانے ہوئے نہیں ہیں بلکہ عملی طور پر ان کے مخالف ہیں جو حاکیت رکھتا ہے اور اس کو اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ نمونہ کے طور پر اگر چالاکی کے مفہوم کو ہمارے عرف کے درمیان بیان کیا جائے اور یہ بھی دیکھا جائے کہ اس کے مصادیق کون لوگ ہیں تو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ کسی حد تک ذہن و فکر و روح پر حاکم مفہوم ہیں چاہے فردی یا ذاتی ہوں یا معاشرتی ہوں، جو آج کی دنیا میں ضروریات زندگی سے تضاد اور اختلاف رکھتے ہیں، اس سے بدتر یہ ہے کہ اس قسم کے مفہوم نے دین میں اپنی جگہ بنالی ہے اور ایسے بہت کم لوگ ہیں جو ان کو دین، ایمان اور اخلاق کے خلاف گردانے اور جانتے ہیں۔ جب تک یہ مشکل کم سے کم اطمینان بخش انداز پر حل نہ ہوگی، معاشرہ ترقی کے زینوں کو طنہیں کر سکتا۔ جیسا کہ اس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ یہ مشکل صرف ہماری مشکل نہیں ہے بلکہ کم و بیش تمام اسلامی معاشروں اور عصر حاضر کی اسلامی تحریک کے لئے یہ مشکل ہے۔ ہماری مشکلات کا

حل فقط خود جوش پیدا ہونے والی فدا کاری میں نہیں ہے ان معنی میں ایثار اور فدا کاری جو آج کل رائج ہیں اس سے ہماری مشکل حل نہ ہوگی۔ اور بیشک یہ شرط لازم و ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ یہ ایثار اور فدا کاری ان اصول و اقدار کے ساتھ ہونا چاہئے جو اس تاریخی دور میں زندگی کے لئے ضروری ہے اور ان اصول و اقدار کا آپسی ارتباط ضروری ہے، اس میں اس طرح رابطہ ہونا چاہئے کہ ہماری اور اس امت اسلامی کی سرفرازی اسی رابطہ کی مر ہوں منت ہے۔ یہ پیوند اس طرح ہونا چاہئے کہ نہ دینی بنیادوں کو کوئی نقصان پہنچاوار نہ ہی یہ مفہوم اتنے زیادہ پست ہو جائیں کہ ہرقانون شکن، فریضہ ناشناس، نظم، آرام طلب، لاپراواہ اور جہالت اور ہر طرح کی بات کو کسی نہ کسی اعتبار سے ان کی توجیہ کرے یا ان کو قانونی اور جائز قرار دے۔ اسلامی دنیا کے اس وسیع دائرہ میں قدرتے تسامح کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اسلامی ممالک جو ایران کے مشرقی سمت میں واقع ہیں، وہ اس مشکل سے کم تر روبرو ہوئے ہیں اور جتنا بھی مشرق کی طرف بڑھتے جائیں، یہ مشکل کم ہوتی جاتی ہے۔ ترکی اور اصولی طور پر ترک زبان لوگ چاہے وہ ایران میں ہوں یا یروان ایران، مختلف اسباب کی وجہ سے ایرانیوں سے کم اس مشکل سے روبرو ہوئے ہیں۔ عربی دنیا میں یہ مشکل ایران ہی کی طرح سنبھیڈہ، پیچھیدہ اور عمیق ہے اگرچہ ان ممالک میں سے ہر ایک ملک میں گذشتہ حالات کے اعتبار سے قوی اتحاد کا استحکام، استعماری تجربہ اور موجودہ حکومت کی نویعت کے اعتبار سے، اس مشکل میں شدت و ضعف پایا جاتا ہے۔ اس کی بیشتر وضاحت کے لئے آپ افریقہ میراث گذشتہ و موقعیت آئندہ کے ص ۸۶-۸۱، پر رجوع کریں اور اسی طرح دو کتاب ضیاء

الدین سردار کی ہیں جو دنیا نے اسلام کے معاشرتی، معيشتی اور ثقافتی مسائل کے معروف ماہر ہیں، وہ کتابیں اس عنوان کے تحت ہیں:

, Islamic Futures, The Future of Muslim Civilization

(۴۷) گذشتہ زمانہ کے بعض علماء اور اسی طرح عصر حاضر کے صاحبان قلم اس فرق کی طرف عالمانہ طور پر توجہ کر رہے ہیں۔ قدیم زمانہ کے علماء میں سے آپ رجوع کریں کتاب الفصل فی الملل والا ہوا و الخل کے مصنف ابن حزم، ج، ع، ص ۹۴۔ ان کے بیان کا کچھ حصہ اس طرح ہے: یہ صحیح نہیں ہے کہ، آپ اپنی روایتوں کے ذریعہ ان (شیعوں) کے خلاف دلیل پیش کریں۔ کیونکہ وہ لوگ ہماری روایات کو قبول نہیں کرتے ہیں اور اسی طرح وہ لوگ بھی اپنی روایتوں کے ذریعہ ہمارے اوپر احتجاج نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ان کی روایات کو صحیح نہیں جانتے یہ ضروری ہے کہ مباحثہ کے دونوں فریق ایسی چیز کے ذریعہ استدلال کریں (احتجاج کریں) جو ایک دوسرے کو قبل قول ہو چاہے اس سے دلیل پیش کرنے والا خود اس کا قاتل ہو یا قائل نہ ہو...

اور دور جدید کے صاحبان قلم یعنی متاخرین کی طرف آپ رجوع کرنا چاہیں تو معالم الخلافۃ فی الفکر السیاسی الاسلامی کے ص ۱۳۱ - ۱۳۸ اور کتاب الفکر السیاسی الشیعی کے ص ۱۱۶ - ۱۸۰ پر رجوع کریں۔

## دوسرا فصل

### فہم تاریخی

#### صدر اسلام کی تاریخ پر ایک نظر

اہل سنت اور شیعوں کی سیاسی فکر کی تصویر کشی میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل سبب، تاریخ اسلام پر ان دونوں یعنی اہل سنت اور شیعوں کے زاویہ نگاہ کی کیفیت ہے۔ البتہ اس بحث کی اہمیت فقط اسی میں محدود نہیں ہے جس کی مدد سے ہم ان دونوں کے سیاسی افکار کے معیار کا پتہ لگالیں بلکہ بنیادی طور پر ان دونوں مذہبوں کے دینی فہم کلی طور پر اور اس کی تمامیت کے لحاظ سے اس فکر کے زیر اثر ہے۔ اگرچہ اس بات کا احتمال پایا جاتا ہے کہ ایسے نظریہ کی تاثیر ان دونوں کی سیاسی فکر کو وجود میں لانے کے لئے اس کی تاثیر دوسرے مباحث میں ہونے والی تاثیر سے زیادہ ہے۔

جیسا کہ اس سے پہلی والی فصل میں کہا جا چکا ہے کہ مسئلہ صدر اسلام کی تاریخ، خصوصاً خلافے راشدین کے زمانہ کی تاریخ صحابہ و تابعین کے زمانہ کی تاریخ، اہل سنت کے درمیان بنیادی حیثیت کی حامل ہے۔ حالانکہ شیعوں کے نزدیک تاریخ کا یہ زمانہ دوسرے تمام زمانوں کی

تاریخ سے کوئی امتیاز نہیں رکھتا ہے اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ فقط نظری اعتقاد کی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت اس کے واسطے کسی خاص دینی اہمیت کے قائل ہیں اور شیعوں کے نزدیک اس کی ایسی اہمیت نہیں ہے۔ فقط اس کی اہمیت اس بات میں ہے کہ ایسے نظریہ نے ان دونوں فرقوں کے ماننے والوں کو دین کے سمجھنے میں بہت شدت کے ساتھ متاثر کر دیا ہے۔ جہاں تک کہ اہل سنت اسلام کو، کلی طور پر، اسی مخصوص زمانہ کی تاریخ کے معیار پر پرکھتے ہیں۔ اس اعتبار سے کہ اس تاریخی دور کو وہ تعلیمِ اسلامی اور اس کی عینیت کا مظہر سمجھتے ہیں۔ اور شیعہ لوگ تاریخ کے اس حصہ کے برخلاف اسلامی معیار کے مطابق پرکھتے اور دیکھتے ہیں؛ لہذا اس مخصوص زمانہ کی تاریخ کے متعلق تنقیدی موقف اپناتے ہیں۔ اس اعتبار سے اس دقيق نکتہ کا سمجھنا ان دونوں گروہوں کے دینی افکار کے سمجھنے میں اور خاص طور سے ان دونوں کی سیاسی فکر کا سمجھنا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے؛ لہذا پہلے اسی بحث کو شروع کر رہے ہیں۔

اہل سنت تاریخ کے شروعاتی دور کے واسطے اور کم سے کم خلافائے راشدین کے آخری دور تک، ایک خاص دینی شان اور حیثیت، بلکہ خدا ایک دادِ نقدس کے قائل ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ یہ عقیدہ کیوں، کس طرح اور کس زمانہ میں ظاہر ہوا اور اس نے دینی فہم پر کیا اثر چھوڑا اور خصوصاً سیاسی افکار اور معاشرتی و تاریخی تبدیلیوں پر کیا اثر ڈالا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ تاریخ اسلام (اس مقام پر تاریخ سے مراد رحلت پیغمبر ﷺ سے لے کر خلافائے راشدین کے آخری دور تک ہے اور عام طور پر اہل سنت متفقہ طور پر اس (خلافائے

راشدین کی خلافت کے) زمانہ کو دین کا بہت زیادہ اہمیت والا زمانہ سمجھتے ہیں) صدر اسلام کے مسلمانوں کی نظر میں یہ زمانہ خصوصیت کے ساتھ دین کے لئے بے اہمیت زمانہ تھا۔ وہ لوگ نہ فقط یہ کہ ایسی اہمیت کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے بلکہ یہاں تک کہ وہ اس کے کسی امتیاز کے بھی قائل نہیں تھے بعد میں پیش آنے والے واقعات اور حوادث نے ایسے عقیدہ کو جنم دیا۔

دوسرے لفظوں میں اس دور کی تاریخ کچھ اس طرح وجود میں آئی اور بعد میں اس کو ایک دوسری نظر سے دیکھا جانے لگا، یہ دونوں دور بہت زیادہ مختلف تھے۔ اہل سنت کی دینی فکر اور اس طرح ان کی سیاسی فکر بھی اسی نظریہ کے تابع تھی نہ کہ اس کے وجود میں آنے کی۔ اب دیکھتے ہیں اس کی داستان کس طرح تھی اور کن کن نشیب و فراز سے گذری اور کہاں تمام ہوئی اور بنیادی طور پر ایسا کیوں ہوا۔ اس بحث کی وضاحت کے لئے ہم مجبور ہیں کہ اس کے وجود میں آنے کی کیفیت کی چھان بین اور تجزیہ کریں اور اس کے بعد اس نظریہ اور عقیدہ کے پیدا ہونے کی کیفیت کو بیان کریں۔

اس مقام پر حقیقی نکتہ، جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں یہ تھا کہ اس زمانہ کے تمام مسلمانوں کی نظر میں پیغمبر اکرم ﷺ اور ان کے عہدہ نبوت کے علاوہ کسی شخص کے لئے کوئی خاص مقام و منزلت اور حیثیت کی حامل نہیں تھی کہ وہ خاص تقدس کا حامل کہا جائے۔ (۱) (بعد میں ہم بتائیں گے کہ اس زمانہ کے مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا گروہ پیغمبر اسلام کے دستور کے مطابق حضرت علی کے لئے ایک بلند و بالا مقام و منزلت کے قائل تھے۔) یہاں تک کہ خلافت اور خلفاء بھی کسی

خاص شان و حیثیت کے حامل نہیں تھے۔ اس زمانہ کے واقعات کے اجتماعی مطالعات نے ہم کو اس نتیجہ تک پہنچادیا ہے۔

### ابو بکر کا انتخاب

پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد ابو بکر کی خلافت کا انتخاب کیا گیا۔ لوگوں پیغمبر کے خلیفہ اور جانشین ہونے کے عنوان سے ابو بکر کو اپنے دنیاوی امور کے لئے منتخب کر لیا گیا (صرف خلیفہ رسول اللہ ﷺ (نہ کہ اس سے زیادہ) یعنی معاشرہ کو ادارہ اور ان کے امور کو منظم کرنے والے کی حیثیت سے منتخب کیا گیا۔ البتہ یہ بات نہ بھولنا چاہئے کہ اس زمانے کے مسلمانوں کے سیاسی، اور معاشرتی اور دنیاوی امور کا مفہوم اس زمانے سے مختلف تھا۔ (۲)

اسلام اس زمانے میں معاشرہ میں اسی زمانہ کے اصول و قوانین اور اپنے مقدسات کے مطابق تغیرات وجود میں لا یا تھا معاشرتی (دینی، سیاسی) (دینی اور معيشتی) اداروں کی بنیاد ڈالی تھی جو فی الحال سایہ گلن تھے۔ ابو بکر خلافت کے لئے منتخب ہوئے تاکہ ایسے معاشرہ میں ادارے کی ذمہ داری کو سنبھال لیں۔ ایک ایسا معاشرہ جس کے دینی اور دنیاوی امور کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ سب آپں میں ایک دوسرے سے جدا نہ ہونے والے پیوند کے ذریعہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور اہمیت کا حامل یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ شروع ہی سے اس طرح وجود میں آ کر پلا بڑھا اور پروان چڑھا تھا اور اس کے دینی اور دنیاوی عناصر ایک دوسرے سے اس طرح جڑے ہوئے تھے کہ اس زمانے کے

مسلمانوں کی نظر میں ان عہدوں کے لئے صلاحیت کو پرکھنے کے لئے کسی خاص شرائط کی ضرورت نہیں تھی۔ صرف مسلمان ہونا اور خصوصاً ان تمام امور کا ذمہ دار ہونا ہی اس کی صلاحیت کے احراز کے لئے کافی تھا۔ (۳)

مثال کے طور پر نماز جماعت اور جمعہ معاشرتی اداروں میں سے ایک ایسا ادارہ ہے جو نو مسلم معاشرہ کا مذہبی سماج تھا۔ پیغمبر اکرم ﷺ کے زمانہ میں یہ دونوں نمازوں میں آپ ﷺ کی موجودگی میں چاہیے وہ مدینہ میں ہو یا دوران سفر ہوں یا کہ میدان جنگ میں ہوں آنحضرت ﷺ کی اقتدا میں نماز ادا کی جاتی تھیں اور جن بجھوں پر حضرت موجود نہ ہوتے تھے اس شخص کی اقتدا میں نماز ادا کی جاتی تھی جس کو آنحضرت ﷺ نے امیر اور اپنا جانشین مقرر اور معین فرمایا ہو مثلاً جنگ کے موقع پر نماز جماعت اور جمعہ لشکر کے سردار کی اقتدا میں ادا ہوتی تھی اور مدینہ میں آنحضرت کی عدم موجودگی میں آپ کا وہ جانشین نمازوں میں امامت کرتا تھا جس کو خود آنحضرت مقرر فرماتے تھے۔

اسی طرح جیسا کہ بیت المال بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدم موجودگی میں امیر لشکر یا اس جانشین کے ہاتھ میں ہوتا تھا جس کو آنحضرت معین فرماتے تھے۔ فیصلہ دینے اور حکم بننے اور سیاسی انتظامی (فوجی) امور کے ادارہ میں بھی عیناً ہی دستور العمل تھا۔ لیکن ان منصبوں کا احراز کرنا اس وقت کے مسلمانوں کی نظر میں اس معنی میں نہیں تھا کہ جو بھی فرد ان منصبوں کا عہدہ دار ہو، اس کی کوئی خاص دینی حیثیت ہو اور وہ خاص مقام و منزلت کا

حامل بھی ہوان دنوں کے مدینہ کے مسلمانوں کا تجربہ اس مفہوم کوڑ ہن میں رائخ کر رہا تھا کہ حاکم اپنی جگہ حاکم ہے، چاہے اس کی ذمہ داری کا دائرہ وسیع ہو یا محدود ہو، ان عہدوں اور منصبوں کو وہ اپنے ذمہ لیتا ہے اسی وجہ سے کبھی بھی یہ فکر پیدا نہ ہوئی کہ ایسے کاموں کی ذمہ داری کا سنبھالنا حاکم کو ایک خاص دینی منزلت اور مرتبہ عطا کر کے اسے مزید ترقی دے دے گا۔

علی عبد الرزاق نے اپنی معروف کتاب کی ایک فصل میں ان واقعات کو مفصل اور تحقیق کے ساتھ بیان کیا ہے جو واقعات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد رونما ہوئے وہ اپنے تخلیل و تجزیہ کے بعض ان حوادث کے بارے میں جو ابو بکر کے انتخاب سے پیدا ہوئے اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں: ...اس دن (یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے روز) مسلمان اس بات کے مشورہ میں مشغول ہو گئے کہ وہ لوگ ایک ایسی حکومت جس کو وجود میں لانا ضروری تھا اس کے بارے میں مشغول ہو گئے۔ واقعہ یہی سبب تھا کہ ان کی زبان پر امارت و امراء اور وزارت و وزرا کے ایسے کلمات جاری تھے اور قدرت و شمشیر، عزت و ثروت، شان و شوکت اور عظمت اور اپنی بزرگی کی باتیں کر رہے تھے۔ اور ان سب چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی مگر صرف اس لئے کہ حکومت اور ایک سلطنت کو وجود میں لانے کی تمام کوششوں میں غرق ہو جانا ہی اس کا اصلی سبب تھا، جس کا میتھہ یہ ہوا کہ مہاجرین و انصار اور بزرگ صحابہ کے درمیان رقبہ پیدا ہوئی۔ یہاں تک کہ ابو بکر کی بیعت کر لی گئی اور وہ اسلام کے پہلے بادشاہ تھے۔

اگر ان حالات پر غور و فکر کیا جائے جن حالات کے تحت ابو بکر کی بیعت کر لی گئی اور یہ کہ وہ کس طرح مند خلافت پر برا جمان ہو گئے؛ تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ بیعت محض ایک سیاسی اور حکومتی بیعت تھی اور جدید حکومتوں کی تمام خصوصیات کو اپنے اندر سمونے ہوئے تھی۔ وہ بھی دوسری حکومتوں کی طرح برپا کی گئی۔ یعنی قدرت اور تلوار کے زور پر قائم کی گئی۔

یہ ایک نئی حکومت اور سلطنت تھی جس کو عربوں نے قائم کیا۔ لہذا یہ سلطنت ایک عربی سلطنت اور حکومت تھی۔ لیکن اسلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام بشریت سے متعلق ہے۔ نہ عربی حکومت ہے اور نہ ہی عجمی ہے۔ لیکن یہ حکومت ایک ایسی عربی حکومت تھی جو دینی دعوت کے نام پر برپا کی گئی تھی۔ اس کا نزدِ اس دعوت کی حمایت اور اس کا قیام تھا۔ شاید اس دینی دعوت کی ترقی میں بھی واقعاً ایک بڑا شر موجود تھا؛ بلاشبہ وشمہ اسلام میں تبدیلی لانے میں کلیدی حیثیت کا حامل رہی ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود، پھر بھی ایک ایسی عربی حکومت تھی کہ عربوں کی قدرت کو مستحکم کر رہی تھی اور ان کے مصالح کی تلاش میں مصروف تھی۔ زمین کے کونے کونے کو ان لوگوں (عرب) کے قبضہ میں دے دیا اور اس کو اپنی خدمت میں لے لیا۔ بالکل دوسری طاقتور اور فاتح قوموں کی طرح... اس زمانہ کے مسلمانوں کی فہم یہ تھی کہ اس کے انتخاب کے ذریعہ مہذب اور دنیاوی حکومت قائم کر لیں گے اور اسی وجہ سے خلافت کے خلاف مخالفت اور علم بغاوت بلند کرنے اور اس کے خلاف خروج کو جائز جانا۔ وہ لوگ یہ جانتے تھے کہ اس بارے میں ان کا اختلاف صرف دنیاوی امور میں سے ایک امر میں ہے اور دینی امور سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان لوگوں نے ایک سیاسی مسئلہ پر اختلاف کیا تھا

جس کا ان کے دین سے کوئی تعلق نہیں تھا اور یہ اختلاف ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کر رہا تھا۔ نہ ابو بکر اور نہ ہی اس کے خاص لوگوں میں سے کوئی ایک بھی اس فکر میں نہیں تھے کہ مسلمانوں کی رہبری کا حاصل کرنا ایک دینی مقام ہے اور نہ ہی ان کے خلاف بغاوت دین کے خلاف بغاوت اور خروج کے مترادف ہے۔ ابو بکر صریح انداز میں یوں کہا کرتے۔ تھے: اے لوگو! میں بالکل تمہاری ہی طرح ایک شخص ہوں اور نہیں معلوم شاید تم لوگ مجھ کو ان کاموں کی ذمہ داری میرے سر عائد کر دو جن کے انجام دینے کی طاقت صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ رکھتے تھے۔ خداوند عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو دنیا والوں پر منتخب کیا اور ان کو ہر بلا و آفات سے محفوظ کر دیا اور ان کو حکمت بخشی اور میں تو صرف ان کا تابع ہوں اور کسی نئی چیز کا وجود میں لانے والا نہیں ہوں۔

### نیا رنگ اختیار کرنا

لیکن بعد میں آہستہ آہستہ بہت سارے اسباب کی بناء پر ابو بکر کے انتخاب کو دینی رنگ دے دیا گیا اور لوگوں پر یہ پیش کیا کہ وہ دینی عہدہ پر فائز تھے اور وہ اپنے اس منصب پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے نمائندہ تھے۔ اس طرح سے مسلمانوں کے درمیان یہ فکر پیدا ہو گئی کہ ان کی حکومت کا مفہوم دینی مقام و منزلت اور حیثیت کا حامل ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی نیابت ہے۔ اہم ترین دلیلوں میں سے ایک دلیل، جس کی بنیاد پر مسلمانوں کے درمیان یہ فکر پیدا ہوئی وہ ایک لقب تھا جس کو ابو بکر پر چسپاں کر دیا گیا اور اس کو خلیفہ رسول

اللہ کا نام دے دیا گیا۔ (۴)

چنانچہ اسی فکر کی بنیاد پر جو ایک حاکم کے متعلق موجود تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں نے ابو بکر کی خلافت کے لئے اقدام کیا۔ ان کی نظر میں وہ (ابو بکر) دوسرے لوگوں کی طرح ایک عام انسان تھا اور ایسے منصب پر لا یا گیا تھا جو ہر طرح کی دینی شان اور مقام و منزلت سے عاری تھا۔ یہ صحیح ہے کہ یہ منصب اور اس کے فرائض اور قاعدتاً اسلامی نو خیز سماج کی تشکیل نہ اور اس کے وہ ادارے جن کی تعین اور حد بندی دین کے ذریعہ ہو چکی تھی، لیکن یہ واقعہ اس زمانہ کے مسلمانوں کی نظر میں اس سے زیادہ مفہوم نہیں رکھتا تھا کہ خداوند عالم کا منشاء یہ ہے کہ مسلمان لوگ ایسے معاشرہ اور حالات میں زندگی برکریں اور ہرگز اس معنی میں نہیں تھا کہ ایسے عہدوں کو حاصل کرنے والوں کو چاہئے کہ وہ خاص دینی حیثیت کے حامل ہوں۔ البتہ یہاں پر گفتگو اس طرح کے طرز فکر اور تصور سے ہے جو اس کے بارے میں مسلمانوں کے افکار تھے، نہ یہ کہ مثلاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے اس کی تائید اور بیان فرمایا تھا۔ اس زمانہ کی تبدیلیوں کو جاننے کے لئے خاص طور سے لازم ہے کہ اس فہم اور اس فکر کے وجود میں آنے کی کیفیت اور اس کی تاثیر کے بارے میں تحقیق اور اس کی چھان بین کی جائے۔ (۵)

ہماری اس بات کی تصدیق کے لئے سب سے بہتر دلیل ابو بکر کا انتخاب اور اس کا منصب خلافت پر مستقر ہونے کی کیفیت ہے۔ اگرچہ اس کا انتخاب ایک مدت کے بعد خصوصاً حضرت علی ابن ابی طالب کے بیعت کرنے کے بعد عام طور پر مقبولیت پا گیا، لیکن شروعاتی دنوں میں اس کے انتخاب نے بہت بڑا جنجال کھڑا کر دیا تھا۔ اس کے مخالفین ایک طرف انصار تھے جو

مہاجروں کی حکومت کے آگے اپنی گردنیں جھکانے کے لئے تیار نہیں تھے (۶) اور دوسری طرف قریش تھے، ان میں سے سرفہرست ابوسفیان تھا، جو ابو بکر کے خاندان کو اس سے پست ترس کجھتے تھے کہ قریش کے اعلیٰ خاندانوں پر حکومت کرے لہذا وہ لوگ حضرت علی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کی تلاش میں تھے کہ ان کو اپنا حاکم اور خلیفہ بنائیں۔ (۷) دوسرا گربنی ہاشم اور حضرت علی کے مانے والوں کا تھا جو آپ کے سچے دوست اور اپنی جانیں قربان کر دینے والے تھے وہ البتہ یہ لوگ چند خالص دینی وجوہات کی بنا پر اس کے انتخاب (سقیفہ بنی ساعدہ) کے مخالف تھے (۸) اور یہ ایک ایسا نیا واقعہ تھا جو مدینہ میں موجود تھا۔ مسلمانوں کے بہت سے خاندان جو مدینہ کے باہر رہتے تھے (مدینہ کے اندر کے) اس انتخاب کے مخالف تھے اور بعد میں اہل رہہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اگرچہ ان قبلیں میں سے بعض واقعاً مرتد ہو گئے اور اسلام سے اپنا منہ مورٹلیا تھا، لیکن ان میں سے بعض گروہ صرف ابو بکر کے منصب خلافت پر پہنچنے کے طریقہ، کیفیت اور اس کے انداز پر اعتراض کر رہے تھے اور اس سے زیادہ مخالف نہیں تھے۔ اگرچہ بعد میں زمانہ اور تاریخ کی مصلحت اس بات کی مقاضی تھی کہ یہ لوگ بھی ارتداد سے متهم ہو جائیں۔ (۹)

اس میں جو چیز بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، وہ ابو بکر کے مخالفین اور موافقین کی ہنگامہ ساز اور جنگی بخشیں ہیں۔ بجز ایک مختصر اقلیت کے جو حضرت علی کے مانے والے تھے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارشوں اور خود حضرت علی کی دینی شخصیت اور اس عہدہ کی لیاقت اور شاشتگی اور اس عہدہ کے احراز کی خاطر اساساً اس عہدہ (اما ملت) کی اہمیت کی وجہ

سے اس کے لئے زور دے رہے تھے، دوسروں کی گفتگو اس مدار کے علاوہ کسی دوسرے مدار کے ارد گرد چکر کاٹ رہی تھی۔ بحث نہیں تھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی جائشینی کس معنی اور کتنی خصوصیات اور حالات کی محتاج ہے اور کون اس کا حق دار ہے اور اس کے حصول کی لیاقت رکھتا ہے۔ ہر گروہ اپنے دخواہ امیدوار (Candidate) کی طرفداری کر رہا تھا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ مسئلہ فقط سیاسی اور قبیلہ ای رقبہت کی حد تک باقی رہ گیا تھا جس کی کوئی دینی حیثیت نہیں تھی، اتنی زیادہ پست ہو گئی تھی۔ (۱۰)

جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ صرف حضرت علی ابن ابی طالب اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ ہی کے چاہئے والوں کی مخالفت تھی جو دینی رنگ لئے ہوئے تھی، ان کی باتیں بعد میں آنے والے زمانہ میں خود آنحضرت کے ذریعہ بطور مبسوط و مفصل اور مزید صراحت کے ساتھ بیان ہوئیں (خصوصاً آنحضرت کی خلافت کے زمانہ میں خطبہ شفیقیہ ان نمونوں میں سے ایک ہے) وہ یہ تھا کہ اولاً تم لوگوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے تاکیدی دستورات اور فرماں میں کوئی نظر انداز کر دیا، دوسرے یہ کہ اس شااستہ مقام کی کچھ خصوصیات ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ (حضرت علی) کے علاوہ کسی دوسرے شخص میں نہیں پائی جاتیں جو اس عہدہ کے لئے اولیٰ ہو۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے علاوہ کسی اور میں اس منصب کو اپنے اختیار میں لینے کی کی صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے۔ (۱۱)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے ابو بکر کے طرفداروں سے خطاب کر کے فرمایا: جو آپ سے اس لئے بیعت لینا چاہتے تھے فرمایا: خدا کے لئے! خدا کے لئے! اے مہاجر! پیغمبر اکرم

صلی اللہ علیہ وآلہ کی قدرت و سلطنت کو ان کے گھر سے باہر مت لے جاؤ اور اسے اپنے گھروں میں مت لے جاؤ۔ اس کے اہل کو خلافت سے اور ہر وہ چیز جس کا وہ حق دار ہے، اس سے منع مت کرو۔ اے مہاجر و خدا کی قسم ہم اہل بیت لوگوں کے مقابلہ میں اس (خلافت) کے زیادہ حقدار ہیں۔ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے اہل بیت ہیں اور ہم اس کے لئے تم سے زیادہ سزاوار ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ کتاب کی تلاوت کرنے والا (قرآن) اور خداوند عالم کے دین کا فقیر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی سنت کا عالم اور رعایا کے امور سے آگاہ، برا بیوں کا ختم کرنے والا اور ان کے درمیان برابر کا تقسیم کرنے والا ہمارے درمیان ہے؟ خدا کی قسم وہ شخص ہمارے درمیان ہے۔ اپنے خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو کہ گمراہ ہو جاؤ گے اور اس طرح حق سے دور ہو جاؤ گے۔ (۱۲)

### خاندانی چیلنج

صرف یہ ایک ایسا کلام تھا جس کا انداز کچھ اور ہی تھا۔ دوسرے لوگ بھی اپنے دفاع کے لئے منصب خلافت کے بارے میں، صلاحیت اور لیاقت کے علاوہ دوسری چیزوں کی نشان دہی کر رہے تھے اور ان لوگوں میں خاندانی مقابلہ آرائی کا جذبہ بیدار ہو گیا تھا اور سبھی لوگ خاندانی برتری کا راگ الاپ رہے تھے اور اسی پرسا راز و صرف کر رہے تھے۔ ایک طرف مہاجرین والنصار کے درمیان شدید رسہ کشی تھی اور دوسری طرف مہاجرین کے درمیان داخلی رسہ کشی موجود تھی ان میں کا ہر ایک کسی نہ کسی پر چم تلے چلا گیا تھا۔ بنی امية عثمان کے ارد گرد

اور بنی زہرہ عبد الرحمن بن عوف کے ارد گرد اور بنی ہاشم بھی حضرت علی ابن ابی طالب کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ (۱۳) ابوسفیان ابوکبر کی خلافت سے راضی نہیں تھا، ایک مختصر جملہ کے ذمیل میں اس زمانہ کے حالات و واقعات کی بخوبی تصویر کشی کرتا ہے: خدا کی قسم، میں گرد و خاک دیکھ رہا ہوں (گرد و خاک سے اشارہ یہ ہے کہ جنگ اور حملہ کے وقت گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو گرد و خاک بلند ہوتی ہے) جس کو خون کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بٹھا سکتی ہے۔ اے عبد مناف کی اولادو! ابوکبر کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تمہارے مقدر کو اپنے ہاتھوں میں لے؟ کہاں ہیں وہ دو شخص جن کو مستضعف ذمیل بنادیا گیا ہے؟ کہاں ہیں علی و عباس؟ (۱۴) بہر حال اس زمانہ میں ایسے حالات تھے کہ حضرت علی کی مخالفت حضرت زہرا کی مخالفت کے تحت الشعاع قرار پائی تھی۔ کیونکہ حضرت علی ابن ابی طالب اگر مخالفت پر زیادہ اصرار کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کو قتل کر دیا جاتا (جیسا کہ صراحة کے ساتھ مخالفین نے آپ سے کہا کہ اگر مخالفت کرو گے تو قتل کر دیئے جاؤ گے) لیکن حضرت فاطمہ زہرا کو نصوصی موقعیت حاصل تھی، آپ کا تعلق صنف نسوں سے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی تنہی یادگار تھیں یہ موقعیت حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی ایک طرح سے حفاظت کر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت زہرا کی شہادت کے بعد حضرت علی نے ظاہراً اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں میں دے دیئے اور آپ کی اتباع میں بنی ہاشم اور آپ کے خاص اصحاب نے بھی آنحضرت کی تائی کی۔ (۱۵)

یہ وہ حالات تھے کہ اسی دوران میں ابوکبر کی خلافت مستقر ہو گئی۔ اس انتخاب کی کیفیت اور

ان بیانات کی حقیقت جو اس (بیعت) کی تائید اور تنکذیب میں دیئے گئے وہ خلافت کے بارے میں اس زمانہ کے مسلمانوں کی ذہنیت کا پتہ دیتے ہیں۔ اگرچہ ابو بکر کی شخصیت جانی پہچانی ہوئی تھی، لیکن وہ چیز جس نے اس کی موقعیت کو اس کی برقراری تک پہونچادیا، وہ ان کی ذاتی خصوصیات اور دینی حیثیت اور مقام و منزلت نہیں تھی، جس کے متعلق بعد میں مختلف افکار کی بنابرہ بہت زیادہ شاخانے ان کے بارے میں بیان کردیئے گئے اور ان صفات اور مقام و منزلت کو اس کے لئے جعل کر دیا گیا، بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی جائشی کے بارے میں مسلمانوں کا بہت ہی سادہ اور معمولی تصور تھا۔ مسلمانوں کی نظر میں یہ منصب ہر قسم کی دینی حیثیت اور اس کی بلند مرتبہ برتری و بزرگی سے خالی تھا۔ (۱۶)

البتہ اس میں دوسرے اسباب و عوامل بھی دخیل تھے جو شاید ان میں سے سب سے اہمیت کے حامل تھے وہ ایسے خطرات تھے جو مدینہ کے باہر سے اپنے دانت تیز کر رہے تھے۔ ان میں سے اہل رده کی طرف سے بغاوتیں اور عربستان کے مرکزی و جنوبی علاقوں میں رہنے والے قبائل کے درمیان ایک حد تک دھمکی محسوب ہوتی تھیں یہاں تک کہ باہمی کشمکش نے خود مدینہ کو بھی حتی طور پر سنجیدہ دھمکیوں کی زد پر لئے ہوئے تھا (یہاں پر اہل رده سے مراد وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے واقعاً اسلام سے منح موز لیا تھا اور یہاں تک کہ مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور ایسا ہر گز نہیں ہے کہ ان لوگوں کو ابو بکر کی خلافت قبول نہ کرنے کی بناء پر وہ لوگ اس نام سے مشہور ہو گئے۔) اور دوسرا خطرہ روم اور ایران کا خطرہ تھا ان میں سے پہلا یعنی روم کا خطرہ ہولناک، بہت زیادہ سنجیدہ اور حتی تھا مجموعی طور پر یہ تمام امور اس بات کا باعث

ہوئے لوگوں کی عام کہ زگاہیں مدینہ کے باہر کی طرف مرکوز ہو جائیں اور اندر ورنی اختلافات کو کم از کم وقت طور پر بھلا دیا جائے اور ایسی صورت میں مسلمانوں کا تمام ہم غم اور ذکر و فکر فقط اپنی موجودیت کا دفاع باقی رہ جائے۔ اس زمانہ کے آشفۃ اور نیم و ہراس سے بھرے ہوئے اس زمانہ کے حالات کو واضح کرنے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ فقط مرتدین (مرتد ہو جانے والوں) کو پسپا کرنے کے لئے بارہ سو مسلمان جن میں زیادہ تر تعداد قاریان قرآن اور حفاظ کی تھی وہ سب کے سب قتل کر دیئے گئے۔ (۱۷) اس وقت کے مدینہ کی محدود آبادی اور تمام مسلمانوں کی آبادی کا لحاظ کرتے ہوئے قتل ہونے والوں کی اس تعداد سے اس زمانہ کے کشیدہ اور پریشان گن حالات کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ (۱۹)

ابو بکر کی خلافت کے زمانہ میں اہل رده کی بغاوت کو کچل دیا گیا اور حجاز ( سعودی عربیہ ) کے حالات میں بہتری ہونے لگی۔ لیکن بیرونی خطرات اسی طرح اپنی شدت کے ساتھ باقی رہے اور مسلمانوں کو فکر مند اور پریشان کرنے ہوئے تھے خصوصاً لوگ جو علاقہ میں اس زمانہ کی دو بڑی طاقتیوں کے مزدور شاہی نوکر جو مسلمانوں کے ہمسایہ تھے اور ہر لمحہ ان کے حملہ کا امکان تھا۔ ( ۲۰ )

ان سب باتوں کے قطع نظر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنی آخری ایام میں لشکر کو رومیوں کے خلاف جنگ کے لئے اسامہ بن زید کی سرداری میں مستعد کر دیا تھا۔ اگرچہ ظن غالب کے طور پر، اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کا اصلی مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو مدینہ سے دور رکھا جائے جن کے بارے میں اس بات کا امکان تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ

وآلہ کی رحلت کے بعد خلافت و امامت کے بارے میں آپ کی وصیت سے محرف کرنے کے لئے میدان کو ہموار کریں گے، لیکن بہر حال رومیوں کی جانب سے خطرہ حتیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانہ میں بھی مسلمانوں کو حکمی دے رہا تھا ابو بکر نے اہل رہہ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اسامہ کی سرداری میں ایک لشکر کو رومیوں سے جنگ کرنے کے لئے بھیج دیا۔ البتہ یہ واقعہ، جس کا خود انہوں نے اظہار کیا ہے، زیادہ تر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی پیروی اور تائیٰ میں تھا کہ خطرہ کو بر طرف کرنے کے سبب ایسا کیا۔ اگرچہ ایسا خطرہ بھی لاحق تھا جس نے مسلمانوں کو فکر مند کر رکھا تھا۔ (۲۱)

### حضرت عمر کی سیاسی جدوجہد

ابھی ایسے ہی حالات تھے کہ ابو بکر کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وصیت کے مطابق عمر خلیفہ بن گیا۔ بالکل انھیں وجوہات کی بنیاد پر جیسے ان کے پہلے والوں نے خلافت حاصل کی تھی ویسے ہی انہوں نے بھی خلافت حاصل کر لی۔ لوگوں کی توقع یہ تھی کہ وہ ان کے دنیاوی امور کو اپنے ذمہ لے لیگا، اس سے زیادہ اور کوئی توقع نہ تھی اور عراس ذمہ داری کو پوری طرح ادا کرنے کے لئے میدان میں اُتر آئے اور اس طرح وہ (خلافت کے لئے) قبول کر لئے گئے۔ ان کی پر سکون انداز اور بڑی ہی خاموشی سے اس کے قبول کر لینے جانے کے متعدد اسباب تھے۔ ان میں سے بعض اسباب اس زمانہ کے حالات اور ابو بکر کی جانشینی کے تجربہ کی طرف اور بعض اسباب اس کی شخصیت اور ذاتی خصوصیات سے وابستہ ہیں۔ (۲۲) پھر بھی اس مقام پر بھی

(خلیفہ اور خلافت کی) اس کی دینی شان اور حیثیت کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ اگرچہ بعد میں اس (دینی فضیلت) کے بارے میں بہت بڑھ چڑھ کر باتیں کی گئیں۔ نتوہ اپنے واسطے کسی دینی مقام اور حیثیت کے قائل تھے اور نہ ہی اس کو ثابت کرنے کے لئے کسی دلیل کا سہارا لیا۔ نہ ہی اس زمانہ کے عام لوگ اس کے لیے کسی دینی حیثیت اور شان کے قائل تھے اور نہ ہی اس کا مندرجہ خلافت پر آنان خصوصیات کے سبب وجود میں آیا تھا۔ اگرچہ عمر زیادہ تر دینی اور دنیاوی امتیازات جو اس کے حکومت کے لئے ضروری تھے ان سے (ایسی دنیا کہ ایک حاکم ہونے کی حیثیت سے حاصل بنا پر حاصل کر سکتا ہے) بہرہ مند تھا۔ لیکن پھر بھی اس کا دینی فضیلت اور شان سے کوئی تعلق نہ تھا۔ یہ امتیازات جو اس سے حاصل تھے وہ حکومتی منصب پر ہونے کی بنا پر وجود میں آئے تھے اور نہ یہ کہ وہ خود حاکم کی ذاتی دینی صلاحیتوں سے متعلق تھے۔ بیشک اقتدار حاصل کرنے میں خود عمر کی ذاتی خصوصیات اور اس کی بقا کے لئے قدرت مندانہ کردار دینی مقام و منزلت سے کہیں زیادہ مؤثر تھا۔ (۲۳)

حقیقتاً عمر کے خلافت قبول کرنے کا وہی انداز تھا جو ابو بکر کی خلافت کے قبول کرنے میں اختیار کیا کیا تھا اور اس کو بھی قانونی حیثیت دینے میں بھی ابو بکر کی ہی روشن کا نتیجہ تھا چاہے جتنا ابو بکر کا خلافت کے لئے انتخاب کیا گیا ہو اور عمر کی خلافت ان کی وصیت کا ہی نتیجہ تھی۔ لیکن اہمیت کا حامل یہ ہے کہ جس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائشیں کے لئے ابو بکر کے انتخاب کا موضوع اس طرح پیش کیا گیا کہ عمر کی خلافت کا راستہ کھلا چھوڑ دیا۔ اس سے قطع نظر ابو بکر کا خلیفہ بننا حقیقت میں تین آدمیوں کا خلافت تک پہنچنا تھا جن میں ابو بکر سرفہرست

قرار پائے۔ اور بقیہ دو فرادری میں ایک عمر تھے اور دوسرے ابو عبیدہ جراح تھے۔ لچپ بات یہ ہے کہ عمر اپنے عمر کے آخری وقت میں چاہ رہے تھے کہ وہ اپنا جانشین مقرر کریں، اس مقام پر کف افسوس مل رہے تھے کہ ابو عبیدہ کیوں زندہ نہیں رہ گئے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو میں انھیں کو یہ منصب سونپ دیتا۔ (۲۴)

البتہ اس کی شخصی خصوصیات کو بھی اس بارے میں کلیدی حیثیت حاصل تھی۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو عربوں کو اچھی طرح پہچانتا تھا اور اُسے یہ معلوم تھا کہ ان کی کس طرح رہبری کرے۔ جیسا کہ وہ ضرورتوں اور اضطرار کی اچھی طرح تشخیص دے لیتا تھا۔ جبکہ وہ خلافت پر بٹھائے گئے تو لوگوں سے اس طرح خطاب کر کے کہا: عرب کی مثال اس سدھائے ہوئے اونٹ اور گھوڑے کی ہے جو اپنے راہنماء کا اتباع کرتی ہے۔ اور راہنماء اس کو جس طرف لے جانا چاہے وہ اس طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن مجھے کعبہ کے رب کی قسم میں جس طرف لیجانا چاہوں گا، اس طرف تم کو لے جاؤں گا۔ (۲۵)

اہم ترین بات یہ کہ وہ ٹھیک اسی زمانے میں میدان (خلافت) میں آئے کہ اس زمانہ کا معاشرہ اس کے جیسے خصوصیات کے مالک شخص کا ضرورت مند تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر وہ اس زمانے سے پہلے یا بعد میں جب انھوں نے خلافت کو سنبھالا، اقتدار کو حاصل کیا ہوتا تو، یا تو شکست کھا جاتے یا پھر کم از کم ایسے مقام و منزلت کو حاصل نہ کر پاتے۔ ان کی خوش قسمتی اس میں تھی کہ بہت ہی مناسب وقت میں بروئے کار آئے اور ایسے زمانہ میں زمام حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیا کہ اس (عمر) کے زمانہ کی طبیعت اس کی فکری اور اخلاقی

خصوصیات، نفیات اس کے مطابق اور اس سے ہماہنگ تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جس طرز کی حکومت اس نے کی تھی، اس کے علاوہ کسی اور طرز پر حکومت کرتے۔ حضرت عمرؓ کی حکومت ان کی خصلتوں اور خصوصیات کے تحقیق پانے کا فطری نتیجہ تھا۔ یہ ان کی طبیعت تھی جو اپنے زمانہ کی روح کے ساتھ سازگار اور ہماہنگ تھی اس لحاظ سے کہ ان کی سیاست اسی طبیعت کی مخلوق تھی لہذا زمانہ کی ضرورتوں سے مطابقت رکھتی تھی۔ ان کی تندخوئی اور سخت گیری کی روح نے سیاسی مظاہرہ کے واسطے کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی اور حقیقتاً اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ نہ اس زمانہ کے مسلمانوں کا معاشرہ اس بات کا ضرورت مند تھا اور نہ ہی اس زمانہ کے عربوں کو ایسی روشن اچھی لگتی تھی۔ خلیفہ بھی اخلاقی اور نفسیاتی لحاظ سے اس زمانہ کے عام لوگوں کی طرح ایک عام انسان تھا اور یہی ان کی کامیابی کی کنجی (کلید) تھی۔ (۲۶)

## بیرونی دھمکیاں

البتہ اس مقام پر بھی ابھی باہری دھمکیوں کے خطرات کے بادل پہلے ہی کی طرح منڈلار ہے تھے اور شاید ایک طرح سے اس سے زیادہ سخت اور زیادہ دھمکی آمیز تھے۔ اگرچہ جہاز کے اندر کوئی اس سے ٹکر لینے والا موجود نہ تھا مگر اس زمانے میں روم اور ایران دونوں ہی دین اور نظام نو کی روزافزوں قدرت بڑھنے کے متعلق زیادہ حساس ہو گئے تھے اور اس درمیان ایران کچھ زیادہ ہی حساسیت دکھارتا تھا اور مسلمان لوگ واقعہ ان دھمکیوں سے متاثر ہو گئے تھے۔

فطری طور پر ایسے حالات میں ان خطرات کو اپنے سے دفع کرنے کے علاوہ عمومی افکار کسی اور چیز پر مرکوز نہیں تھی۔ پھر بھی نگاہیں اندر وون ملک سے سرحد سے باہر کی طرف مرکوز ہو گئی تھیں اور اندر وون کی کشمکش و اختلافات سے نپٹنے اور اس کے تعاقب کی بھی فرصت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ یہ خطرات اس قدر قطعی اور حتمی تھے کہ عمر نے متعدد بار مصمم ارادہ کیا کہ اپنے سپاہیوں کے حوصلے بڑھانے کے لئے ایران کے جنگی معاذ پر جائے کہ ہر بار حضرت علیؑ نے ان کو اس اقدام سے روک دیا۔ ان سب سے قطع نظر ایران اور روم سے مسلمانوں کی جنگ صرف خطرہ کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لئے تھی جو خطرے ایرانیوں اور رومیوں کی طرف سے مسلمانوں کو لاحق تھے جن کو اس زمانہ میں عموماً ان کی جانب سے محسوس کئے جا رہے تھے نہ کہ فتح اور ملک گیری کے لئے اور یہ احساس و ہمی اور خیالی نہیں تھا بلکہ حقیقی تھا۔ وہ لوگ اپنے آپ کو اس سے کہیں زیادہ کمزور محسوس کر رہے تھے کہ اتنی بڑی طاقتون کے مقابل اُنھیں کھڑے ہوں، چہ جائیکہ ان پر فتح اور کامیابی حاصل کر لیں۔ خاص طور پر ایرانی اور رومی بادشاہوں کی گوش مالی کی داستان خاص طور پر ساسانی بادشاہوں اور ان کے داخلی کٹھ پتلی حکام (کی گوشماںیوں کی داستان) ابھی تک ان کے دل و دماغ پر اپنا قبضہ جمائے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی شان و شوکت پر مسلمان لوگ اپنی نظریں جمائے ہوئے تھے۔ اس زمانہ کی تاریخی سندوں کی جانچ پڑتاں اور گہرے مطالعہ اور شک و تردید جو ایسے اقدام کے لئے موجودہ سب باتیں اس آخری نکلنے کو مجبوبی بیان کرتی ہیں۔ (۲۷)

ان لوگوں اور ان کے پڑوسیوں کے درمیان پہلا فوجی مقابلہ محدود پیمانہ پر تھا۔ لیکن یہ اس

خاصیت کا حامل تھا کہ اس فوجی مقابلہ کے ذریعہ انہوں (مسلمانوں) نے اپنے مخالفین کے اندر ونی نظام کی سستی اور کمزوری کو محسوس کر لیا اور جو چیزیں اس واقعہ میں مدد کرتی تھیں، وہ بعض مقامی فوجی سرداروں کی جنگ طلبی تھی جو لوگ اس جنگ کو جاری رکھنے پر مائل تھے اور درحقیقت خلیفہ دوم کو بھی انہوں نے، ہی ایران و روم کے خلاف پوری آمادگی کے ساتھ جنگ کے لئے اکسایا، روم کو بھی تشویق کیا بلکہ اس کام کے لئے انھیں بھڑکایا۔ لیکن ان (عمر) کو اور بہت سے مسلمانوں کو فتح و کامرانی کے آخری لمحات تک شکست فاش کا اندیشہ لاحق تھا۔ (۲۸)

یہ حقیقت عمر کے زمانہ خلافت کے نصف اول تک برقرار تھی، جو کچھ بعض لوگوں نے ان (عمر) کے مستحکم ارادہ اور ایران و روم سے جنگ و جہاد سے متعلق تمام مسلمانوں کے بارے میں تحریر کیا ہے اکثر اپنے فاتح افراد کی شان و شوکت اور قدرت اور دلیری کو ظاہر کرنا مقصود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حالات بدل گئے تھے اگرچہ مدائیں اور بیت المقدس کی فتح کے بعد ورق پلٹ گیا یعنی حالات تبدیل ہو گئے اور شک و شہید اور اندیشہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد ان دونوں طاقتوں سے بے خوف و خطر ترقی کے راستہ پر لگ گئے۔ البتہ عمر کی خلافت کے نصف دوم میں حالات بالکل بدل گئے، اس لئے کہ مدائیں اور بیت المقدس کو فتح کیا جا چکا تھا اور ایران اور مشرقی روم کی شہنشاہیت کا خاتمه ہو چکا تھا۔ دینی جوش و جذبہ اور امنگیں اور سماجی جوش و ولاء روزوال تھا۔

اس مقام پر لازم ہے کہ شیر مال غنیمت کا تذکرہ کیا جائے جس کو عربوں نے کبھی خواب میں بھی

نہیں دیکھا تھا۔ یہ کثیر مال و دولت اور بہت سارے اسیروں کی کثرت عین اس عالم میں کہ وہ لوگ متوفی تہذیب و تمدن کے مالک تھے، ناگاہ سعودی عرب کے وسیع اور بدوسی معاشرہ میں وارد ہوئے اور انہوں نے تمام چیزوں کو اپنے اندر سمولیا۔ اگرچہ اتنی کثرت سے مال غنیمت کے ورود کے آثار بعد میں زمانہ عثمان میں اس کے اثرات ظاہر ہوئے لیکن عمر کے زمانہ خلافت کا آخری نصف حصہ بھی ان دھماکوں کے نتائج سے محفوظ نہ رہ سکا۔ عمر کی سختی اور اس کی ہبیت کے باوجود، بہت سے حوادث کو عمر کی خلافت کے آخری دور میں پتہ لگایا جاسکتا ہے جو ان ناراضیگیوں کی حکایت کر رہا تھا ان انقلابات اور تبدیلیوں کے سبب وجود میں آئے تھے اور اس نے ان کے مقابلہ میں سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ (۲۹)

وہ اپنے اقتدار کے بہترین زمانے میں قتل کر دیئے گئے۔ اگر ان کی خلافت زیادہ مدت تک رہتی تو سریع اور تیز تبدیلی پر توجہ کرتے ہوئے جو رونما ہوئے تو ان کا نفعواز اور ان کی قدرت کم ہو جاتی تو پھر ایسی ممتاز اور شجاعانہ موقعیت جس کے کئے بعد میں اہل سنت قائل ہو گئے ہیں، اسے حاصل نہیں کر سکتے تھے۔

عمر نے جن بہت زیادہ مختلف حالات میں قدرت کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا ان حالات میں انہوں نے اس کو خیر باد کہہ دیا۔ ان حالات میں معاشرہ بسیط، مسدود اور آنکھیں بند تھیں بیرونی دھمکیوں نے آپسی چپل قش، رسکشی اور خالقتوں کو بروئے کارلانے کے لئے مجال باقی نہیں رہ گئی تھی، لیکن اس زمانہ میں نہ وہ معاشرہ ایسا معاشرہ تھا اور نہ ہی ویسی دھمکیاں تھیں۔ مسلمان لوگ بھی مالدار ہو گئے تھے اور اسی طرح قدرت بھی ایک بڑی شہنشاہیت میں

تبديل ہو گئی تھی اور ایک دوسری دنیا کا تجربہ کر رہے تھے۔ (۳۰)

یہ تبدیلیاں اور انقلابات بہت زیادہ ممکنہ واقع ہوئے تھے اس دوران خاص طور پر معاشرہ کی شخصیات جو اکثر خاندان قریش سے تعلق رکھتے تھے، ان پر اس کا زیادہ اثر پڑا۔ عمر اپنی خلافت کے آخری ایام میں ان کا شکوہ کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ وہ ان لوگوں کی وجہ سے خداوند عالم سے اپنی موت کی دعا کرتے تھے۔ ایک بار قریش کے کچھ لوگوں سے انہوں نے یوں خطاب کیا: میں نے یہ سنا ہے کہ تم لوگوں نے اپنے آپ کو دوسروں سے جدا کر لیا ہے اور اپنی خاص نشستیں برپا کرتے ہو یہاں تک کہ یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص فلاں کے اصحاب میں اور ان کے ہم نشینوں میں سے ہے۔ خدا کی قسم یہ تو تمہارے ذاتی فائدہ میں ہے اور نہ ہی تمہارے دین و عزت و شرف کے فائدہ میں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعد میں آنے والی نسلیں یہ کہتی دکھائی دیں گی کہ یہ فلاں شخص کی رائے ہے اور اس طرح اسلام کو تقسیم کر کے متفرق کر دیں گے۔ تم لوگ جمع ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر بیٹھو جو تمہاری الفت اور دوستی کے لئے مفید ہے اور تم لوگوں کو لوگوں کے درمیان مزید مقدار اور باشکوہ بنادے گی۔ اے خدا! انہوں نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے اور میں نے بھی ان کو مضطرب کر دیا ہے۔ وہ مجھ سے عاجز آگئے ہیں اور میں ان سے عاجز ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ ہم میں سے کون پہلے خاک کی نقاب اوڑھ لے گا یعنی اس دنیا سے اٹھ جائے گا۔ لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ ان میں سے کوئی ایک شخص زمام حکومت کو اپنے ہاتھوں میں لے گا۔ اے میرے خدا! تو مجھے اپنے پاس بلائے۔ (۳۱)

## ایک نئی موقعیت

عمر اپنی آخری عمر میں ایسی مشکلات سے دست و گریباں تھے۔ ان کا نفوذ اور اثر گھٹ گیا تھا اور یہ صرف اس کی ذات سے متعلق نہیں تھا جوئی موقعیت کی وجہ سے وجود میں آیا تھا۔ معاشرہ بالکل بدل گیا تھا اور یہ تبدیلی اپنے ساتھ بہت سی توقعات و ناراضگیوں کو وجود میں لائی تھی اور وہ (عمر) ان سب چیزوں کا جواب بھی نہیں دے سکتا تھا اور ان کو تخلی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آخری مرتبہ جب وہ سفر حج سے واپس ہوا تو لوگوں کو خطاب کر کے اس طرح کہا: مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ فلاں شخص (اس سے مراد عبد الرحمن ابن عوف تھے) نے کہا ہے کہ اگر عمر مرجائے تو میں فلاں شخص کی بیعت کروں گا...، ہرگز کوئی شخص اس بات پر کہ (ابو بکر کی بیعت اس کے باوجود کدنہانی اور بغیر سوچ سمجھے انجام پائی، لیکن تشکیل پا گئی اور وہ کامیاب بھی ہو گیا) دھوکہ میں نہ آجائے۔ ہاں ان کی بیعت ایسی ہی تھی، لیکن خداوند عالم نے مسلمانوں کو اس کے شر سے بچالیا۔ لیکن تمہارے درمیان کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کی اطاعت کے لئے سب لوگ اپنا سر جھکا دیں... (۳۲)

ہماری اس بات کا بہترین شاہد عمر کی وصیت کی وہ کیفیت ہے جس کا قیاس اپنے سلف (ابو بکر) کے مقابلہ میں کیا ہے۔ ابو بکر نے عمر کو معین کیا اور وہ قبول بھی کر لیا گیا، لیکن عمر نے ایسا نہ کیا اور وہ ایسا کر بھی نہیں سکتا تھا۔ کیونکہ ابو بکر معاشرہ پر تہرا اور مطلق العنان حکومت کرتے تھے اور وہ بڑے ہی سکون کے ساتھ اپنی باتیں کہنے پر قادر تھے اور دوسرے لوگ بھی ان کی

باتوں کو قبول کر لیتے تھے۔ اس لئے نہیں کہ اس نے یہ بات کہی ہے بلکہ وہ لوگ بھی اتنے ہی فکر مند تھے کہ وہ بھی اس کے بارے میں کچھ سوچیں۔ دوسرے یہ کہ اس زمانے میں قدرت کا اختیار میں لینا کسی امتیاز اور مقام و منزلت کا حامل نہیں تھا۔ خلیفہ بھی دوسرے افراد کی طرح ایک فرد شمار کیا جاتا تھا۔ جو شخص بھی کوئی کام یا ذمہ داری سن بھالتا وہ بھی خلیفہ ہو جاتا۔ مزید یہ کہ فقیر اور محدود معاشرہ میں مثال کے طور پر ابو بکر کی حکومت کے زمانے کا معاشرہ جس میں حاکم بھی کسی مادی امتیاز کا حامل نہیں تھا۔ (یعنی معاشرہ کی اقتصادی حالت بہت ہی خراب تھی) لہذا اقتدار کی جنگ نہیں تھی اور جنگ کے حالات بھی فراہم نہیں تھے۔

لیکن عمر کے مرنے کے وقت کی داستان کچھ اس طرح تھی کہ نہ ہی وہ خطرات تھے اور نہ ہی وہ محدودیت تھی اور نہ ہی فقر و تنگ دستی کا غلبہ۔ یہ بات فطری تھی کہ با اثر افراد اور مختلف گروہ قدرت پر قبضہ جمانے کے لئے ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اگرچہ ابھی بھی خلیفہ ہونے کے اعتبار سے اس کا کوئی خاص مقام نہیں تھا، لیکن ان مقام کو حاصل کرتے ہی وہ ایسی موقعیت کا حامل ہو جاتا تھا کہ اگر وہ چاہے تو بہت سی نعمتوں کا حامل اور ہو مالک جائے، لہذا اس کی طرف لوگ اپنی نظریں جمائے ہوئے تھے۔ (۳۳)

اور یہ کہ عمر نے اپنے سے پہلے والے خلیفہ کے برخلاف کسی خاص فرد کے بارے میں وصیت نہیں کی غالباً یہ بھی اسی حقیقت کی پیداوار تھی۔ ورنہ نہ تو وہ ابو بکر سے کمزور تھے اور نہ ہی ان سے کلامی اعتبار سے نفوذ کم تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ حالات اس کے حق میں مساعد نہیں تھے اور اس نے اپنی ذاتی فراست اور ہوشمندی کے ذریعہ ان تبدیلیوں کا پتہ لگالیا تھا۔ لہذا وہ مجبور ہو گیا

کہ وہ مخصوص انداز کی وصیت کریں۔ اور ایسی وصیت جس کی کسی شخص نے تقلید نہیں کی شاید ایسا ہو بھی نہیں سکتا تھا؛ (۳۴) اس کے باوجود کہ وہ اپنے پیر و اور طرفداروں کے نزدیک ایسی مقدار خصیت کے حامل تھے اسی بنا پر انہوں نے مختلف موقع پر ان کی تقلید کی کوششیں کیں۔ عمر کے فرزند، عبد اللہ اپنے باپ کی وصیت کی داستان کو اس طرح نقل کرتے ہیں: عمر ابن خطاب کی موت کے وقت، عثمان علی، عبد الرحمن وزیر اور سعد و قاص ان کے نزدیک آئے اور طلحہ اس وقت عراق میں تھے۔ اس نے کچھ دیر ان لوگوں پر زگاہ کی اور اس کے بعد کہا: میں نے تم لوگوں پر تمہاری حکومت کے بارے میں غور و فکر کیا۔ ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا ہے سوائے وہ اختلاف جو تمہارے درمیان پایا جاتا ہے۔ پس اگر کوئی رخنه اور اختلاف تمہارے درمیان پایا جاتا ہے تو وہ تمہاری طرف سے ہے۔ حکومت چھ لوگوں کی طرف پہنچتی ہے۔ عثمان ابن عفان، علی ابن ابی طالب، عبد الرحمن ابن عوف، زبیر ابن عوام، طلحہ اور قوم سعد پر لازم ہے کہ تم تین لوگوں میں سے کسی ایک کو (خلافت کے لئے) چُن لیں، پس اے عثمان! اگر اقتدار تمہارے ہاتھ میں گیا، تو خاندان ابی معیط، کو لوگوں پر مسلط نہ کرنا۔ اور اے عبد الرحمن! اگر حکومت تمہارے ہاتھ میں آجائے تو اپنے عزیز واقارب کو لوگوں پر مسلط نہ کرنا۔ اگر اے علی! تمہارے ہاتھوں میں یہ اقتدار آجائے تو بنی ہاشم کو عوام پر مسلط نہ کرنا۔ اس کے بعد کہا تم لوگ اٹھو اور آپس میں مشورہ میں مشغول ہو جاؤ اور آپس میں ایک شخص کو منتخب کرو۔ پس سب کے سب اٹھ کھڑے ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنا شروع کر دیا... (۳۵)

یہ تمام چیزیں اس بات کی نشاندہی کر رہی تھیں کہ حالات بہت زیادہ بدل گئے ہیں۔ مدعیان خلافت بھی بہت زیادہ تھے اور بہت زیادہ شدت کے ساتھ اس کے خواستگار تھے اور ان کے ماننے والے بھی ان کے دفاع میں اپنے منافع دیکھ رہے تھے۔ اگرچہ یہ تمام مشکلات جس وقت عمر غلیفہ بنے اس وقت بھی موجود تھیں لیکن نہ تو اس حد تک تھیں اور نہ ہی اتنی زیادہ فیصلہ کرنے اور خطیر ناک تھیں۔

منقول ہے کہ حضرت علی نے عبد الرحمن ابن عوف کی اس بات کو جس میں ان سے چاہا جا رہا تھا کہ وہ منصب خلافت پانے کے بعد شیخین کی سیرت پر عمل کریں، اُسے رد کر دیا اور فرمایا: زمانہ بدل گیا ہے۔ (۳۶) اگر یہ روایت ضعیف اور جعلی بھی ہوتا ہے کیم از کم اس زمانے کے ناگفتہ بہ اور بگڑتے ہوئے حالات کی نشان دہی کرتے ہیں۔ کیونکہ ہر جعلی چیز کچھ نہ کچھ حقیقت کو اپنے اندر سموئے رہتی ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر وہ مشتبہ نہیں کہی جائے گی۔

## عثمان کا اقتدار حاصل کرنا

آخر کار عثمان کو حکومت مل ہی گئی اس کی کامیابی خود اس کی ذاتی کامیابی نہیں تھی بلکہ ایسی پارٹی کی کامیابی تھی جن لوگوں نے اس کو آگے کیا تھا اس لئے کہ وہ عمر کی معین کرده ان چھاشخاص پر مستمل کمیٹی میں کمزور اور نہایت بے لیاقت انسان تھا۔ عثمان کی کمزوری اور بے لیاقت کے لئے بس اتنا کافی ہے کہ بعض ان وجوہات اور دلائل کے سبب جن کو خلفا اور خود عثمان کے فضائل کے ذمیل میں بعد میں گڑھ دیا گیا ہے جیسا کہ ہم نے ان کو پہلے بھی ذکر کیا ہے اور بعد

میں بھی ذکر کریں گے کہ یہ سب فضائل جعلی ہیں، ان میں سے ایک بھی فضیلت ان کی ذاتی صلاحیت اور لیاقت کی طرف نہیں پڑتی وہ تمام فضیلتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے نسبت کی بنا پر اس سے تعلق ہیں یا اس کی روحری اور نفسانی حالات سے متعلق ہیں۔ (۳۷)

اگرچہ عثمان ایک بے لیاقت اور کمزور شخص تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ حالات یہاں تک کہ وہ چیزیں جوان کی قدرت اور ان کی لیاقت سے بھی متعلق نہیں تھیں، وہ بھی ان کی لیاقت میں تبدیل ہو گئیں تھیں۔ باہری خطرہ کے نہ ہونے کے سبب اور بغیر زحمت کے کثرت سے مال و دولت کا آجانا اور ایک پچھڑے معاشرہ کے عواقب اور نتائج بہت زیادہ تھے وہ بھی ایک ایسا قبیلہ جو اپنے قبیلہ کے اندر آپس میں لڑنے میں مشہور تھا۔ اس اختلاف کی بنا پر غمزدہ تھا ایک ایسی پارٹی اور اس کے بڑھتے ہوئے نفوذ اور اثرات جس کا نمائندہ خود خلیفہ تھا بلکہ وہ اس پارٹی کا بازی پچھہ تھا اور وہ اپنی ذاتی مصلحتوں کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچتا تھا۔ ایسی ایک طاقتور اور مقتنر مرکزیت کا فقدان اور اسی طرح سب کے لئے قبول اور قبل احتشم نہ ہونا، خود غرضی، خودخواہی و خود پسندی اور ریاستوں کے حکام کے بارے میں لا پرواہی برتنے نے، مزید حالات کو پیچیدہ اور دشوار بنادیا تھا۔ خود خلیفہ کی کمزوری نے بھی پیچیدہ اور دشوار حالات پیدا کر دیئے تھے اور خلیفہ کی کمزوری اس کو مزید بڑھا رہی تھی یعنی آگ میں تیل کا کام کر رہی تھی۔ کیونکہ خلافت کے تمام دعویدار ایسے وقت میں اپنی لاچی نظریں جمائے ہوئے تھے، اس کے متعلق خود اپنے آپ کو بدرجہ ہالائق و سزاوار اور حق دار جانتے تھے۔ حالات اتنے زیادہ بگڑ گئے تھے کہ عوام کی اکثریت بھی اس سے تنگ آگئی تھی اور اپنے لگاتار اور پے در پے

اعتراضات کے بعد چند مرتبہ مدینہ آئے اور علائیہ طور پر خلیفہ پر اعتراض کیا جو اثر انداز نہ ہوئے یہاں تک کہ آخر کار ان کو قتل کر دیا گیا۔

اس مقام پر یہ مناسب ہے کہ یہاں ابن خلدون کے کچھ بیانات کا ذکر کریں جو انھیں انقلابی حالات اور اس تبدیلی سے متعلق ہیں، - صدر اسلام کی تبدیلیوں کو سمجھنے کے لئے اس کے نظریات سے واقعیت خاص طور سے عمر کی خلافت کا نصف آخر اور اس کے بعد کا دور بالآخر خلافت عثمان کا زمانہ اور حضرت امیر المؤمنین امام علیؑ کے ایام خلافت کے بارے میں جانے میں ایک اچھی خاصی مدد کرے گا لہذا ہم مجبور ہیں کہ ان کے بیان کے طولانی ہونے کے باوجود اس میں سے کچھ اہم حصوں کا بیان کریں۔

## عمیق اور تیز بدلاؤ

... اس اعتبار سے تمام قوموں سے زیادہ دنیاوی امور اور اس کے نازونگت سے دور تھے۔ چاہیے ان کے دین کی رو سے ہو کہ ان کو دنیاوی نعمتوں سے پرہیز کی دعوت دیا کرتا تھا اور چاہیے بادیہ نشینی اور ان کے رہنے کی جگہ کے اعتبار سے ہو اور معیشت کی سختی، دشواری اور تنگی کے ساتھ زندگی بسر کرنے اور اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینے کی وجہ سے ہو۔ جیسا کہ قبیلہ مضر کھانے پینے کے اعتبار سے دنیا کی تمام قوموں سے زیادہ معیشت کی تنگی اور غذاء کے اعتبار سے سب سے زیادہ پریشان حال تھے چاہیے وہ لوگ جو حجاز میں رہتے تھے کہ وہ سر زمین کھیتی باڑی اور حیوانات کے پالنے کے اعتبار سے بالکل خالی تھی اور آباد اور کھیتی باڑی

والے علاقوں اور اس کی زمین کے دوسرے محصولات گھروں اور جائے قوع کے دور ہونے کے سبب ان تمام نعمتوں تک ان رسائی نہیں تھی۔ ان موارد کے علاوہ ایسے علاقوں کے محصولات ان قبیلوں سے مخصوص تھے جو کورہ علاقوں کو اپنے ہاتھ میں لئے ہوئے تھے، مثال کے طور پر ربیعہ اور یمن کے قبیلہ۔ اسی وجہ سے کبھی بھی ان آباد سر زمینیوں کی فراواں نعمتوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ اور عموماً ان نعمتوں کو بچھو اور خبز دوک (یعنی گندے اور بد بودار جانور) کھا جایا کرتے تھیا وہ عالم کے کھانے پر فخر کیا کرتے تھے اور وہ اونٹ کا پال ہے جس کو پتھر کے اوپر خون میں لٹ پت کر کے پکاتے ہیں۔ قریش کی بھی حالت مکان اور کھانے کے اعتبار سے قبیلہ مصر، سے ایک طرح سے نزدیک تھا یہاں تک کہ عرب کی عصیت متعدد ہو کر ایک دین کے پرچم تلے آگئی۔ کیونکہ خداوند عالم نے ان لوگوں (عربوں) کو حضرت محمد صطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت سے سرفراز کیا۔ اسی وجہ سے ایران اور روم پر لشکر کشی کی اور ان سر زمینیوں کو جسے خداوند عالم نے اپنے سچے وعدہ کے مطابق ان کے لئے مہیا کر دیا تھا، انہوں نے اس کا مطالبہ کیا اور سلطنت کو بزور بازو حاصل کر لیا اور اپنے دنیاوی امور کے لئے اقدام کر دیا۔ نتیجہ خوشحالی اور تو انگری کے ایک وسیع و عریض ٹھاٹھیں مارتے سمندر کو حاصل کر لیا؛ اس قدر کہ بعض جنگوں میں ایک گھڑ سوار کا حصہ تیس ہزار سونے کے دینار یا اس کے قریب تھا، اسی سبب وہ ایک ایسی دولت کے مالک ہو گئے جس کی کوئی حد نہ تھی۔ لیکن وہ (عرب) لوگ ان تمام چیزوں کے باوجود اپنی اسی سخت زندگی پر باقی رہے، جیسا کہ عمر اپنے لباس کو حیوانات کی کھال سے پیوند لگاتا تھا اور اسی مقام پر مولائے کائنات حضرت علی کہا

کرتے تھے اے زرد اور سفید سکو! (سیم وزر) کسی دوسرے کو دھوکہ دینا۔ ابو موسیٰ مرغ کھانے سے پر ہیز کیا کرتے تھے۔ کیونکہ عربوں کے درمیان مرغ کی کمی کی بنا پر اس کے کھانے کا رواج نہیں تھا۔ ان (عربوں) کے یہاں مطلق کسی قسم کی آٹا چھانے کی چھلنی بھی نہیں ملتی تھی اسی لئے وہ لوگ گندم کے آٹے کو اس کی بھوسی سمیت کھایا کرتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اس ثروت کے سبب جوان کے ہاتھ لگی تھی دنیا کے مالدار ترین افراد شمار ہوتے تھے۔

اس بارے میں مسعودی کا بیان ہے: عثمان کے زمانے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کے اصحاب نے بہت ساری دولت و املاک کو حاصل کر لیا تھا۔ جیسا کہ جس روز عثمان قتل کئے گئے، اس دن ان کے خازن کے پاس ایک لاکھ پچاس ہزار دینار اور دس لاکھ درہم آپ کے خزانہ میں موجود تھے اور وادی القمری ( مدینہ سے قریب ایک جگہ) اور حنین (مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے) میں اور دوسرے علاقوں میں ان کی جانبدادی کی قیمت دولاک دینار کے برابر تھی اس کے علاوہ بہت سے اونٹ اور گھوڑے بھی موجود تھے۔ زیر کے مرنے کے بعد اس کے ترکہ کا آٹھواں حصہ پچاس ہزار دینار تھا اور اس نے اپنے مرنے کے بعد ایک ہزار گھوڑے اور ایک ہزار کنیزیں چھوڑی تھیں۔ طلحہ کو عراق کے محصولات میں سے ہر روز ہزار دینار کا محصول اور شراۃ کے علاقہ سے اس سے زیادہ مقدار میں پیسہ اس کے پاس آتا تھا۔ اسی طرح عبد الرحمن ابن عوف کے صطبل میں ایک ہزار گھوڑے اور ایک ہزار اونٹ اور دس ہزار بھیڑیں موجود تھیں۔ اور اس کے مرنے کے بعد اس کے ترکہ کا ایک چوتھائی حصہ چورا سی

ہزار دینار سے بھی زیادہ تھا۔ زید ابن ثابت نے سونے چاندی کی اتنی زیادہ مقدار میں اینٹیں چھوڑیں تھیں جن کو کلہاڑی سے کاٹ کر الگ کیا جاتا تھا اور یہ ان اموال و املاک کے علاوہ تھا جن کی قیمت ایک لاکھ دینار کے آس پاس پہنچتی تھی۔ زبیر نے ایک ایک گھر بصرہ اور مصر و کوفہ میں اور اسکندریہ میں بہت سے، گھر اپنے لئے بنوائے تھے۔ اسی طرح طلحہ نے ایک گھر کوفہ میں اور دوسرا گھر مدینہ میں بنوایا اور ان کو چونے کے مصالح اور ساکھو کی لکڑی سے پختہ کروایا (ساج ایک درخت ہے جو صرف ہندوستان میں پایا جاتا ہے) (اس کو وہاں ساکھو کے نام سے جانا جاتا ہے) اس کی لکڑی سیاہ اور سیدھی ہوتی ہے اور مٹی میں سڑتی گلتی نہیں) سعد ابن وقار نے اپنے واسطے ایک گھر عقیق میں بنوایا (عقیق چند جگہوں کا نام ہے جو مدینہ، یمامہ، تہامہ، طائف اور نجد وغیرہ) اس کی چھت بلند تھی اور اس میں ایک وسیع و عریض صحن بھی تھا اور اس کی دیواروں پر کنگورے بنوائے جس کے اندر ورنی اور بیرونی حصہ کو گچکاری (چونے سے پلاسٹر) کی گئی تھی۔ یعنی ابن منبه نے پچاس ہزار دینار اور کچھ زمین و پانی اور ان کے علاوہ بھی دوسری کچھ چیزیں چھوڑیں اور ان کی جاندا اور دوسرا ترک کی قیمت تین لاکھ درہم تھی اور یہ مسعودی کے بیان کا آخر تھا۔

پس جیسا کہ ہم نے دیکھا جس مال و دولت کو قوم عرب نے حاصل کیا تھا وہ بھی اسی طرح کی تھی اور ان کی اس روشن پر ہم مذمت نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ان کی ثروت حلال کی کمائی تھی جسے انہوں نے مال غنیمت اور فی کے طور پر حاصل کیا تھا اور اس ثروت کا استعمال کرنے میں انہوں نے فضول خرچی سے کام نہیں لیا تھا، بلکہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ وہ اپنی زندگی کے رسوم و

آداب میں اقتصاد اور میانہ روی کی رعایت کرتے تھے۔ اس وجہ سے زیادہ ثروت کے رکھنے پر ان کو برا بھلانہیں کہہ سکتے۔ اگر زیادہ ثروت کا حصول برا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ثروت کا رکھنے والا فضول خرچی کی طرف مائل ہوتا ہے حد اعتمداری اور میانہ روی سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسی صورت میں کہ مالدار لوگ میانہ روی کو اختیار کریں اور اپنی ثروت کو راہ حق اور امور خیر میں خرچ کریں اس وقت مال و دولت اور ثروت کی زیادتی اور مالداری، ان کو نیک کاموں اور حق کے راستے کو اختیار کر لے اس دنیا کے مراتب کو حاصل کرنے میں ان کی مدد کرے گا۔ جب اس قوم کی سادگی اور بادیہ یعنی رفتہ رفتہ ختم ہو گئی، جیسا کہ ہم نے کہا کہ تعصبات کے تقاضے کی بنیاد پر جب حکومت و سیاست اور جاہ طلبی کی فطرت نے سر اٹھایا تو انہوں نے قبر و غلبہ حاصل کر لیا، لہذا ان کی ملک گیری بھی خوشحالی اور مالی آسائش اور زیادہ ثروت کے حاصل کرنے کے حکم میں ہے یعنی اس غلبہ اور دنیا کو حاصل کرنے کے لئے باطل طریقہ اور راستہ کو اختیار نہیں کیا اور اپنے قدم کو دیانت، اصول و مذاہب حق و حقیقت کی راہ سے ایک قدم بھی زیادہ نہیں رکھا۔ (۳۸)

## ایک عظیم بحران

یہ وہ حالات تھے جو عثمان کے دور خلافت میں موجود تھے اور بعد میں امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب کو میراث میں ملے۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ اکثر یہ حالات عموماً اس زمانہ کے متعدد اور ثروت مند لوگ تیزی کے ساتھ اور پے در پے فتح کی وجہ سے وجود میں آئے

لیکن بغیر کسی شک و تردید کے اس شدید، عظیم بحران کو ہوادینے اور مزید کاری بنانے میں خود عثمان کا بھی ایک مؤثر حصہ تھا۔ شہرستانی صاحب جو کہ عثمان کے بہت ہی دفاع کرنے والوں میں سے ایک ہیں، ان کے مند خلافت پر پہنچنے کی داستان اور ان کی بہت سی غلطیاں اور لوگوں کا ان سے روگردانی کر لینا اور آخر کار ان کے قتل ہو جانے کے بارے میں اجمالاً اس طرح نقل اور تجزیہ کرتے ہیں: سبھی لوگوں نے عثمان کی بیعت پر اتفاق کر لیا۔ معاشرہ کے امور منظم ہو گئے اسلام کی دعوت ان کے زمانہ میں بھی ولیٰ ہی جاری رہی۔ بہت سی فتوحات بھی حاصل ہوئیں اور بیت المال میں مال غنیمت کے ڈھیر لگ گئے۔ وہ لوگوں کے ساتھ اچھائی اور سخاوت مندی کے ساتھ بر تاؤ کرتے تھے یہاں تک کہ ان کے فربی رشته داروں یعنی بنی امية نے ان کو بر بادی کے دہانہ پر کھڑا کر دیا۔ لوگوں پر ظلم و ستم کیا وہ خود بھی ظلم و ستم کی چکی میں پس گئے۔ ان کے زمانے میں بہت زیادہ اختلافات پیدا ہوئے کہ وہ سب کے سب نبی امية کی وجہ سے تھے۔ ان میں سے ایک حکم ابن امية کو مدینہ واپس بلانا تھا جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے مدینہ سے نکلوادیا تھا اور وہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے معروف تھا۔ عثمان نے ابو بکر کے ایام خلافت اور عمر کے ایام خلافت میں ہی اس کے مدینہ واپس بلانے کی سفارش کی تھی مگر قبول نہیں ہوئی اور عمر نے اس کو اس کے محل سکونت سے چالیس فرسخ اور دور چلے جانے کا حکم دے دیا۔ ابوذر کوربڑہ کی طرف شہر بدر کر دیا (مدینہ سے نکال دیا) اور اپنی بیٹی کا عقد مردان ان ابن حکم سے کر دیا اور افریقہ کے مال غنیمت کا خمس اس (مردان) کو بخش دیا جو دولاکھ دینار سے زیادہ تھا اور اس میں سے اپنے رضاعی بھائی،

عبداللہ ابن سعد ابن سرح کو واپس بلا یا اور پناہ دیا جس کے خون کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ نے بے اہمیت اور مباح قرار دیا تھا (اس کے خون کا نہ کوئی قصاص ہے اور نہ ہی اس کی کوئی دیت ہے) مصر کی مملکت کو اسے بخش دیا اور عبداللہ ابن عامر کو بصرہ کی ولایت دیدی تھی۔ وغیرہ وغیرہ یہاں تک کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی ایسے تھے جن کی بناء پر یہ ان میں پھنس گئے۔ مثلاً اپنی مسلح افواج کے سرداروں میں سے معاویہ کو شام کا امیر اور عبداللہ ابن عامر کو بصرہ کا والیا اور مصر کا والی عبداللہ ابن ابی سرح کو بنایا تھا یہ تمام کے تمام ان (عثمان) کو ذلیل و حقیر سمجھتے تھے اور ان کو چھوڑ کر چلے گئے یہاں تک کہ جو کچھ تقدیر میں تھا وہ ہو کے رہا اور آخر کار اپنے ہی گھر میں قتل کر دیئے گئے۔ (۳۹)

اگر عثمان کے انتخاب اور ان کے قتل کے معاملہ کا گذشتہ دونوں خلافاً سے تقابل کیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نہ تو خلافاً کا انتخاب یہ بیان کرتا ہے کہ خلافاً لوگوں کے نزدیک دینی شائستگی رکھتے تھے اور نہ ہی یہ بیان کرتا ہے کہ یہ عہدہ خلافت اس زمانہ میں کسی خاص دینی اہمیت کا حامل تھا۔ وہ اس لئے خلیفہ منتخب ہو گئے چونکہ ان کو چھا فرا و پر مشتمل کمیٹی کا حاکم عبد الرحمن ابن عوف نے چُننا تھا اور وہ اس لئے قتل کئے گئے کہ انہوں نے معتبر ضمیں کے اعتراض اور شکایات کو نظر انداز کر دیا اور ان کی ایک نہ سُنی اور اپنی طرف سے عوام کو دیئے گئے کسی بھی وعدے پر عمل نہیں کیا۔

### ایک عمومی نظریہ

اب دیکھتے ہیں کہ یہ اعتراض کرنے والے کون تھے اور کیوں اعتراض کیا؟ وہ مختلف علاقوں کے مسلمان تھے جو اپنے حکام کی بے دینی، لا پرواہی اور ظلم سے بچنا آگئے تھے اور خلیفہ کے پاس شکایت لے کر آئے تھے لیکن وہ (خلیفہ) ان حقیقتوں سے لا پرواہی برداشت رہے تھے۔ وہ لوگ خلیفہ کو دین اور دین کے اصول و قوانین کی حفاظت کی دعوت دے رہے تھے کیونکہ وہ معتقد تھے کہ خلیفہ نے اپنے تمام بدکردار اور لا پرواہ رشته داروں اور قریبی لوگوں کو مسلمانوں پر حاکم بنادیا ہے اور کی مسئلہ حقیقت بھی یہی تھی۔ (۴۰)

دوسری طرف سے مسلمانوں کا یہ اعتراض اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ اس زمانہ کے مسلمانوں کا نظریہ خلیفہ بلکہ خلافت کی بُنیت کیا تھا ان کے اعتراضات کے معنی پہلے ہی مرحلہ میں یہ تھے کہ خلیفہ راہ راست سے محرف ہو گیا ہے اور اس کی یادداہی کرانی چاہئے۔ اس کے بعد ان کا اصرار اس معنی میں تھا کہ خلیفہ اپنی غلط روشن پر اڑا ہوا ہے لہذا اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اس کے مقابلہ میں قیام کرتے ہوئے اس کا جم کر مقابلہ کیا جائے۔ یہ قیام اور پاسیداری اس حد تک پہنچ گئی کہ اس کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا اور آخر کار اس کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن ابھی یہ ماجرا کی انتہا نہیں تھی۔ عثمان نے اپنے شخصیت کو اتنا گردا یا تھا کہ لوگ انھیں مسلمان کہنے کے لئے بھی تیار نہیں تھے یہاں تک کہ ان کو تین روز تک دفن نہیں کیا اور ایک مدت کے بعد ان کو ایک نامناسب مقام پر سپردخاک کیا گیا۔ (۴۱)

اگر ان کے بارے میں یہ طے پاجائے کہ ان کے زمانہ کے مسلمانوں کا ان کے ساتھ بر تاؤ

سے بعد والی نسلوں کو فیصلہ کی بنیاد قرار دیکھ راس سے متاثر ہوں تو ان کا مرتبہ ایک عام مسلمان سے بھی کہیں زیادہ کم ارزش قرار پائے گا، لیکن بعد میں معاویہ کا بعد کا کارنامہ یہ کہ ان کو بری کرنے اور ان کے چہرہ کو تقدس بخششے کے واسطے ان کو پہلے دونوں خلافاء کے ہم پلہ اور خلیفہ برحق قرار دیا۔ یہ نقطہ ہمیشہ اہل سنت کے کلامی اور اعتقادی نظام میں ضرر رسان نقاٹ میں سے ایک ہے۔ وہ چیز جس نے اہل سنت کے نزدیک عثمان کو عملی طور پر تمام خلافاء را شدین کے ہم پلہ بنادیا، تو یہ معاویہ اور اس کی نسل کا ایک وسیع پروپیگنڈہ تھا۔ اور جو لوگ صدر اسلام کی تاریخ کو تعمیدی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ لوگ اس پروپیگنڈہ اور روایات کے گڑھے جانے نیز عثمان کے غیر شرعی اقدامات سے، باخبر ہیں، انہوں نے اپنی زبان کو اس کے طعنہ و مذمت میں کھولی ہے۔ (یعنی عثمان و معاویہ وغیرہ کی مذمت اور لعن طعن کیا ہے) گذشتہ لوگوں کے درمیان، عام طور پر معتزلہ اسی طرح کی رائے کے حامل ہیں اور موجودہ دور میں عام طور پر مذہبی روشن فکر لوگ نیز دوسرے وہ لوگ ہیں جو انقلابی روحانی رکھتے ہیں اور خاص طور پر جو لوگ مسلحانہ فعالیت رکھتے ہیں، انہیں نظریات کے حامل ہیں۔ آئندہ ہم اس کے متعلق تفصیل سے تحریر کریں گے۔ (۴۲)

بہر حال مسلمانوں کا عثمان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ اس بات کا بہترین نمونہ ہے کہ ان کا منصب خلافت اور خلیفہ کے متعلق کیا نظر یہ ہے۔ اور وہ شخص جو اس مقام کو حاصل کر رہا ہے وہ کیسا تھا جس وقت ان کو اس عہدہ پر فائز کیا گیا، کسی نے بھی اعتراض کے لیے اپنی زبان نہیں کھولی۔ انہوں نے عملی طور پر عام مقبولیت حاصل کر لی مقبولیت کے لحاظ سے عمر کی مقبولیت

کے برابر مقبولیت حاصل کر لی۔ (۴۳) لہذا بعد کے اعتراضات پہلی مقبولیت کے نہ ہونے کی بنا پر نہ تھے کہ اعتراضات (عثمان) کی ان غلطیوں کا نتیجہ تھے، جس نے اس (عثمان) کو اتنا گرا دیا کہ ان کے تمام کے تمام دوست اور ان کے کل کے ساتھی اور متحدین ان کے مقابل کھڑے ہو گئے۔

اس سلسلہ میں بہترین دلیل زہری نے بیان کی ہے جن کا شمار پہلی صدی کے علماء اور فقہاء میں ہوتا ہے کہ سیوطی ان کے بارے اس طرح نقل کرتے ہیں: عثمان نے بارہ سال خلافت کی۔ پہلے چھ سالوں میں کسی نے ان پر اعتراض نہ کیا۔ قرشی (خاندان قریش کی طرف منسوب) ان کو عمر سے زیادہ دوست رکھتے۔ تھے کیونکہ عمر سخت مزاج تھے لیکن یہ (عثمان) ان سے زیاد کے ساتھ پیش آتے تھے، اس کے بعد اپنے امور میں مست ہو گئے اور دوسرے چھ سالوں میں کاموں کو اپنے قرتباً رشتہ داروں اور متعلقین کے حوالے کر دیا۔ اور بہت سارا مال و دولت بھی ان لوگوں کو بخش دیا اور لوگوں کو ان کا یہ اقدام برالاگا لہذا ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ (۴۴)

اگر اس زمانہ کے مسلمانوں کی نظر میں خلافت اور خلیفہ کی کوئی شان یا وہ کسی مقام کا حامل ہوتا بعد میں لوگوں نے اس کی توصیف بیان کر ڈالی، پھر اس کے مقابلہ میں کم از کم اس کیفیت سے قیام نہیں کرنا چاہئے تھا۔ جبکہ خاص طور پر عثمان کا شمار خلافائے راشدین میں ہوتا تھا۔ یعنی عثمان ان لوگوں میں سے تھے کہ بعد میں لوگ جن کے لئے بلند ترین معنوی اور دینی فضیلت اور منزلت کے قائل ہو گئے۔ عثمان کا ماجرہ اس بات پر بہترین گواہ ہے کہ بعد کے زمانہ کے

مسلمانوں نے خلیفہ اور خلافت بالخصوص خلافے راشدین کی قدر و منزلت کے متعلق ایک دوسرے تصور کے قائل ہو گئے اور ان کو صدر اول کے مسلمانوں کے عقاید بلکہ اسے اسلامی عقیدہ قرار دیا اور اس طرح اس کو پیش کیا، جس کے بارے میں شک و شہمہ پیدا ہونے کا امکان بہت کم ہو جائے۔ (۴۵)

### حضرت علیہ اور قبول خلافت

ایسے مشکل حالات میں لوگوں کی ناراض اکثریت نے علی ابن ابی طالب کی خدمت میں پناہ لی اور آنحضرت علیہ السلام کے انکار کے باوجود آپ کو منصب خلافت پر بھڑادیا۔ درحقیقت یہ پہلی بار تھا کہ لوگوں کی اکثریت نے خود جوش طور پر داعی بیعت کے عنوان سے ایک لائق ترین فرد، ایسے شخص کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ عمر اور عثمان نے اپنے پہلے والے خلفا کی وصیت کے مطابق خلافت حاصل کی۔ اور ابو بکر کے بارے میں بھی مسئلہ علی ابن ابی طالب کی طرح نہیں تھا۔ شروع میں چند گنے پتنے افراد نے ان کی بیعت کی اور بعد میں تیزی کے ساتھ کچھ حادث کا پیش آنا (جس کا سبب مهاجرین والنصار اور اوس و خزر ج کے درمیان پوشیدہ آشکار رقاتیں نیز بیرونی دھمکیاں بھی تھیں) جو اس بات کا سبب بنا کر ان کی شخصیت اور موقعیت مستحکم اور پائیدار ہو جائے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ عمر بعد میں مختلف موقع پر کہا کرتے تھے: ابو بکر کی بیعت ناگہانی اور بغیر سوچے سمجھے ہو گئی کہ خداوند عالم نے مسلمانوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھا۔ پس قتل کر دو اس شخص کو جو اس شر کی طرف پلٹنا چاہتا ہے (یعنی جو

ابو بکر کی طرح بیعت کروانا چاہتا ہے) (۴۶)

حضرت علی نے بدترین حالات میں قدرت اور منصب خلافت کو سنبھالا اور ان مشکلات کو تخلی کرنے پر مجبور ہوئے جن مشکلات کو پیدا کرنے میں آپ کا ذرا سا بھی ہاتھ نہ تھا۔ بنیادی طور پر آنحضرت کی بیعت کے لئے لوگوں کا ہجوم صرف اس لئے تھا کہ یہ مشکلات حل ہو جائیں۔ ان لوگوں کی نظر میں ان مشکلات کو حل کرنے کی صلاحیت رکھنے والا واحد شخص صرف اور صرف آنحضرت کی ذات والاصکات تھی، تقریباً تمام بیعت کرنے والوں کی چاہت بھی یہی تھی۔ (۴۷) ان لوگوں کی تعداد بہت کم تھی کہ جنہوں نے ذاتی صلاحیت کی بنا پر آپ کو خلافت کے لائق سمجھتے ہوئے اور وصیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کی پیروی کرتے ہوئے آنحضرت کی بیعت کی تھی۔ اگرچہ بعد میں انہیں کم افراد کے چھوٹے سے گروہ کی مدد سے آنحضرت بڑی بڑی مشکلوں پر فائز آگئے۔

حقیقت یہ ہے کہ سابق خلافا میں سے کسی ایک نے بھی ایسے مشکل حالات میں منصب خلافت کو نہیں سنبھالا۔ کچھ مدت کے بعد جو لوگ عمر کی خلافت کے آخری ایام سے اس عہدہ خلافت پر قبضہ کرنے کی فکر میں پڑ گئے تھے اور عثمان کے دور ہی سے اپنے آپ کو آمادہ کر رکھا تھا۔ مخالفت کا پرچم بلند کر دیا۔ اس مخالفت کی تاخیر کی وجہ لوگوں کی وسیع اور قاطع اکثریت کا خوف تھا جو حضرت علی کے گرد جمع ہو گئے تھے اور اگر آپ کے علاوہ کوئی اور شخص بھی ہوتا اور منصب خلافت کو سنبھالتا، تب بھی یہ افراد مخالفت کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے۔ کیونکہ معاشرہ ہی غیر منظم اور بکھرا ہوا تھا۔ گویا تمام کے تمام، یا کم از کم معاشرہ میں نفوذ رکھنے والے، خود کو

اس معاشرہ میں گم کئے ہوئے تھے۔ نہ تو وہ خود ہی کو اور نہ ہی اپنی حیثیت کو ہی پہچانتے تھے اور نہ تو اپنی حیثیت کے مطابق اپنے آپ سے اور اپنے معاشرے سے، ہی کوئی توقع رکھتے تھے۔ (۴۸)

بے عنوان نمونہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کے مخالفین کے سرداروں کو مد نظر رکھئے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی لیاقت اور قابلیت سے اوپنجی یہاں تک کہ اپنی ذاتی شخصیت سے بھی زیادہ توقع رکھتے تھے اور اگر حضرت علی سے ان کی مشترک مختلف حاکم اور خلیفہ کے عنوان سے نہ ہوتی تو پھر وہ ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑے ہو جاتے۔ کیا یہی طلحہ وزیر نہیں تھے جنہوں نے جنگ جمل میں شکر کے امام جماعت بننے کے لئے ایک دوسرے کی عبا کو ہبھج ڈالا۔ اور اپنے گھوڑوں کے چہرے پر تازیانے مارے؟ (۴۹) اور کیا اصحاب جمل میں سے مرداں ابن حکم نہیں تھا جو طلحہ کے قتل اور اس سے انتقام لینے پر متهم تھا اور کم از کم یہ تھا کہ اس کے مرنے پر اس نے خوشیاں منائی تھیں؟ (۵۰) آیا معاویہ ان لوگوں کو اور وہ لوگ معاویہ کو برداشت کر سکتے تھے؟ اس کے علاوہ آیا یہ احتمال موجود نہیں تھا کہ با اثر لوگ غیر جانب دار افراد جن لوگوں نے حضرت علی کی بیعت کی اور نہ حضرت کے مقابل صفات آراء ہوئے اگر کوئی دوسرਾ شخص منصب خلافت پر فائز ہوتا تو ایسی صورت میں یہ بے طرف اور معاشرہ میں نفوذ رکھنے والے افراد اس کے مقابل شمشیر بکف نظر آتے؟ لیکن یہ حضرت علی کی شخصیت اور آپ کا بے نظیر سابقہ تھا جو ایسے قیام سے مانع ہوا چاہے جتنا وہ لوگ حضرت کے ساتھ اور ان کے حامی نہ رہے ہوں۔ (۵۱)

جیسا کہ ہم بیان کرچکے ہیں کیا کہ مسئلہ معاشرتی، اخلاقی اور روئی انتظام کے بکھر جانے کا تھا۔ خود کو اپنے آپ کے گم کر دینے کا مسئلہ اور قابلیتوں اور صلاحیتوں کے مشتبہ ہوجانے سے متعلق تھا حتیٰ خود ان لوگوں کے نزدیک بھی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حضرت علی اس وقت کے ان نامناسب اور بکھرے ہوئے حالات کو منظم نہ کر سکے۔ دوسرا کوئی بھی شخص اس نامنظم اور بکھرے ہوئے اور خود پر چم بغاوت بلند کیتے ہوئے معاشرے کو منظم نہیں کر سکتا تھا۔ بلکہ اس کے لئے مسلسل سعی و کوشش اور ناکوں چنے چنانے کی ضرورت تھی تب جا کروہ بے نظم معاشرہ نظم اور حکومت کو برداشت کر پاتا۔ البتہ افسوس کی بات ہے کہ اس نشیب و فراز کے بعد معاویہ کے ذریعہ معاشرہ میں یہ نظم و سق برقرار ہو گیا۔

حضرت اس زمانہ کے حالات اور معاشرہ میں بے شمار تبدیلیوں کو اپنے ایک مختصر اور پُر معنی جملہ میں یوں بیان فرماتے ہیں: حضرت علی کے دور خلافت میں ایک روز کسی نے آپ کو طعنہ دیتے ہوئے کہا۔ آخر اتنے سارے لوگوں نے آپ کے متعلق اختلاف کیا حالانکہ پہلے دو خلافاً پر ان کا اتفاق تھا؟ حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا: چونکہ وہ لوگ مجھ جیسے افراد پر حکومت کرتے تھے اور میں تجھ جیسے افراد پر حکومت کرتا ہوں۔ (۵۲)

### روحی پر شانیاں

حقیقت کچھ ایسی ہی تھی۔ حالات بالکل بدل گئے تھے۔ حضرت علی کی اکثر مشکلات بھی انھیں حالات کی تبدیلیوں کی پیداوار تھیں۔ ایک فقیر و محدود اور مسدود معاشرہ پر، جدید آفاق کا کھل

جانا اور ایک مقامی اور محدود حکومت کا ایک وسیع و عریض مملکت و سلطنت میں تبدیل ہو جانا جو ایران کی شہنشاہیت کو مکمل طور پر اور روم کی بادشاہت کے ایک وسیع حصے کو اپنے اندر سمونے ہوئے تھی، نہ فقط انی مشکلات اور سخت و تنگیں حالات اپنے ہمراہ لائی تھی بلکہ اس سے کہیں زیادہ اہم یہ تھا کہ اس نے ابتدائی دور کے مسلمانوں کے اخلاق و افکار اور معنویات و توقعات اور آرزوں اور تمناؤں کو بھی اپنے زیر اثر قرار دیا تھا۔ اب اس کے بعد وہ لوگ نہیں چاہتے تھے اور شاید ان خصوصیات کی بنا پر جس کو انہوں نے حاصل کیا تھا وہ لوگ دینی قوانین، احکام اور معیار کے آگے اپنا سرجھ کا دیں۔ بلکہ وہ لوگ اس دین کو چاہتے تھے جس کی ان لوگوں نے خود تفسیر کی ہو۔ ایک ایسے دین کو چاہتے تھے جو ان کے مقاصد اور ان کی تمناؤں کو پورا کر سکے نہ کہ اس کے برعکس اور چونکہ ایسا ہی تھا یعنی ان کی آرزوؤں اور چاہتوں کے برخلاف تھا۔ لہذا وہ علی ابن ابی طالب جیسی شخصیت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے حسب ذیل نمونہ اس مسئلہ کو پوری طرح بیان کر رہا ہے۔

جنگ صفين کے وقت، امام اور آپ کے برجستہ اصحاب اس کوشش میں تھے کہ کسی بھی طرح جنگ کو روک دیں۔ ان میں سے جس نے اس بات کی سب سے زیادہ کوشش کی تھی وہ عمار تھے انہوں نے کوشش کی تاکہ مغیرہ ابن شعبہ کو وعظ و نصیحت کر دیں اور امام کی حقانیت کو اس پر واضح کر دیں۔ لیکن وہ انجان بن رہا تھا اور حقیقت کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھا (مغیرہ امام کو اور آپ کے تمام سابقہ حالات کو بخوبی جانتا تھا یہاں تک کہ آپ کی خلافت کے شروع میں ہی اس نے حضرت سے کہا کہ طلحہ وزیر اور معاویہ کو ان کے عہدوں پر باقی رکھئے تاکہ لوگ آپ

کی بیعت پر متفق ہو جائیں اور اتحاد و اتفاق برقرار اور محفوظ رہ جائے اور پھر آ کا جیسے جی چاہے حکومت تیجئے۔ اور جب یہ دیکھا کہ امام نے اس کی بات اور اس کے مشورہ کی طرف کوئی توجہ نہ کی تو وہ دوسرے روز آ کر اس طرح کہنے لگا: میں نے غور و فکر کے بعد یہ سمجھ لیا کہ جو کچھ میں نے کہا تھا اس میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور حق وہی ہے جو آپ نے سوچا ہے۔ (۵۳) امام نے عمار کو مخاطب کر کے فرمایا: اس کو اسی کے حال پر چھوڑ دو! کیونکہ وہ دین سے کچھ نہیں لیتا مگر وہی چیز جو اس کو دنیا سے نزدیک کر دے۔ وہ مسئلہ کو عملی طور پر اپنے اوپر مشتبہ کر لیتا ہے تاکہ ان شبھوں کو اپنی خطا کے واسطے عذر قرار دے۔ (۵۴)

البتہ یہ کہنا ضروری ہے کہ وہ لوگ نہ صرف یہ امام کو تحلیل نہیں کر سکتے تھے، بلکہ کسی دوسرے شخص کو بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی مشترک مخالفت صرف اس بنابر تھی کہ قدرت اور منصب امام کے ہاتھ میں تھا اور ان کی زیادہ تر ناجائز خواہشات کے پوری اور عملی نہ ہونے سے امام بالکل بے توجہ تھے، اسی سبب نے ان کے اندر اتحاد پیدا کر دیا تھا اور کم از کم ان میں آپس کے اختلاف کو آشکار ہونے سے مانع تھا۔ البتہ خاص حساس موقع پر اس اتحاد کا شیرازہ بکھر جاتا تھا۔ یہ وحدت ٹوٹ جاتی اور اختلاف و نکشم نمایاں ہو جاتا تھا۔ (۵۵) بہر حال آنحضرت اپنے پورے دور خلافت میں اس بات پر مجبور ہو گئے کہ وہ اپنے مخالفین سے مقابلہ کریں اور وہ لوگ جو جنگ کے لئے آمادہ ہیں، ان سے مقابلہ کے واسطے اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ جنگیں ان نقصانات کے ظاہر ہونے کا فطری نتیجہ تھیں کہ اپنی گذشتہ تاریخی سابقہ جو اسلام سے ماقبل ہے اس تک پہنچتی تھی اور یہ مسئلہ عمر کے دور خلافت کے درمیانی

ایام میں پیدا ہوا۔ اور آہستہ آہستہ (اندر اندر) کپتا رہا اور یہ دور بھی امام کی شہادت (۵۶) اور معاویہ کے حکومت حاصل کرنے پر ختم ہو گیا۔

وہ افراد بہت زیادہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امام کی یہ مشکلات آپ کے ایام خلافت میں دین و عدالت کی بنیاد پر مبنی دقيق اور سخت رویہ کی وجہ سے وجود میں آئی تھیں۔ اگرچہ یہ بات درست ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ تمام مشکلات کی بنیاد نہیں تھی۔ بلکہ ان میں سے بہت سے مشکلات کی بنیاد کو اس زمانے کے بدلتے ہوئے حالات اور ماحول میں تلاش کرنا چاہئے۔ ایک ایسا ہمہ گیر اور گہرا بدلاؤ پیدا ہوا تھا جس نے اپنے اندر ہر چیز اور ہر شخص کو غرق کر دیا تھا۔ فقط چند با ایمان اور با اخلاص مسلمان تھے جو ان حالات کے بھاؤ میں غرق نہیں ہوئے تھے۔ وہی لوگ جو حضرت علی سے متحد اور ہم آہنگ اور اپنے خون کے آخری قطرہ تک آپ کی ہمراہی میں اور آپ کے ہم رکاب رہے اور ان میں سے بہت سیافراد تینوں جنگوں میں درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ (۵۷)

## معاشرہ اور سماج کا درمیں مہونا

اس درہم و برہم حالات کو نہ صرف یہ کہ حضرت علی بلکہ کوئی دوسرا بھی منظم نہیں کر سکتا تھا۔ قدیم اور جدید صاحبان قلم کے قول کے بالکل برعکس اگر بالفرض پہلے دونوں خلفاء بھی آنحضرت کی جگہ ہوتے تب بھی حالات میں اتنی تبدیلی نہیں آسکتی تھی۔ (۵۸) ان دونوں کی کامیابی معاشرتی انجام اور اتحاد کو برقرار رکھنے میں، اس زمانہ کے حالات کی مرہون منت تھی نہ کہ ان کی ذاتی خصوصیات یا ان کی مجموعی سیاست کا شمرہ رہی ہوں۔ بغیر کسی شک شہہ کے اگر امام کو گذشتہ خلفا کے دور میں مسند خلافت پر بٹھا دیا جاتا تو ان دونوں سے کہیں زیادہ وہ کامیاب ہوتے۔ یہ بات کسی حد تک عثمان کے بارے میں بھی صحیح ہے۔ ان کی ناکامی فقط ان کی غلط خصوصیات کی بنا پر وجود میں نہیں آئی تھی۔ احتمال قوی کی بنا پر یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اگر ان (عثمان) کے ماقبل دونوں خلفا میں سے کوئی بھی ان کی جگہ برسا قدر آتا تھا، تب بھی حالات کی تبدیلی میں کوئی خاص فرق نہ پڑتا اور اسے بھی کم و بیش انھیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا جن سے عثمان دوچار ہوئے ہیں۔

وہ مؤرخین یہ بھول بیٹھے کہ پہلے ہی درجہ میں عثمان کی مشکلات انھیں مشکلات کا سلسلہ تھیں جن سے خود عراپنی خلافت کے آخری دور میں دست و گردیاں تھے اور یہ ساری مشکلات اس نئے ماحول اور حالات <sup>ٹھنڈی</sup> عوارض کا نتیجہ تھے جو جدید فتوحات کے ذریعہ پیدا ہوئے تھے۔ عمر نے اپنی عمر کے آخری ایام میں یہ احساس کر لیا تھا کہ وہ اپنے نفوذ و اختیارات سے ہاتھ دھو بیٹھے

ہیں اور اب خلافت کے ابتدائی سالوں کی طرح قدرت اور رعب و دبدبہ کے ساتھ حکومت نہیں کر سکتے۔ اس حقیقت کا قبول کرنا ان کے واسطے بہت مشکل امر تھا جیسا کہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے کئی مرتبہ موت کی تھمنا کی۔

لیکن گویا امام علی پر تنقید کرنے والے یہ سب مسائل بھول گئے ہیں اور اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تجویز و تحلیل میں تیز گام بنیادی انقلابات اور حالات میں تیزی کے ساتھ بدلاو کو نظر انداز کر دیا اور خلفا میں ہر ایک کی کامیابی کی مقدار کو فقط فردی سیاستوں، خصلتوں اور خصوصیات کی بنیاد پر چھان بین کی ہے۔ (۵۹)

چنانچہ معاویہ بھی جو مدارات، ہوشیاری (کیاست) اور سیاست میں مشہور تھا اگر بلا فاصلہ قتل عثمان کے بعد حکومت کی باگ ڈور کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا، اسے بھی ایسے ہی مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا جن سے حضرت علی دو چار تھے۔ (۶۰) پیش اصحاب جمل علی کی بہ نسبت معاویہ کے ساتھ زیادہ شدود مدار سختی کے ساتھ جنگ کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے کیونکہ وہ آنحضرت کی دینی اور ذاتی لیاقت اور یہاں تک کہ اپ کی عمومی بیعت کے شرعی اور قانونی ہونے کا لیقین رکھتے تھے اور صرف بہانہ تراشی کرتے تھے۔ وہ لوگ خود ان چیزوں کو جانتے تھے اسی وجہ سے عائشہ نے چند مرتبہ پلٹ جانے کا پکا ارادہ کیا لیکن ہر بار لوگوں نے جھوٹ بولکر ان کو اس کام سے روک دیا۔ (۶۱) بعد میں وہ خود اپنے اس کام سے سخت پیشمان ہوئیں۔ (۶۲) زیر بھی جنگ کے آخری لمحوں میں محااذ جنگ کو ترک کر دیا اور وہ اس بات کے لئے تیار نہ ہوئے کہ حضرت علی سے جنگ کریں۔ (۶۳) لیکن معاویہ ان لوگوں کی نظر

میں نہ یہ کہ فقط ہر قسم کی لیاقت و خوبی سے عاری تھا بلکہ وہ لوگ خود کو اس سے بہتر اور برتر سمجھتے تھے۔ اس سے بھی قطع نظر، طن غالب کی بنیاد پر سعد ابن ابی وقار اور ان کے جیسے دوسرے لوگ جو نہ تو امام کی حمایت کے لئے اور نہ ہی آپ کی مخالفت میں کھڑے ہوئے، وہ معاویہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ان لوگوں کے لئے قابل قبول نہ تھا کہ وہ لوگ اس (معاویہ) کو عثمان کے بعد بلا فاصلہ مندرجہ مخالفت پر بیٹھا دیکھیں اور وہ لوگ اس کے تابع رہیں معاویہ اپنی مطلقہ قدرت اور حکومت پانے کے ایک عرصہ کے بعد بھی ان سے ڈرتا تھا اور ان لوگوں کو یزید کی ولیعہدی کی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ سمجھتا تھا۔ (۶۴)

اور یہ کلام ایک دوسری طرح سے ان لوگوں کے بارے میں بھی صحیح ہے جنہوں نے خلافت امام کے آگے سر تسلیم خرم کر دیا تھا۔ قیس ابن سعد ابن عبادہ کے ایسے لوگ، قطعی طور پر اگر امام میدان خلافت و سیاست میں موجود نہ بھی ہوتے، تب بھی وہ معاویہ اور اس کے جیسے دوسرے افراد کے مقابلہ میں کھڑے ہو جاتے۔ ان لوگوں کی مخالفت معاویہ کے ساتھ اس بنا پر نہ تھی کہ وہ امام کے دوستوں کی صفائی میں آگئے تھے اور امام معاویہ کے مقابلہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے ان لوگوں کی معاویہ سے ایک سنجیدہ اور بنیادی مخالفت تھی۔ کیونکہ وہ لوگ امام کو خلیفہ برحق جانتے تھے، لہذا آپ کے پرچم تلے اس کے مقابلے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور اگر ایسا علم اور پرچم نہ بھی ہوتا تب بھی مسئلہ میں کوئی تبدیلی نہ آتی کیونکہ معاویہ امام کی شہادت کے بعد بھی ان لوگوں سے ڈرتا تھا۔ (۶۵)

اسی طرح خوارج جیسی مشکل بھی خواہ مخواہ وجود میں آگئی۔ خوارج داستان حکومت کی پیداوار

نہیں ہیں یہ حادثہ زخم کوتازہ کرنے کا ایک سبب تھا کہ حتی زمانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ میں بھی جس کا وجود تھا۔ وہ لوگ خشک اور تندر مزاج بد و تھے کہ بنیادی طور پر دین کے متعلق ایک دوسرا نظریہ رکھتے تھے (دین کے متعلق تنگ نظری اور سخت گیری کے شکار تھے)۔ اور اپنی اسی کج فہمی اور ایسے ادراک کی بنیاد پر خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات پر بھی اعتراض کر بیٹھے۔ مشہور ہے کہ ایک روز قبیلہ بنی تمیم کے افراد میں سے ایک شخص جو بعد میں خوارج کے سرداروں میں سے ہو گیا اور جنگ جمل کے معرکہ میں مارا گیا (ذوالخوبیصرہ) جس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ مال غنیمت تقسیم فرمائے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ پر اعتراض کر بیٹھا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ! عدالت کی کیوں رعایت نہیں کی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ غضب میں آگئے اور فرمایا: میں نے عدالت کی رعایت نہیں کی! تو میرے علاوہ عدالت کو کہاں پائے گا؟ اس کے بعد فرمایا یہی لوگ وہ گروہ ہو گئے جو دین سے خارج ہو جائیں گے اس وقت ان لوگوں کے خلاف جنگ کرنے کے لئے اٹھ جانا۔ (۶۶)

ضروری تھا کہ ایک زمانہ گذر جائے اور حالات تبدیل ہو جائیں تاکہ رفتہ رفتہ یہ کچھ فکر بچکانہ ذہنیت رکھنے والے بدوسخت گیر افراد ایک گروہ کی شکل میں جمع ہو کر موجودہ نظام کے مقابلہ میں کھڑے ہو جائیں۔ یہ تصور کرنا بالکل غلط ہے کہ یہ لوگ جنگ صفیں اور داستان حکومیت کی پیداوار ہیں۔ یہ لوگ اسلامی معاشرہ کے اندر ایک سرطانی عنده کی حیثیت رکھتے تھے کہ آخر کار ایک نہ ایک روز اس کو پھوٹنا ہی تھا البتہ حضرت علی کے زمانہ میں حالات کچھ اس طرح ہو گئے تھے کہ اس کام مناسب ترین موقع اس دور میں آپہونچا۔

قطعی طور پر اگر معاویہ حضرت علی کی جگہ قرار پاتا تو یہ لوگ زیادہ قدرت اور قوت کے ساتھ وسیع پیانہ پر میدان میں نکل آتے، ان کا اعتراض حضرت علی ابن ابی طالب پر یہ تھا کہ کیوں تم نے حکومت کو مان لیا اور اب اپنے اس عمل سے توبہ کرو۔ صرف یہی ایسا ایک اعتراض تھا جو وہ کر سکتے تھے، کیونکہ ان کی نظر میں حضرت علیؑ بھی بھی اسلام کے صراط مستقیم اور عدالت سے خارج نہیں ہوئے اور یہی وجہ تھی کہ ان خوارج میں سے بہت سے امام اور ان کے اصحاب کی توضیحات سے اپنی راہ سے عدول کر گئے، نہروں کی جنگ میں، جنگ سے منخواہ کر کر چلے گئے۔ لیکن کیا ان کا یہ راویہ معاویہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا؟

معاویہ جیسا شخص خوارج کی نظر میں ظلم و بربریت اور کفر و بے دینی کا مظہر تھا۔ جیسا کہ وہ لوگ (خوارج) اس (معاویہ) کے قدرت میں آنے کے فوراً بعد اس کے اور اس کے ناخلف اخلاف کے مقابلہ کھڑے ہو گئے۔ یہ کہنا ضروری ہے کہ اس راہ میں انہوں نے شجاعت اور بہادری کی یادگار قائم کر دی عباسیوں کے ابتدائی دور تک ان کی جنگ اور استقامت اور صفائی جاری رہی اور آخر کار وہ بغیر کسی فوجی طاقت کا مقابلہ کئے ہوئے، حالات کے بدلتے سے نابود ہو گئے اور وہ لوگ بھی جو باقی رہ گئے تھے انہوں نے اپنے باقی فکر و عمل اور اعتقاد میں اس طرح کی اصلاحات اور اعتماد اپنیا کہ وہ دوسرے مسلمانوں کے مانند ہو گئے۔ (۶۸)

## مشکلات کا سرچشمہ

نتیجہ یہ کہ علی ابن ابی طالب کی مشکلات کا سرچشمہ صرف ان کی عدالت خواہی ہی نہ تھی۔ بلکہ ان میں سے اکثر مشکلات اس زمانے کے حالات کی طرف پلٹتی ہیں۔ اگر حضرت علی کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تب بھی ان مشکلات سے رو برو ہوتا۔ اگر بعد میں معاویہ تک حکومت اور قدرت پہنچ گئی پھر بھی زیادہ تر مشکلات ان حالات کی بنا پر ہے جو حضرت علی کے دور خلافت کے بعد و نما ہوئیں نہ معاویہ کی ذاتی اور شخصی خصوصیات کی بنا پر۔ اور خلافت کے عموماً بڑے دعویدار اور معاویہ کے رقبہ امام کے مقابل صفات آرا ہو کر قتل ہو گئے تھے۔ اور اس زمانے کے تباہ تجویز بولے نے لوگوں کو خستہ و فرسودہ کر دیا تھا اور اب مائل نہ تھے کہ لفڑر کھنے والے اور خلافت کے دعویداروں کی آواز پر لبیک کہیں۔ گویا اس معاشرہ میں سکون حاکم ہو چکا تھا اور وہ خود بخود رام ہو گیا تھا اور اس کا مدد و جزا تھم چکا تھا اور ایک ایسی قدرت کی جستجو میں تھا جو ان کے لئے امن و امان کا نوید لائے اور اس زمانے کے لوگوں کی نظر میں یہ فقط معاویہ ہی تھا جو اپنے اندھے و بہرے اور اندھی تقليید کرنے والے شامی اطاعت گزاروں کی مدد سے یہ کام کرنے پر قادر ہو گیا تھا۔ اگرچہ بعد میں اس نے لوگوں کو قبرستان جیسے امن و سکون کے تحفے سے نواز اجوہ تمام آزادیوں اور انسانی کرامتوں کو سلب اور تمام اصول و اسلامی معیاروں کو پامال کرنے کے متادف تھا۔ (۶۹) یعنی ابن ابی طالب کے خلافت تک پہنچنے اور آنحضرت کے ساتھ ہونے والی مخالفتوں کی اجمالی داستان تھی۔ عثمان کی بے لیاقتی، کینہ

تو زی، خاندان پرستی اور ان کے فوجی سرداروں کی ظلم و زیادتی اور لاپرواہی نے لوگوں کی چشم امید کو آنحضرت کی طرف مبذول کر دیا تھا اس حد تک کہ لوگوں نے بیعت کرنے کے واسطے ایسا ہجوم کیا کہ آپ کے دونوں فرزند اس ہجوم اور بھیڑ میں پس کر رکھی ہو گئے۔ لوگ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کی طرف لپکے اور ان کی طرف دوڑے (نہ کہ حضرت نے چاہا اور ان کو اپنی طرف بلا�ا ہو)۔ اب اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ آنحضرت لوگوں کی طرف سے قبول کر لئے گئے۔ انہوں نے بیعت سے پہلے ہی، اپنا انتخاب کر لیا تھا۔

البتہ اس کے علاوہ بھی دوسرے اسباب موجود تھے مثلاً موٹ گمری و اٹ معاویہ کی کامیابی اور حضرت علی کے لئے پیش آنے والی مشکلات سے رو برو ہونے کے بارے میں اس طرح کہتا ہے: معاویہ کی حمایت ان شامی عربوں کے ذریعہ ہوتی تھی۔ جو کئی سال سے اس کے فرمانبردار اور اطاعت گذار تھے عام طور پر وہ صحراء نہیں آئے تھے بلکہ وہ ایسے خاندان سے متعلق تھے جو ایک یادوں سے شام ہی میں مقیم تھے لہذا وہ ان بدّوں کی بہ نسبت زیادہ پائیدار اور بھروسے مند تھے جو علی ابن ابی طالب سے وابستہ تھے۔ شامی عربوں کی بہترین کیفیت معاویہ کی کامیابی کی ایک بہت بڑی دلیل تھی۔ (۷۰)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کے مخالفین اور معارضین (مقابلہ کرنے والے) حقیقت میں دہشت گرد اور شدت پسند تھے فقط انھیں کے ساتھ نہیں بلکہ جو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کی جگہ پر ہوتا وہ لوگ اس کی بھی مخالفت کرتے۔ ان لوگوں کا اعتراض صرف یہ تھا کہ حکومت میں ان لوگوں کا کوئی خاص عہدہ یا مقام کیوں نہیں ہے۔ وہ چیز جس نے ان لوگوں کو ایک

متحدہ محاڑ پر لاکر کھڑا کر دیا تھا وہ امام سے مخالفت تھی نہ یہ کہ ہم عقیدہ اور ہم مسلک ہونے کی بنیاد پر۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے پروپیگنڈے، دھمکیوں اور لائچ دینے (تطمیع) کا سہار الیکٹر عوام الناس کی صفائح اتحاد میں تفرقہ اندازی کر کے چاہے ان لوگوں کے درمیان تفرقہ اندازی کرتے جنہوں نے امام سے براہ راست بیعت کی تھی یا پھر ان کو قانونی طور پر اپنا بحق خلیفہ تسلیم کرتے تھے، ان لوگوں کے درمیان اختلاف کا نتیجہ بوجایا اور آخر کار ایک گروہ کو اپنا پیر و مہاہی لیا اور امام کے مقابل کھڑا کر دیا۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ چند لوگوں کے علاوہ سب نے امام کی خلافت کو قبول کر لیا تھا اور ہم یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کا امام بعنوان خلیفہ منتخب کر لینا گذشتہ دونوں خلفا کی بہ نسبت زیادہ وسیع اور اکثریت کا حامل تھا۔ (۷۱)

البتہ ہم پہلے یہ بیان کر چکے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی خلافت پر پہنچنے کی داستان پہلے تین خلافا سے مختلف تھی اگرچہ عمومی طور پر لوگوں نے آپ کی بیعت کر کے آپ کے گرد جمع ہو گئے تھے اور گذشتہ خلفا کی طرح آپ کو دیکھتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ حضرت علی ان کے دنیاوی امور کی بھی ذمہ دار ہوں لیکن آپ کے ماننے والوں اور پیروی کرنے والوں میں کچھ ایسے بھی افراد تھے جنہوں نے آپ سے بیعت اس واسطہ کی تھی آپ کو وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے برحق جانشین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی طرف سے منسوب اور منصوص جانتے تھے۔ (یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ نے خاص طور پر آپ کو جانشین بنایا تھا) آپ کی بیعت اس وجہ سے نہیں تھی کہ ان کا کوئی رہبر ہو جوان کے دنیاوی امور کی دلکشی بھال کرے اور اس کے انتظام کو اپنے ہاتھوں میں لے لے، بلکہ آپ کی بیعت اس لحاظ سے کی تھی کہ وہ لوگ اپنے

دنیاوی اور دینی امور میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے صحیح جانشین کی بیعت کئے ہوئے ہوں۔ یعنی ایسے شخص کی بیعت جو وسیع اور عمیق معنوں میں منصب امامت کی لیاقت رکھتا ہو۔ ایسی امامت جو نبوت اور رسالت ہی کا ایک سلسلہ ہو بلکہ یہ امامت، رسالت و نبوت کا فطری اور منطقی نتیجہ ہے۔ اگرچہ ایسے (مخلص) افراد کی تعداد بہت کم تھی لیکن وہ لوگ سایہ کی طرح ہمیشہ امام کے ہمراہ تھے اور لوگوں کو امام کی طرف بلاتے رہے اور آنحضرت کے ساتھ جنگوں میں بہت اساسی کردار ادا کیا اور عموماً انھیں جنگوں میں درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ (۷۲)

### حقیقت کی بدلتی ہوئی تصویر

خلافے راشدین کی تاریخ کی حقیقت یہ تھی جیسا کہ وہ محقق ہوتی۔ اگر اس کا پہلا حصہ چین و سکون کے ساتھ اور اس میں کسی قسم کی کشیدگی نہیں پائی جاتی ہے تو وہ صرف بیرونی خطرات میں لوگوں کی توجہات کے مشغول ہو جانے کی بنا پر ہے، ابتدائی زمانہ میں بیرونی خطرات کی طرف توجہ کے مرکوز ہونے کے ساتھ ساتھ اندرونی دھمکیاں اور معاشرہ کا فقر اور اس کی محدودیت نے اپنے میں مشغول کر رکھا تھا، اگر اس کے بعد کا زمانہ پُرآشوب اور بحرانی ہے تو بھی اس کی پیدائش کا واحد سبب وہ حالات ہیں جو اکثر بیرونی خطرات کے ختم ہو جانے اور ثروت کی بھرمار کی بنا پر پیدا ہوئے ہیں۔ خلافاً کا انتخاب عام لوگوں کی نظر میں اس زمانہ میں ایک معمولی چیز تھی۔ ان لوگوں کی نظر میں یہ لوگ (خلافاً) بھی معمولی افراد تھے اور ان کا

منصب بھی کوئی خاص فضیلت نہیں رکھتا تھا اور خود وہ (خلافاً) بھی اپنے کو کسی اور زاویہ نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔

جس وقت ابو بکر کہتے تھے کہ مجھ کو چھوڑ دو (سمجھنے کی کوشش کرو) میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں اور یا کہ وہ کہتے تھے: میرے اوپر ایک شیطان مسلط ہے اور میں کہیں راستہ سے کچھ ہو گیا (راہ راست سے بھٹک گیا) تو مجھے راہ مستقیم پر لگا دو تو یہ مذاق نہیں فرمائے تھے اور نہ ہی تواضع و انکساری کر رہے تھے۔ وہ واقعاً ایسا ہی سوچتے تھے اور دوسرے لوگ بھی ان کو اسی نظر سے دیکھتے تھے۔ جس وقت عمر کہتے تھے: مجھ سے ہوشیار ہوا گر میں نے کہیں غلطی کی ہو تو مجھے ٹوک دو۔ یہ سخیدگی اور ممتازت کے ساتھ کہتے تھے اور جس وقت فلاں عرب اُٹھ کر کہتا تھا: خدا کی قسم اگر تم کچھ رفتاری کرو گے تو تمہیں شمشیر کے ذریعہ سیدھا کر دیں گے۔ حقیقت میں یہ چیز اس زمانہ کے لوگوں کا خلیفہ کے ساتھ بر تاؤ کے طریقے اور بنیادی طور پر مقامِ خلافت کے متعلق لوگوں کے نظرے کو بیان کرتی ہے۔ (۷۳)

لیکن بعد میں، جیسا کہ ہم بیان کریں گے، ایک دوسرے طریقہ سے دیکھا گیا اور اس کی تصویر کشی کی گئی۔ رفتہ رفتہ انسانی، مادی اور دنیاوی رنگ کو ہو کر معنوی اور روحانی حاصل کر لیا یہاں تک کہ دینی تقدس کے رنگ میں رنگ گیا۔ وہ دور جو صدر اسلام کے مسلمانوں کی تاریخ کا دور تھا درحقیقت خود اسلام کی تاریخ کی تمامیت اور خالصیت کی صورت میں پیدا ہو گیا الہذا مختلف اسلامی ادوار کی تاریخ میں بلکہ خود دین کے مقابلہ میں اس کا ہم پلہ قرار دیا گیا یہاں تک کہ وہ تاریخیں دین کی مفسر اور مبین ہو گئیں اور دور ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کی منزلت

کے برابر منزالت حاصل کر لی اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حالات میں تبدیلی کیوں اور کیسے وجود میں آئی؟ اور اس کے نتائج کیا ہوئے؟

معاویہ کے مطلق العنان ہونے کے بعد امام حسن بھی خاموشی پر مجبور ہو گئے، اس کے بعد معاویہ نے کچھ ایسے اقدامات کے لئے ہاتھ پیر مارے جن کی بنا پر بعد میں تاریخ اسلام میں اہم تغیرات رونما ہوئے۔ یہاں تک کہ اسلام کے متعلق مسلمانوں کے فہم و ادراک میں بھی تبدیلی پیدا ہو گئی۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ خود جانتا تھا کہ اس کے ان اقدامات کا نتیجہ کیا ہو گا۔ شاید وہ اپنے حد تک دوسرا مقصود کی تلاش میں رہا ہو، لیکن بہر حال اس کے اقدامات کے نتیجہ میں مسلمانوں کے فہمی و کلامی اور اعتقادی ڈھانچے پر بہت زیادہ اثر انداز ہوا۔ اس طرح کہ اگر ہم کہیں کہ ان اقدامات کی طرف توجہ کئے بغیر جامع اور مکمل اسلام کی متعلق مسلمانوں کے فہم و ادراک میں تبدیلی کو سمجھا نہیں جاسکتا تو ہماری یہ بات غلط گوئی نہ ہو گی۔ (یعنی معاویہ کے اقدامات نے اہم تحریکات پیدا کئے اور مسلمانوں نے انھیں اسلام سمجھا اگر ان کو نظر انداز کر دیا جائے تو مسلمانوں کی فہم اور ان کی کلامی و اعتقادی بنیاد میں کمی واقع ہو جائے گی۔) (۷۴)

معاویہ کی قدرت و طاقت کے اوچ کے وقت بھی اس کے حائز اہمیت مخالفین موجود تھے البتہ وہ ان لوگوں کی کامل اور دقیق شناخت بھی رکھتا تھا۔ وہ حسب ذیل افراد تھے: عبد اللہ بن زیبر، عبد الرحمن ابن ابو بکر، عائشہ، سعدا بن ابی و قاص، عبد اللہ بن عمر، قیس ابن سعدا بن عبادہ اور تمام انصار اور علی ابن ابی طالب کے خالص شیعہ۔ لیکن بجز شیعوں اور خوارج کی مخالفت

کے کہ اس میں اعتقادی پہلو تھا بقیہ تمام مخالفین اور ناسازگاریاں سیاسی پہلو رکھتی تھیں۔ وہ اتنا ہوشیار، چالاک، لوگوں کی پہچان رکھنے والا اور موقع شناس انسان تھا کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کے مقابلہ کے لئے اٹھ سکے اور ان کو لا جیج دیکر یا ڈراو ڈھماکا کر سکوت پر آمادہ کر سکے لہذا یہ لوگ اس کے لئے قابل تحمل تھے۔ وہ چیز جو اس کے لئے برداشت کے قابل نہ تھے یہاں تک کہ وہ ان سے ڈرتا تھا وہ علی ابن ابی طالب کا سنگین سایہ اور آپ کا قدرت مند جاذبہ تھا۔

البتہ امام اس وقت درجہ شہادت پر فائز ہو گئے تھے وہ خود حضرت علی سے نہیں ڈرتا تھا بلکہ آپ کی شخصیت سے ڈرتا تھا ایسی شخصیت جو اس کی حکومت و سلطنت کی شرعی اور قانونی اور اس کے مطلق العنان ہونے میں رکاوٹ اور سنگ راہ تھی اگر وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کی شخصیت اور تقدس کے حریم کو نابود کر سکتا، وہ اپنا اور اپنے خاندان کا تاریخی انتقام بھی لے لیتا، اپنے اور اپنے خاندان کے غلبہ کو باقی رہنے اور اسکی مشروعیت کو حاصل کرنے کا جو سب سے بڑا منع تھا اسے بھی درمیان سے ہٹا دیتا۔ (۷۵)

### حضرت علی سے مقابلہ آئی

سب سے پہلا اقدام امام پرسب ولعن کا رواج دے نا تھا۔ لیکن کچھ مدت گزر جانے کے بعد میں جان لیا کہ فقط یہ کافی اور کار ساز نہیں ہو سکتا لہذا اس نے فیصلہ کیا کہ ایک آئین نامہ کے ذریعہ اپنے حکام سے یہ چاہیے کہ جو مناقب علی ابن ابی طالب کے بارے میں پغیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے نقل کئے گئے ہیں انھیں کے مشابہ فضیلیتیں دوسروں کے بارے میں گڑھ کر

ان کی ترویج کریں اور ٹھیک یہیں سے تحول اور تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ صدر اسلام اور اس کے افراد کو تقدس کی نظروں سے دیکھا جانے لگا۔ مدح صحابہ، عصر صحابہ، خلفاءٰ ملائکہ، خلفاءٰ راشدین، عشرہ مبشرہ، ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ واصدراول کی اہم اور صاحبان نفوذ شخصیتوں کے بارے میں حدیثیں گڑھی جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ حدیثیں عام لوگوں کے دل و دماغ اور یہاں تک کہ علماء اور محدثین کے ذہن اور ان کے دماغ میں گھر کر گئیں اور کبھی بھی ان کے ذہن سے یہ بات نہیں نکلی اور نہ ہی اس میں شک و شمہر پیدا ہوا کیونکہ اس بات کے ذہن سے نکلنے یا اس میں شک کے لئے کوئی راستہ نہ تھا اور یہاں تک کہ یہ عقاید بعد کے زمانہ میں بھی کچھ اسباب کے تحت جنم کا ذکر ہم بعد میں کریں گے وہ قوی ہو گئے۔

ابن الحدید شرح نجح الملاعنة میں ایک فصل تحریر کرتے ہیں جس کو اہل بیت (ع) پر ڈھانے جانے والے بعض مظالم اور اذیتوں کے بیان کے عنوان کے تحت اس سے متعلق ایک مفصل حدیث امام محمد باقر سے نقل کرتے ہیں جس میں آنحضرت جو کچھ شیعوں کے ائمہ اور ان کے ماننے والوں پر گذری ہے اس کو مختصر طور پر بیان فرمایا ہے: ہم ہمیشہ مورداً از رواذیت اور ظلم واقع ہوئے اور قتل کئے گئے، ہمیشہ قید و بند، تحت تعقیب اور محرومیت میں مبتلا رہے ہیں۔ میری اور میرے چاہنے والوں کی جانیں محفوظ نہ تھیں۔ اسی حال میں جھوٹی حدیثیں گڑھنے والے اور حقیقت سے نبرداً از مالوگ میدان میں کوڈ پڑے ان کے جھوٹ بولنے اور حقیقت سے نبرداً زمائی کی بنا پر ان لوگوں نے برے امیروں، قاضیوں اور حکام کے نزدیک ہر شہر میں اپنی حیثیت بنالی۔ وہی لوگ حدیثیں گڑھ کے اس کو شائع کرتے تھے۔ جو ہم نے انجام

نہیں دیا تھا اور اس کے بارے میں نہیں کہا تھا اس کی نسبت ہماری طرف دے دی گئی یعنی ہم سے روایت کرڈیں تاکہ ہم کو لوگوں کے درمیان بدنام کریں اور ان کی شمشنی کی آگ ہمارے خلاف بھڑکائیں اور یہ ما جرا امام حسن کی رحلت کے بعد معاویہ کے زمانے میں شدید ہو گیا۔ (۷۶) اس روایت کو نقل کرنے کے بعد مدائی کی معتبر کتاب الاحداث سے ایک دوسری بات نقل کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ فوائد پر مشتمل ہے لہذا ہم اس کا ایک اہم حصہ بیان کریں گے: حضرت علی کی شہادت کے بعد جب معاویہ کی خلافت مستقر ہو گئی، اُس (معاویہ) نے اپنے والیوں کو اس طرح لکھا: میں نے اپنے ذمہ کو اس فرد سے جو ابو تراب اور ان کے خاندان کے فضائل بیان کرتا ہے بری کر لیا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ دور و نزدیک تمام علاقوں میں ہر منبر سے ہر خطیب نے مولائے کائنات حضرت علی پر لعنت کرنا شروع کر دیا اور ان سے اظہار بیزاری کرنے لگے خود ان کے اور ان کے اہل بیت کے خلاف زبان کھولنے لگے اور ان پر لعن و طعن کرنے لگے۔ اسی درمیان کوفہ تمام علاقوں سے زیادہ مصیبت میں گرفتار ہو گیا چونکہ زیادہ تر شیعہ اسی شہر میں ساکن تھے۔ معاویہ نے زیاد ابن سمیہ کو اس کا والی بنایا اور بصرہ کو بھی اسی سے متصل کر دیا اس نے بھی شیعوں کو ڈھونڈنا شروع کیا اور چونکہ حضرت علی کے دور میں وہ خوب بھی آپ کے شیعوں میں سے تھا لہذا ان کو اچھی طرح پہچانتا تھا ان کو جہاں بھی پاتا قتل کر دیتا تھا ایک عظیم دہشت پھیل گئی تھی ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیتا اور آنکھوں میں سلاخیں ڈال دیتا اور درخت خرمہ کے تنے پر ان کو سوی دے دیتا اور عراق سے ان کو نکال کر ان لوگوں کو ادھر ادھر منتشر اور تتر کر دیا اس حد تک کہ

اب کوئی معروف شخصیت وہاں باقی نہ رہ جائے۔

معاویہ نے دوسری نوبت میں اپنے کارندوں کو لکھا کہ کسی ایک بھی شیعہ علی اور ان سے وابستہ لوگوں کی شہادت (گواہی) کو قبول نہ کرو۔ اپنی توجہ کو عثمان اور اس کے شیعوں کی طرف موزع دو اور جو لوگ اس کے فضائل اور مناقب کو بیان کرتے ہیں انہیں اپنے سے نزدیک کرو ان کو اکرام و انعام سے نوازو۔ ان سے مردی روایات اور خود ان کے ناموں، ان کے باپ اور خاندان ان کے ناموں کو لکھ کر میرے پاس ان کی فہرست بھیجو۔

اس کے کارندوں نے ایسا ہی کیا یہاں تک کہ عثمان سے متعلق فضائل بہت زیادہ ہو گئے اور ہر جگہ پھیل گئے اور یہ معاویہ کے مختلف ہدیوں کی بدولت تھا عبا اور زمین سے لیکر دوسرے بہت سارے قیمتی تخفے، تھائے تک کہ جو عربوں اور دوستوں کو بخشنا تھا۔ وہ دنیا کو پانے کے واسطہ ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی میں مشغول تھے۔ کوئی بیکار اور فضول شخص بھی ایسا نہ تھا جو معاویہ کے گورنر کے پاس گیا ہوا اور کوئی روایت عثمان کی فضیلت میں نقل نہ کی ہو۔ مگر یہ کہ اس کا نام لکھا جائے اور اس کی قدر دنی کی جاتی تھی اور وہ شخص مقام و منزلت پا جاتا تھا اور ایک مدت اسی طرح گزر گئی۔

کچھ دنوں کے بعد معاویہ نے اپنے والیوں کو لکھا کہ عثمان کے بارے میں احادیث بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور تمام علاقوں میں پھیل گئی ہیں۔ جس وقت میراخط تم تک پہنچ لوگوں کو دوسرے صحابہ اور پہلے دنوں خلافاً کے فضائل بیان کرنے کی دعوت دو۔ جیسی فضیلیتیں مسلمانوں نے ابوتراب کے بارے میں نقل کی ہیں ویسی ہی فضیلیتیں صحابہ کی شان میں جعل

کر کے میرے پاس بھیج دو۔ کیونکہ اس امر کو میں بے حد پسند کرتا ہوں اور میری آنکھیں اس سے روشن ہو جاتی ہیں اور وہ خلفائے راشدین کی فضیلیتیں ابو تراب اور ان کے شیعوں کی دلیلوں کو بہتر طور پر باطل کرتی ہیں اور ان لوگوں پر عثمان کے فضائل بیان کرنا سخت اور دشوار کام ہے۔

اس (معاویہ) کے خطوط لوگوں کے سامنے پڑھے گئے۔ بلا فاصلہ اسی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اخبار و احادیث صحابہ کی فضیلت میں بیان ہونے لگیں کہ تمام کہ تمام جھوٹی اور جعلی تھیں، لوگ اس راہ پر چلنے لگے یہاں تک کہ یہ روایتیں منبروں سے پڑھی جانے لگیں اور مدرسہ کے منتظمیں اور اس میں پڑھانے والے اسامدہ کو دیدی گئیں انہوں نے ان روایات کو پچھوں کو تعلیم دینا شروع دیا اور یہ احادیث اس قدر پھیل گئیں اور اہمیت کی حامل ہو گئیں کہ ان (احادیث) کو قرآن کی طرح سیکھ لیا اپنی لڑکیوں، غلاموں، کنیزوں اور عورتوں کو تعلیم دے دی گئیں۔

اس کے بعد ایک دوسری خط لکھا اور اپنے کارندوں سے چاہا کہ جس شخص پر علی کی دوستی کا الزام ہواں کو زیر نظر اور اس پر دباؤ بنائے رہیں اس کے گھر کو خراب کر دیں۔۔۔ اس طرح بہت سی احادیث جعل کر کے منتشر کر دی گئیں۔ فقیہوں، قاضیوں اور امیروں نے بھی یہی راستہ اختیار کیا۔ اسی درمیان ریا کا رجھوٹے راوی اور زہد فروش حقیر اور مقدس نما، افراد اس مسابقه میں بازی جیت لے گئے اور سب سے زیادہ اپنے آپ کو اس سے آلوہ کر لیا تاکہ اس راہ سے مال و متناء اور مقام ان کے ہاتھ لگے اور وہ حکام سے نزدیک ہو جائیں۔ یہاں تک کہ

یہ احادیث متعددین افراد اور سچ بولنے والوں کے پاس پہنچ گئیں جو لوگ نہ توجھوٹ بولتے تھے اور نہ ہی فطری طور پر اس بات کا یقین کرنے پر قادر تھے کہ دوسرا لوگ بغناوں محدث و راوی جھوٹ بولیں گے۔ لہذا ان سب کو قبول کر کے اور سچ سمجھ کر روایت کرنے لگے۔ اگر وہ جانتے کہ یہ احادیث جھوٹ اور باطل ہیں تو نہ ان کو قبول کرتے اور نہ ہی ان کو نقل کرتے... (۷۷)

اس کے بعد ابن ابی الحدید نے ابن نفطیو یہ جو کہ برزگ محدثین میں سے ہیں، ان سے ایک جملہ نقل کرتے ہیں مناسب ہے کہ ہم بھی اس کو نقل کر دیں: اکثر جعلی حدیثیں جو صحابہ کے فضائل میں گڑھی گئیں وہ بنی امیہ کے زمانہ میں گڑھی گئیں ہیں، تاکہ اس کے ذریعہ ان کا تقریب حاصل کریں یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس طرح بنی ہاشم کی ناک زمین پر گڑھ دیں گے۔ (۷۸)

حقیقت یہ ہے کہ معاویہ اور اس کے بعد بنی امیہ نے مختلف وجوہات اور دلائل کے تحت ایسے اقدام کئے۔ وہ اپنی موقعیت اور مشروعیت کو ثابت کرنے اور اپنے سب سے بڑے رقبہ و مخالف، بنی ہاشم اور ان میں بھی سرفہرست ائمہ مصوصین (ع) کو میدان سے ہٹانے کے لئے مجبور تھے کہ خود کو عثمان کے شرعی اور قانونی وارثوں کی حیثیت سے پہنچنا گئیں اور حضرت علی کے ہاتھ کو اس کے خون سے آلوہہ بتائیں اگر ان کاموں میں وہ کامیاب ہو جاتے تو وہ اپنے مقاصد تک پہنچ جاتے، اسی وجہ سے خاص طور پر شعر اور ان کی مدح و سرای کرنے والوں نے عثمان کے فضائل بیان کرنے اور ان کو بے گناہ قتل ہونے اور یہ کہ بنی امیہ اس کے خون کے

حقیقی وارث ہیں اور اس کی طرف سے یہ خلافت ان تک پہنچی ہے، اس کے لئے ان لوگوں نے دادخن دی ہیں۔ (۷۹)

گولڈزیہر (Goldziher) اس بارے میں اس طرح کہتا ہے: تاریخ کے نقطہ نظر سے یہ چیز تقریباً مسلم ہے کہ بنی امیہ نے خود کو عثمان کا قانونی اور شرعی جانشین کہلوایا اور اس کے خون کا انتقام لینے کے عنوان سے حضرت علی اور ان کے شیعوں کے خلاف بنی امیہ دشمنی پر قتل گئے۔ اسی سبب سے عثمانی ایک ایسا عنوان ہو گیا تھا جو اموی خاندان کے سرخخت طرفداروں پر اطلاق ہوتا تھا۔ (۸۰)

یہ سب اس بات کا مر ہون منت ہے کہ عثمان جس قدر، منزلت پا سکتے ہوں پالیں۔ ایسی منزلتیں جوان کو ہر اس تنقید سے بچا سکتی تھیں جو تنقید یہیں ان پر کی جا سکتی تھیں اور اس میں چند اہم نتیجہ پائے جاتے تھے۔ پہلا یہ کہ اس کے ذریعہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کیوں اور کن لوگوں کے ذریعہ اور کن تہتوں کی وجہ سے قتل کئے گئے؟ وہ فضائل جوان (عثمان) کے لئے نقل ہوتے تھے ان کی حقیقی شخصیت اور ان کے اعمال و کردار کے اوپر ایک ضخیم پرده کی حیثیت رکھتا تھا اور ہالہ کی روشنی کے سبب ان کے کالے کرتوتوں پر پرده ڈال دیتا تھا۔ دوسرے: یہ ثابت کرتا تھا کہ ایک ایسا شخص جو اپنی زندگی کے آخری لمحے تک حق و حقیقت کے سوا کسی اور راہ پر نہ تھا الہزا وہ مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا ہے اور اس کے قاتل، بے دینوں اور بد دینوں کا ایک گروہ تھا البتہ پروپیگنڈے سے لوگوں کو یہ یقین دلا سکتے تھے کہ علی کا اس حادثہ میں ہاتھ تھا بلکہ ان کا اہم کردار تھا۔ تیسرا: اس خون ناحق کا انتقام لیا جائے اور اس کا بدلہ

لینے کے لئے معاویہ اور بنی امیہ کے علاوہ کون سب سے زیادہ حق دار ہو سکتا ہے؟ معاویہ عثمان کے خون کا ولی اور وارث ہے اور صرف اسی کو اس کے خون کا بدلہ لینے کے لئے اٹھنا چاہئے اور صرف اسی کو اس کا جانشین ہونا چاہئے لہذا معاویہ کی خلافت اور جانشینی بھی مشروعیت پار ہی تھی اور علی سے اس کی مخالفت اور آپ سے جنگ بھی شرعی اور قانونی قرار پار ہی تھی۔ اتفاقاً اس طرح کے استدلال اس زمانے کے مسلمانوں کے لئے قابل درک تھے کیونکہ وہ لوگ ابھی تک دور ان جاہلیت کے میراث کے قانون سے متاثر تھے اور بنی امیہ بھی اپنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ انھیں زندہ کرنے کے لیے کمر بستہ تھے اور وہ لوگ اس کو درک کرتے تھے۔ کیونکہ جاہل معاشرہ میں ثار کے قانون کی بنیاد پر مقتول کے وارثوں پر لازم ہے کہ اس کا انتقام قاتلوں سے لے لیں۔ اصل (اس قانون میں) فقط انتقام لینا ہے دوسرا کسی اصل کی رعایت نہیں ہے نہ کہ کسی اور دوسرا اصل (قاعدہ) اور حدود کی رعایت کرنا۔ (۸۱)

اب تک جو کچھ بھی بیان ہوا اس کا بہترین ثبوت جنگ صفين میں عمر و ابن عاصی اور ابو موسیٰ اشعری کے ذریعہ حکمیت کے بارے میں موافقت نامہ کا تحریر کرنا ہے۔ ایک ایسا نمونہ جس کی بعد میں معاویہ اور سارے خلفائے بنی امیہ اس کی پیروی کرتے تھے۔ ان دونوں کی بہت سی بحث و نقشوں کے بعد عمر و عاصی نے اپنے ساتھی سے چاہا جس چیز پر ہم توافق کرتے جائیں وہ کاتب کے ذریعہ لکھوایا جائے۔ کاتب اسی عمر و کا بیٹا تھا، خدا کی وحدانیت اور رسول کی رسالت اور پہلے وخلفاً (ابو بکر و عمر) کی حقانیت کی گواہی لکھنے کے بعد عمر و ابن عاصی نے اپنے بیٹے سے کہا لکھو: کہ عثمان، عمر کے بعد تمام مسلمانوں کے اجماع اور صحابہ کی مشورت اور

ان کی مرضی سے خلافت کے عہدہ پر فائز ہوئے اور وہ مومن تھے۔ ابو موسیٰ اشعری نے اعتراض کیا اور کہا: یہاں اس مسئلہ کی تحقیق کے لئے نہیں بیٹھے ہیں، عمرونے کہا: خدا کی قسم یا وہ مومن تھے یا کافر تھے۔

ابو موسیٰ نے کہا: مومن تھے۔

عمرو نے کہا ظالم قتل ہوئے یا مظلوم؟  
ابو موسیٰ نے کہا مظلوم قتل ہوئے ہیں۔

عمرو نے کہا: آیا خداوند عالم نے مظلوم کے ولی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ اس کے خون کا بدلہ لے؟  
ابو موسیٰ نے کہا: کیوں نہیں

عمرو نے کہا: آیا عثمان کے واسطے معاویہ سے بہتر کوئی ولی جانتے ہو؟ ابو موسیٰ نے کہا نہیں  
عمرو نے کہا: آیا معاویہ کو اتنا بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عثمان کے قاتل کو جہاں بھی ہوں  
اپنے پاس طلب کرے تاکہ یا تو اس کو قتل کر دے یا اس کے مقابلہ سے وہ عاجز ہو جائے؟  
ابو موسیٰ نے کہا: کیوں نہیں، ایسا ہی ہے

عمرو نے کہا: ہم ثبوت پیش کرتے ہیں کہ علی نے عثمان کو قتل کیا ہے۔ (۸۲)

اور ان تمام باتوں کو اس عہد نامہ کا جزو قرار دیا

## مقامِ صحابہ کا اتنا اہم ہو جانا

یہ ان حالات کا ایک گوشہ ہے جس میں عثمان اور گذشتہ خلفا اور صحابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ و نبی کے نفع میں حدیث کا گڑھے جانے کا کام انجام پایا۔ معاویہ اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لئے مجبور تھا کہ عثمان کی حیثیت اور شخصیت کو بڑھائے ہذا مائنے کے نقل کے مطابق کہ (معاویہ نے) بلا فاصلہ خلافت پر پہنچنے کے بعد حدیث شیں گڑھنے کا حکم صادر کر دیا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ اقدام فقط شخص عثمان تک محدود نہیں رہ سکتا تھا۔ کیونکہ اس زمانہ کے لوگوں کے لئے، جن میں بعض نے عثمان اور ان کے پہلے والے خلفا کو دیکھا تھا یہ ان لوگوں کے لئے قبل درک وہضم نہیں تھا کہ اس (عثمان) کا اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہو اور اس کے پہلے والے خلفا اور دوسرے صحابہ نامدار کی یہ منزلت نہ ہو۔ یہ مسئلہ عثمان کے نضائل کے بارے میں مختلف قسم کے سوالات اور شک و شمہہ ایجاد کر سکتا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ (معاویہ) مجبور ہو گیا کہ عثمان کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی شان و شوکت اور مقام و منزلت بلند کریں اور ایسا ہی کیا۔

اس ضرورت کے علاوہ اس عمل کے دوسرے نتائج بھی تھے۔ ان میں سے اہم ترین نتیجہ یہ تھا کہ ایک ایک صحابہ کی قدر و منزلت کو آشکار کرنے کے ذریعہ بلند ترین قدر و منزلت رکھنے والے صحابی کی معروف ترین شخصیت اور حیثیت کو دبانے اور کم کرنے میں مدد کر رہے تھے۔ (۸۳) یہ کہ جو معاویہ نے کہا: ابوتراب کی کسی بھی فضیلت کو جو کسی مسلمان نے نقل کی ہو اسے ہرگز نہ چھوڑنا مگر یہ کہ اس کے خلاف صحابہ کی شان میں حدیث میرے پاس لاو۔

درحقیقت اس کا مقصد حضرت علی کی حیثیت اور شخصیت کو کم کرنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے صراحةً کہا: اس بات کو میں دوست رکھتا ہوں اور وہ میری آنکھوں کو روشن کرتا ہے جو ابوتراب اور ان کے چاہنے والوں (شیعوں) اور ان کی دلیلوں کو بہتر طور پر باطل کرتا ہے۔ البتہ ان دلیلوں کے تحت جن کا ہم بعد میں تذکرہ کریں گے کہ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا۔

بہر حال نتیجہ یہ ہوا کہ دوسروں کی سطح بھی اوپر آگئی اس حد تک کہ بسا اوقات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کی سطح کے نزدیک قرار پائی اور صدر اول کی تاریخ ایک شان اور قدر منزلت اور تقدس کی حامل ہو گئی اور اس کی قدر و منزلت خود اسلام کے ہم پلہ ہو گئی اور اس طرح اسلام کی ہمزاد ہو گئی کہ بغیر اس کی طرف توجہ دیئے اسلام کا سمجھنا ممکن نہ تھا۔

### دین فہمی میں بدلاو

اس طرح سے دین نہیں میں سیاسی رقبہ تین ایک بہت بڑی تبدیلی کا سرچشمہ بن گئیں۔ یعنی صدر اسلام کی روشنی میں دین کا سمجھنا، یعنی خلافائے راشدین، صحابہ اور تابعین خصوصاً خلافائے راشدین اور صحابہ کے دور میں دین کا سمجھنا۔ اگرچہ دوسرے بہت سے اسباب اور عوامل بھی مؤثر تھے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں سے اہم ترین اور مؤثر ترین اسباب علی ابن ابی طالب کی شخصیت کو داغدار کرنے کے لئے معاویہ کے اقدامات تھے۔ حضرت علی کی مذمت میں اس کی جعلیات اور مکن گڑھت روایات باقی نہ رہ پائیں اور نہ ہی باقی رہ سکتی تھیں

اگرچہ حضرت پروہ جھوٹی تھمیں بالکل بے اثر بھی نہیں تھیں۔ خاص طور پر ابتدائی صدیوں میں، (لیکن اس کی جعلیات اور من گڑھت فضیلیتیں) دوسروں کو امام کے برابر کرنے کے لئے باقی رہ گئیں اور موردا عتقاد اور اتفاق قرار پائے گئے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے قبل بھی اشارہ کیا کہ شیعہ اور اہل سنت کے درمیان دین اسلام کو سمجھنے میں یہ ایک بنیادی فرق تھا اور واقعاً ایسا ہی ہے۔ اہل سنت نے شیعوں کے بالکل بر عکس معاویہ کے اقدامات کو چاہے جان بوجھ کریا انجانے میں صحیح سمجھ بیٹھے اور آخر کار اُسے قبول کر لیا۔ لہذا اسلام کو صدر اسلام کی تاریخ کی عینک سے دیکھنے لگے اور شیعہ صدر اسلام کی تاریخ کو اسلامی اصول و معیار پر پر کھتے ہیں۔ (۸۵)

اگرچہ بعد میں تجزیہ و تحقیق اور تاریخی تنقید کے ترقی پر پہونچنے کی وجہ سے جس کا زیادہ تر حصہ معزز لہ کے اقدامات کا مرہون منت تھا صدر اسلام کی غیر متنازعہ ہیئت ایک طرح سے ٹوٹ گئی، لیکن یہ امر وقتی اور جلدی ہی گذر جانے والا تھا اور اس میں دوام و بقا نہیں تھی۔ اس کی چند وجوہات ہیں سب سے اہم یہ ہے کہ انہوں نے ایسے زمانہ میں میدان میں قدم رکھا تھا کہ عام لوگوں کے دین و عقائد و افکار مستلزم ہو چکے تھے۔ وہ ایسے عقاید کی اصلاح کرنا چاہتے تھے جو لوگوں کی رگ و پپے میں سراہیت کر چکے تھے اور ان کی شخصیت نے بھی اسی بنیاد پر قوام حاصل کیا تھا اور ان کا ناکام ہونا بھی ایک فطری امر تھا۔ اور احتمال قوی کی بنا پر جس زمانے میں وہ میدان میں آئے تھے اگر اس زمانہ سے پہلے وہ میدان میں آگئے ہوتے تو وہ زیادہ کامیاب ہوتے۔ (۸۶)

جیسا کہ ہم نے کہا کہ اہل سنت کے دینی عقائد کا مرکزی نقطہ، اس زمانہ اور اس کے بعد کے زمانے میں بھی صدر اول کے تقدس کی فکر حاکم تھی۔ (۸۷) اگر ان کی اس فکر کا شیرازہ بکھر جاتا تو ان کا اعتقادی ڈھانچہ درہم ہو جاتا، اس بن پر نہ تو معتزلہ اور نہ ہی کوئی دوسرا گروہ اس سے مقابلہ کے لئے نہیں اٹھ سکتا تھا۔ بات یہ نہیں تھی کہ کوئی نظر صحیح ہے اور کوئی غلط ہے؟ عام لوگوں اور بعض فقہاء اور محدثین کا قابل اعتناؤ گروہ جو عوامی ذہنیت کے حامل تھے، اس طرح سے صورت اختیار کر لی تھی جو ایسے زاویہ نگاہ کی محتاج تھی اور اس کے علاوہ نہ صرف یہ کہ ان کا ایمان خطرہ میں تھا بلکہ داخلی اعتبار سے ان کی شخصیت بھی درہم ہو جاتی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے مقابلہ میں دوسرے عقائد نہیں تھے تاکہ اس فکر کا قائم مقام ہو جائے۔ معتزلہ کے نظریات کے قبول کرنے کے معنی تھے کہ اہل سنت کے اعتقادات کی عمارت بالکل سے مسما رہو جائے اور معتزلہ بھی اس قدر مورد وثوق اور اعتماد نہ تھے اور نہ ہی ان کے بیانات اس قدر صریح قبل فہم تھے کہ وہ لوگ اس کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لیں۔ خاص طور پر یہ کہ معتزلہ کا کوئی ثابت اور مدون مکتب فکر بھی نہیں تھا اور ان میں ہر ایک آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نظریات کے حامل تھے۔ (۸۸)

اور آخر کا ایک دوسری اہم بات کا بھی اضافہ کرنا چاہئے اور وہ یہ ہے کہ ہر مومن اور صاحب عقیدہ انسان، چاہے مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو عقیدہ کی رو سے وہ اپنے عقائد کی طرف دفاعی میلان رکھتا ہے۔ یہ اس کی دین داری کا لازمہ اور اس کا نتیجہ ہے۔ وہ دین کو قبول کیا اور اس کی تمام مشکلات اور رکاوٹوں کو حل کیا ہے تاکہ آخرت کی کامیابی کو حاصل کر لے۔

درحقیقت نجات اور فلاح ہی مطلوب ہے اور چونکہ ایسا ہے الہدا وہ ایمان و عقل کے انتخاب میں، ایمان کو اختیار کرے گا۔ پھر بھی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ دونوں باہم ایک دوسرے کے مقابل ہیں یا ایک دوسرے کے مقابل ہیں ہیں، یہاں پر مسئلہ ایک مومن انسان کے ذہن کی خصوصیات کو کشف کرنا، اس کی افکار، اس کی کیفیت اور اس کے موقف کو معلوم کرنا ہے۔ وہ ان دونوں عقیدوں کے انتخاب کے وقت ایک کو مختلف اسباب کے تحت شرعی میزان کے مطابق جانتا ہے اور دوسرے کو عقل کے معیار کے مطابق جانتا ہے۔ آخر کار وہ پہلے والے کا انتخاب کر لیتا ہے۔ ایسے موارد اور موقع پر کبھی بھی احتیاط شرعی، عقلی غور و خوض کے مقابل مغلوب نہیں ہوگی۔ (۸۹)

معزز لہ بالکل انھیں مشکلات سے رو برو تھے (اور یہ وہ مشکل ہے جس سے آج بھی بہت سے اصلاح طلب لوگ رو برو ہیں اور اس کا اہم ترین سبب دینی اصلاح طلب تحریکوں کی ترقی کے لئے اس کی حفاظت کا رجحان اور اس کی لگاؤ ہے) اگرچہ عقلی اور منطقی طور پر ان کے عقائد ان کے مخالفین پر برتری رکھتے تھے اور ظاہری اور شرعی اصولوں اور موازنین سے ان کے نظریات، بہت مطابقت رکھتے تھے، لیکن ان سے بدگمانی، ان کے بعض لوگوں کی بے پرواٹی اور لا ابालی پن کی بنا پر وجود میں آئی تھی، جو چیزوں پر اُنے زمانہ سے چلی آرہی میراث اور ان کے نظریات کے خلاف تھیں اور جن چیزوں کو عوام الناس نے ان لوگوں سے لیا تھا جن کو وہ لوگ اپنا سلف صالح سمجھتے تھے آخر کار ان کو ان کے مدار اور گردش سے باہر نکال کر ان کے مخالفین کو قوت بخشنی۔ یہاں پر مناسب یہ ہے کہ ان کے کچھ نظریات جو صحابہ کے بارے میں

ہیں ابن ابی الحدید کی زبانی نقل کریں:

معزز لہ لوگ صحابہ کرام اور تابعین کو دوسرے تمام لوگوں کی طرح دیکھتے تھے۔ وہ لوگ جو کبھی خطا کرتے اور کبھی صراط مستقیم پر چلتے اور ایسے اعمال میں لگ گئے کہ ان میں سے کچھ قابل تعریف اور کچھ قابل مذمت قرار پاتے ہیں۔ وہ لوگ اس طرح موقف اختیار کرنے سے یکسر خوف ناک نہیں تھے۔ لیکن دوسرے لوگ (مخالفین) ایسے نہیں تھے اس لئے کہ انہوں نے صحابہ اور تابعین میں سے بزرگوں کو ایسی شخصیت دے دی تھی کہ ان پر تنقید کرنا ممکن تھا۔

معزز لہ کہتے تھے: ہم دیکھتے ہیں کہ بعض صحابہ آپس میں ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں اور ہیں تک کہ بعض صحابہ بعض دوسرے صحابہ پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اگر صحابہ کی منزلت ایسی ہوتی کہ ان پر تنقید کرنا اور لعنت بھیجننا صحیح نہ تھا تو اس کا لازمہ یہ تھا کہ ان کے رفتار و کردار سے معلوم ہو جاتا کہ وہ ایک دوسرے کو ہمارے زمانہ کے لوگوں سے اچھا سمجھتے تھے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں طلحہ وزیر و عاششہ اور ان کا اتباع کرنے والوں نے علی کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا یہاں تک کہ ان سے مقابلہ کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے معاویہ و عمر و ابن عاصی بھی حضرت علی سے جنگ اور مقابلہ کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمر نے ابو ہریرہ کی نقل کی ہوئی روایت پر طعنہ دیا اور خالد بن ولید کو برا بھلا کہا اور اس کو فاسق گردانا، عمر و ابن عاصی اور معاویہ پر بیت المال میں خیانت اور چوری کا الزام لگایا۔ قاعدتاً صحابہ میں سے بہت کم ایسے لوگ تھے جو ان کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہ گئے ہوں اس طرح کے بہت سے نمونوں کو دریافت کیا جا سکتا ہے۔

اسی طرح تابعین بھی صحابہ ہی کی طرح ایک دوسرے سے آپس میں مخالف رو یہ اختیار کئے ہوئے تھے اور وہ اپنے مخالفین کے مقابلہ میں اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ لیکن بعد میں عوام الناس نے ان کو ایک بلند مقام و منزلت پر لا کر کھڑا کر دیا۔ کہ ہم سے لوگ کرتے ان میں سے اچھے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں۔ صحابہ لوگ بھی عوام الناس کی طرح ہیں ان میں کے خطا کار لائق نہ ملت ہیں اور اچھے لوگ قابل تعریف ہیں دوسروں کے مقابلہ میں ان کی برتری اور ان کا امتیاز صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و (درکرنے) دیکھنے کی بنا پر ہے نہ یہ کہ کسی اور چیز کی بنا پر، یہاں تک کہ شاید ان لوگوں کے گناہ دوسروں کے گناہوں سے زیادہ سنگین ہوں کیونکہ انہوں نے دین کے مجرمات اور سچی نشانیوں کو نزد یک سے دیکھا ہے، لہذا ہمارے گناہ ان کے گناہ کے مقابلہ میں زیادہ ہلکے ہیں اس لئے کہ ہم ان کے مقابلہ میں زیادہ معذور ہیں۔ (۹۰)

احمد امین مذکورہ بالا مطلب کے نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں معتزلہ صحابہ اور تابعین کی رفتار و گفتار پر پوری آزادی کے ساتھ تقيید کرتے تھے اور ان میں پائے جانے والے باہمی تضاد کو بھی آشکار کرتے تھے یہاں تک کہ شیخین کو بھی اپنی تقيید کا نشانہ بنانے سے نہیں چوکے اور اس وقت ابو بکر و عمر پر جوانہوں نے تقيید میں کی ہیں ان کے چند نہموں کو بیان کیا ہے۔ (۹۱)

صحابہ اور تابعین کے متعلق ان کا ایسے نظریہ کا انتخاب غالباً بلکہ بطور کامل اعقلی رجحانات کا نتیجہ ہے وہ کسی بھی بات کو بغیر دلیل کے قبول کرنے پر تیار نہیں تھے یا کسی اصل اور قاعدہ کو عقل پر مقدم کریں۔ ٹھیک یہی سبب تھا کہ انکے اور انکے مخالفین کے بارے میں اس طرح کہتے

تھے: اشعری نزد (ایک قسم کا کھیل) ہے اور معززی شطرنج چونکہ نزد کا کھیلنے والا قضا و قدر پر بھروسہ کرتا ہے اور شطرنج کا کھیلنے والا اپنی ذاتی کوشش اور فکر پر اعتماد کرتا ہے۔ (۹۲)

## دوسرے تنقید کرنے والے

معتز لہ کے علاوہ دوسرے لوگ بھی جو فکری آزادی کی طرف مائل تھے انہوں نے صدر اسلام اور صحابہ و تابعین کے زمانہ کو تنقیدی زاویہ سے دیکھا ہے۔ ان (تنقید کرنے والے لوگوں) میں سے ایک ابن خلدون ہیں۔ وہ جب علم فقہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اس طرح کہتے ہیں: اس سے قطع نظر صحابہ اہل نظر اور اہل فتویٰ نہیں تھے اور ان تمام لوگوں کے لئے دینی فرائض کا جاننا ممکن بھی نہیں تھا۔ بلکہ یہ امر صرف حافظان قرآن اور ان لوگوں سے مختص تھا جو لوگ ناسخ و منسوخ اور محکم و متشابہ اور قرآن کی دوسری ہدایات سے واقف تھے۔ چاہے انہوں نے یہ معلومات برآ راست خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ سے حاصل کی ہوں اور یا پھر ایسے بزرگوں سے حاصل کی ہوں جنہوں نے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ سے ان کی تعلیمات کو سناتھا، اور اسی سبب ایسے لوگوں کو قرآن کا کہا جاتا تھا۔ یعنی وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے تھے۔ کیونکہ یہ امر اس زمانہ میں ان کی نظر میں حیرت انگیز سمجھا جاتا تھا۔ صدر اسلام کی یہی ہو گئے۔ کیونکہ یہ امر اس زمانہ میں ان کی نظر میں حیرت انگیز سمجھا جاتا تھا۔ صدر اسلام کی یہی صورت حال تھی پس کچھ دنوں بعد اسلامی شہروں میں وسعت پیدا ہو گئی اور عروج اور ترقی حاصل کر لیا اور جہالت نے قرآن اور کتاب کے باਬار دھرانے کے نتیجہ میں عربوں سے اپنا بوریا

بسترالپیٹ لیا اور خود ان عربوں میں اجتہاد اور استنباط کی قوت پیدا ہو گئی اور فقہ منزل کمال پر پہنچ گئی اور یہی عرب صاحبان علوم و فنون کے زمرے میں شمار ہونے لگے۔ اور اس وقت حافظان قرآن کے نام میں تبدیلی ہوئی اور ان کو قاری کی جگہ فقیہ یا عالم کے نام سے پکارا جانے لگا... (۹۳)

ابن حزم بھی اسی گروہ کی ایک فرد ہیں۔ البتہ انہوں نے ایک دوسرا جگہ سے محترم اور ابن خلدون سے ملتا جلتا موقف اختیار کر لیا۔ وہ مکتب ظاہری کے علماء اور فقہاء میں سے ایک ہیں جو کہ شرع اور شریعت کے مصادر اور آخذ کو نصوص قرآن و سنت اور اجماع میں منحصر جانتے تھے اور قیاس کو قابل قبول نہیں جانتے تھے وہ صحابہ کے قول و فعل کے قطعی طور پر صحیح ہونے کے نظریہ کو جس پر اہل سنت کا اتفاق ہے قابل قبول نہیں جانتے ہیں اسی بنا پر ایسے نقطہ نظر کے حامل ہو گئے ہیں۔

محمد ابو زہرا اس سلسلہ میں کہتا ہے: ابن حزم کا عقیدہ یہ تھا کہ چاہے صحابہ ہوں یا غیر صحابہ، زندہ ہوں یا مردہ، کسی کی بھی تقليید جائز نہیں ہے اور وہ اس بات کے معتقد تھے کہ قول صحابی کو جب تک اس کی نسبت پیغمبر کی طرف معلوم نہ ہوا خذ کرنا ایسی تقليید ہے جو دین خدا میں جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس (حکم خدا) کو صرف کتاب و سنت اور ایسے اجماع سے لینا چاہئے جو ان دونوں کی حکایت کرتا ہو یا کسی ایسی دلیل سے جوان تینوں سے مشتق ہو۔ لہذا صرف صحابی کے قول پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور اس کے ذریعہ دلیل قائم نہیں کی جا سکتی، اس لئے کہ وہ بھی ایک عام انسان کی طرح ہے۔ اسی نظریہ کی طرح شافعی کا بھی قول نقل کیا گیا ہے۔ وہ اس

بارے میں کہا کرتے تھے: میں اس شخص کے قول کو کیسے اختیار کروں کہ اگر میں اس کا ہم عصر ہوتا تو اس کے خلاف دلیلیں قائم کرتا۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ شافعی اقوال صحابہ کو اگر وہ لوگ سب کے سب کسی مسئلہ پر متعدد ہوتے تھے اختیار کرتے تھے اور اگر کسی مسئلہ پر ان میں اختلاف ہو تا تھا تو ان اقوال میں سے کسی ایک کے قول کو اختیار کر لیتے تھے... بلاشبہ فقط صحابی کا قول ہونا اتباع کے واسطے کافی نہیں ہے، اس لئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے سامنے کسی کے قول کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جس طرح کہ مالک ابن انس نے کہا: ہر انسان کی کچھ باتیں قبول کر لی جاتی ہیں اور بعض رد کر دی جاتی ہیں مگر اس روضہ کے صاحب (یعنی اس کتاب کے مؤلف) کے اقوال بالعموم اور بلا استثناء قبول کئے جاتے ہیں۔ (۹۴)

## فکری اور اعتقادی ستائیں

لیکن حاضر اہمیت مسئلہ فقط بھی نہیں تھا کہ اسلام کو تنہا صدر اسلام کی تاریخ کی روشنی میں دیکھ کر اس کی صحیح پہچان کی جائے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل بات یہ تھی کہ خود یہ زمانہ اپنے اندر بہت سے تناقضات کو سموئے ہوئے تھا۔ یہ زمانہ باہمی رقبت، کشمکش اور اختلافات سے بھرا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس زمانہ کے بزرگ لوگ ایک دوسرے کے خلاف صفت آرائتھے اور ایک دوسرے کے خون سے ہاتھ کو رنگیں کر رہے تھے۔ اگر یہ زمانہ بہترین اور مقدس ترین زمانہ تھا اور بجز حقیقی اسلام کے تحقق کے اور کچھ نہ تھا اور اس زمانہ کے مسلمان بہترین اور شریف ترین مسلمان تھے تو یہ کس طرح ممکن تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف صفت آرا ہو کر

تلوار کھینچ لیں؟ آپس میں دو حق کس طرح ٹکرائے سکتے ہیں؟ ایسے مسائل کا اہل سنت کے کلامی و فقہی و نیزدینی ثقافت کی تشکیل میں بہت زیادہ ہاتھ رہا ہے، اس اصل کو قبول کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اسلام کی تفہیم و تفسیر صدر اول کی تاریخ کے ماوراء ہو۔ (۹۵)

اس مشکل کو حل کرنے کے واسطے مجبور ہوئے کہ وہ مختلف راستوں کو اختیار کریں۔ وہ اس بات پر مجبور ہوئے کہ کہیں دونوں برحق ہیں، اختلافات اور نزاع کے باوجود دونوں نے اپنے اپنے فریضہ اور اجتہاد کے مطابق عمل کیا ہے لہذا وہ لوگ ماجور اور بہشتی ہیں۔ البتہ ممکن ہے انسان ایک، دو یا چند موقع پر اس فرضیہ کے تحت اس کو مان لیا ویریہ کہے کہ مصدق میں اشتباہ اور غلطی پیش آگئی ہے۔ لیکن موضوع بحث یہ ہے کہ صدر اسلام کی تاریخ ایسے حادث، واقعات اور ایسے برتابہ سے بھری پڑی ہے اور ایک اعتبار سے رقبتوں اور ٹکراؤ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ بھی ان لوگوں کے درمیان جن کے بارے میں مصدق میں شک و شہمہ پیدا ہونا ممکن نہیں ہے اور یہ ایک ایسی مشکل ہے کہ نہ فقط اہل سنت کی اس زمانہ کی تاریخ کو وجود میں آنے میں زیادہ موثر ہوئی ہے، (یعنی ان پر یہ تاریخ زیادہ اثر انداز ہوئی ہے) بلکہ وہ تمام چیزیں جو کسی طرح اسلام سے متعلق ہیں، وہ اس سے سخت متأثر ہوئی ہیں۔ (۹۶)

اس زاویہ نظر سے اس زمانے کی تاریخ اور اس کی پیروی میں تمام تاریخ اسلام نہ بالکل سیاہ اور تاریک ہے اور نہ ہی بالکل بے داغ (سفید) بلکہ ملی جلی (خاکستری) ہے۔ گویا حق و باطل کی شاخت کا کوئی مشخص ضابطہ اور معیار نہیں پایا جاتا ہے۔ یا تمام کے تمام مطلق حق ہیں اور یا نسبی اعتبار سے کم و پیش حقانیت کے حامل اور حق و باطل کے درمیان غوطہ زن ہیں آپس

میں بغیر کسی طرح کی ترجیح رکھتے ہوئے۔ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل بات یہ ہے کہ افراد کے درمیان امتیاز دینے کی ہر طرح کی کوشش اور ان کے اعمال و رفتار اور واقعات و حوادث کے بارے میں بھی یک سرتقید منوع قرار پا گئی۔ بنابر اس پر تھی کہ سبھی لوگ اچھے ہیں اور ان میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ صرف ان کے اجتہاد کی وجہ سے ہے نہ کہ ایمان تمام ذاتی خصوصیات اور صفات بجان کے ایمان کی وجہ سے ان میں پیدا ہوئی ہیں اور چونکہ ایسا ہے تو ہم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم ان کے اعمال کے بارے میں تحقیق کر کے چوں چراکرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوں اور ان کے اعمال کو ان کی حقانیت کی پرکھ کا معیار قرار دیں۔ اس طرح سے ذہنیت اور فکری اور نفسانی اعتبار سے متنازع مسائل کے سمجھنے کے بارے میں ان لوگوں کے حق و باطل ہونے کے اعتبار سے چھان بین کرنے کے حالات ختم ہو گئے۔ سیاسی مباحث کے فقہی اور کلامی معیار اور ان کی بنیاد کو، چاہے وہ امامت اور خلافت کے بارے میں ہو اور چاہے (دوسرا دینی مسائل) سیاسی مسائل کے بارے میں ہو، بہت ہی شدت سے منتشر کر دیا۔ (۹۷)

اہل سنت کا فقہی اور کلامی ڈھانچہ اور اس کے اتباع میں ان کی دینی اور نفسیاتی بناؤٹ اس فکر پر بھروسہ کئے ہوئے ہے کہ دو مسلمانوں کے درمیان رقبابت میں ایک مطلق حق اور دوسرے کو باطل محض، قرآنیں دیا جاسکتا اور یہ پہلے درجہ میں اس دور کو جو آشفۃ اور پرکشکش رہا ہے اور اس کے افراد اور شخصیتوں کو مقدس مان لینے کی وجہ سے منتشر ہے۔ یہ نفسیاتی ڈھانچے فی الحال اہل سنت کے لئے مشکلات پیدا کر رہا ہے، یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ ایک نئی اور ایسی

مشکل ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے اس لئے کہ گذشتہ دور میں یا اصولی طور پر ایسی مشکل سے روبرو نہیں ہوئے تھے یا کم از کم یہ مشکل آج کل کی طرح شدید اور سخت پریشان کرنے تھی۔ دور حاضر کی زندگی، نیا معاشرہ اور نئی تاریخ نے ایسی سخت اور شدید مشکل کھڑی کر دی ہے۔ (۹۸)

زمانہ ماضی میں جوانوں کی انقلابی ضروریات کی فی الفور جواب دہی ضروری، بلکہ اتنی زیادہ سخت اور قطعی اور سنجیدہ نہیں تھی۔ یا بالکل سے اس طرح کی ضرورت ہی نہیں تھی، یا اگر موجود بھی تھی تو آج کل کی طرح مختلف گوشوں میں پھیلی اور قدرت کی حامل نہیں تھی۔ آج یہ ضرورت پوری تیسری دنیا اور اسلامی ممالک میں موجود ہے اور اسلام اس سے بے احتنا بھی نہیں رہ سکتا۔ خصوصاً یہ کہ عمومی طور پر مسلمان جوان لوگ کم سے کم ان آخری ایک دو دہائیوں میں اس بات کے جواب کو اسلام سے چاہتے ہیں۔ وہ اپنی نئی ضرورتوں کے اسلامی جواب کی تلاش میں ہیں۔ چونکہ پہلے تو وہ اس جواب کو اپنی ضرورت کے ساتھ بہت ہی ہماهنگ اور مناسب پاتے ہیں اور دوسرا دینی ضرورت جوان کو ہر غیر اسلامی چیز سے روک دیتا ہے۔

آج کے وہ سنی جوان جوان انقلاب سے لگاؤ اور مسلحانہ رجحان رکھتے ہیں دوسروں سے زیادہ اس مشکل سے جو جھر رہے ہیں۔ وہ اپنی معاشرتی اور ثقافتی اور سیاسی سرنوشت کے اعتبار سے ایک عظیم تبدیلی (انقلاب) کے خواہاں ہیں۔ ان کے ایسے ارمان اور دبی تمدنائیں ان کو انقلابی اقدامات کے لئے آگے بڑھاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ عین اسی عالم میں ایک اسلامی راہ حل کی تلاش میں ہیں۔ ایک ایسا راہ حل جو اسلامی بھی ہو اور انقلابی بھی۔ بہت بڑی مشکل

اس سوال کے جواب کا حاصل کرنا ہے، اس لئے کہ اس سوال کا جواب حاصل نہیں ہوگا مگر یہ کہ کلی طور پر فقہی، کلامی دینی اور تاریخی فہم میں بنیادی طور سے تجدیدنظر کی جائے اور عام لوگ کے نفسیات کی شناخت اس عظیم تحول اور انقلاب کے ساتھ ہماهنگ ہو کر پورے طور پر بدل جائیں۔ (۹۹)

قطعی طور پر یہی سبب ہے کہ بہت سے اسلامی دانشوروں، انقلابی سنی لوگوں نے، اپنے ضروری اور سخت ضرورتوں کا جواب پانے کے لئے اپنی تاریخی افکار میں ایک قسم کی تجدیدنظر کی ہے۔ یہ اس کے سبب تھا کہ انہوں نے اپنی تجزیہ و تحلیل اور ارزیابی کے واسطے بہت صریح و قاطع اور کشادہ راہ پالی ہے کہ باطل کو باطل دیکھیں اگرچہ باطل نے اسلام کی نقاب اپنے چہرہ پر ڈال رکھی ہو، حق کو حق کہنا چاہئے اگرچہ دوسرے لوگوں یا تاریخ نے اس کے ظاہری چہرہ کو مشتبہ کر دیا ہو بغیر کسی خوف و ہراس کے باطل سے ڈٹ کر مقابلہ کر دیں اور حق کی مدد کے لئے ہمہ تن اٹھ کھڑے ہوں۔ اس قاعدہ اور ضابطہ کی قبولیت کہ اسلام کی نقاب صریح فیصلہ اور پختہ قصیم کے لئے مانع ہو یہ ہر اس اقدام کے غلط ہونے کے مساوی ہے جو کسی ایسے حاکم کے خلاف اٹھ کھڑا ہو جو ظواہر اسلام سے تمسک کر کے ہر طرح کے جرم و جنایت اور خیانت کو انجام دینے میں کامیاب ہو جائے۔ تاکہ یہ اصل جو صدر اول کی تاریخ کو غیر قابل تقدیم ہونے اور قانونی (شرعی) ماننے کا نتیجہ ہے، یہ ممارنہ ہو جائے جب تک یہ مسلم قضیہ ختم نہ ہوگا (یعنی صدر اول کی تاریخ پر نقد و تبصرہ غیر قانونی اور غیر شرعی جانا جاتا رہے گا) یہ مشکل ویسے ہی استوار و برقرار رہے گی، یہ تھیک اسی سبب کی بنا پر ہے کہ اہل سنت کی فقہی و کلامی کتابوں کے

مختلف موضوعات جیسے: بیعت، اجماع، اجتہاد، تخطیر و تصویب، اجماع حل و عقد، مقام خلافت اور خلفا کی حیثیت منزلت، اولی الامر اور اس کی اطاعت کا ضروری ہونا اور ایسے ہی دوسرے موضوعات کی اس طرح سے دوسرے مختلف انداز میں تعریف اور اس کی چوحدی بیان کی ہے۔ (۱۰۰)

وہ انقلابی اور مفلکرین لوگ جنہوں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ اس اصل کو محفوظ رکھتے ہوئے مقابلہ کے لائچے کی تدوین کریں ان لوگوں کو عملی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ اپنی ذاتی فدایکاری، استقامت اور اپنے ایمان پر تکمیل کرتے ہوئے جو ان کے نظریاتی اعتقادات میں کمزوری اور کمی واقع ہوئی ہے اس کی بھرپائی کریں۔ اور کم از کم یہ ہمارے زمانہ میں میسر نہیں ہے۔ اگر معاشرتی اور سیاسی مقاصد تک پہنچنے کے لئے انقلابی لوگوں کے لئے ضروری شرط ان کی پائے مردی اور استقامت پر موقوف ہے، بیشک اعتقادی نظریہ اور اس کی حساسیت کے لئے یہ شرط کافی ہے جو اس کے مقاصد اور اس زمانہ کی روح سے سازگار ہو یعنی اس عالم میں کہ قدرت میں استمرار و بقا، پائے مردی و استقامت اور اس کی جواب دہی پر قادر ہو۔ (۱۰۱)

البتہ وہ مسئلہ جس کے متعلق اوپر اشارہ کیا گیا ہے صرف اسی میں محدود نہیں ہوگا۔ صدر اسلام کے حوادث پر نقد و تبصرہ کو غیر قابل قبول ہونے کو قانونی حیثیت دینا فکری، علمی اور دینی اعتبار سے مطلوب اور ضروری تبدیلی لانے سے مانع ہے کہ دور حاضر میں مسلمان لوگ جس کے نیاز مند ہیں۔ فقط اس ضرورت کا ایک حصہ انقلابی پہلو اور مبارزہ جوئی کا پہلو ہے جیسا کہ ہم

نے بیان کیا حتیٰ اس ضرورت کا جواب دینے اور اس کو صحیح راستہ پر لگانے کے لئے ان کے عقائد میں بھی تبدیلی پیدا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ جن مختلف موضوعات کی تنقید انہوں نے اپنے پڑتاں ہوئی چاہئے انھیں میں سے دین اور اس کی تاریخ بھی ہے جو اس جدید زمانہ کی اہم ترین ضروریات میں سے ہے، اس کے بارے میں کوئی مناسب را حل نکالنا چاہئے۔ عصر نو کی تنقیدوں کے مقابل میں لوگوں کے ایمان کا کچھ خاص یقینیات کی بنیاد پر اصرار نہیں کیا جا سکتا جونہ تو دین کے بنیادی اصول میں سے ہیں بلکہ زمانہ کے ایک خاص حصہ کے مسلمانوں کے اجماع کا نتیجہ ہے اس کا دفاع کیا جائے۔

ہر دین میں کچھ ایسے مقدسات اور یقینیات پائے جاتے ہیں جو قابل تنقید و تبصرہ بھی نہیں ہیں اور ان میں کوئی اندریشہ اور خدشہ بھی نہیں ہے۔ یہ دین کی حقیقت کی طرف پلٹتی ہے اور زمانہ کے تحولات اور تبدیلیوں کو اس میں بالکل دخالت نہیں رہا اور نہیں ہے۔ لیکن یہ مسئلہ عقیدہ کے اس جز سے متعلق ہے جس کی بنیادا صل دین میں نہیں ہے بلکہ مومنین کے اجماع میں پائی جاتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے اور اس سے علمی اور تاریخی تنقیدوں اور تبصرہوں کا ہمیشہ کے لئے دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ کسی چیز کے بارے میں اس تنقیدی رجحان کے مقابلہ میں اٹھ کھڑے ہونا دین سے فرار یاد دین کے پاسداروں پر ہی معصیت اور اعتقادی ہرج و مرنج کے علاوہ کچھ اور عاید ہونے والا نہیں ہے (۱۰۲)

اس سے قطع نظر چونکہ دین کی اصل اس پر تھی کہ اس مدت میں جو بھی اتفاقات پیش آئے ہیں وہ حقیقی اسلام کے وجود میں آنے کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا۔ لہذا مجبوراً ہر اس میدان جس میں

اسلام کے مصادیق اور نظریات کو معلوم کرنا جس کے اس زمانہ میں کوئی نمونہ پایا جاتا ہواں کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس زمانہ میں کبھی ایک ہی مسئلہ کے مختلف جواب دیئے گئے ہیں بغیر اس کے حالات میں کوئی تبدیلی آئی ہو۔ اب ایسی صورت میں کون سے جواب کو اختیار کیا جائے؟

مثلاً انتخاب خلیفہ کی کیفیت کے باب میں مختلف نمونے موجود تھے۔ ابو بکر نے عمر کو وصیت کی لیکن عمر نے چھ آدمیوں کو وصیت کی اور انتخاب خلیفہ کی کیفیت کی تعین کیفیت کو ان لوگوں میں سے ہی معین کر دیا۔ اس کے باوجود کہ شروع میں خود ابو بکر کی خلافت کو چند لوگوں نے جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا تھا ان کے ذریعہ اس کی بیعت منعقد ہو گئی۔ یہ نمونہ اس کے علاوہ دوسرے بہت سے نمونے، خصوصاً فقہی اور کلامی مسائل میں کہ کبھی ایک ہی مسئلہ کے بارے میں مختلف جوابات اور کبھی ایک دوسرے کے مقابلہ جواب دیئے گئے تھے، بعد میں اہل سنت کے متکلمین و فقہاء کو صحیح معیار کو معین کرنے کے لئے متعدد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جو تمام کے تمام صدر اسلام کی تاریخ کو قانونی حیثیت دینے کی بنا پر تھا۔ (۱۰۳)

## دوسری فصل کے حوالے

(۱) واقعیت اور حقیقت یہ ہے کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات گرامی خاص طور سے قریش (عرب کا مشہور و معروف خاندان) کے نزدیک بہت زیادہ محترم و مقدس نہ تھی آپ کے ساتھ جوان کا برتاو اور رویہ تھا اس کے مجموعہ سے یہ بات حاصل ہوتی ہے، حتیٰ وہ لوگ عام مسلمانوں کے برابر بھی پیغمبر اکرم کی بہ نسبت عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی شان و منزلت کو تصور سے بھی کم جانتے تھے جس پر اس زمانہ کے تمام مسلمانوں کا اتفاق تھا۔ مندرجہ ذیل داستان اس کا بہترین نمونہ ہے۔

عبداللہ بن عمر کہتے ہیں: جو کچھ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ سے سنتا تھا اس کو لکھ لیا کرتا تھا تاکہ اس کے ذریعہ میں اسے محفوظ کرلوں، خاندان قریش نے مجھے اس چیز سے روکا اور کہا: ہر وہ چیز جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے سنتے ہوا سے کیوں لکھتے ہو؟ حالانکہ وہ ایک ایسا انسان ہے جو کبھی غصہ میں آ کر اور کبھی رضا و رغبت کے ساتھ بات کرتا ہے۔ پھر میں نے اس کے بعد کچھ نہیں لکھا اور اس بات کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ حضرت نے انگلی سے اپنے دہن کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا: لکھو! خدا کی قسم جو کبھی چیز اس سے خارج ہوتی ہے وہ حق کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتی ہے۔ مسند احمد، ج ۳، ص ۱۶۲ دوسرا نمونہ وہی شخص ہے (ذوالخویصرہ) جس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ پر اعتراض کیا کہ عدالت کی رعایت کیوں نہیں کی۔ مل نخل، ج ۱، ص ۱۱۶ یہ دونوں نمونے اور دوسرے بہت سے

نمونے اس حقیقت کی حکایت کرتے ہیں۔ لیکن بعد میں مسلمانوں کے عقائد کی کیفیت، خاص طور پر خاندان قریش نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو اتنا بلند مرتبہ دے دیا کہ خود اس بات کی توقع رکھنے لگے یعنی کہنے لگ کر یہ لوگ صحابہ ہونے کے اعتبار سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے زیادہ نزدیک ہیں حق تو یہ تھا کہ ان کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی بہ نسبت بھی ایسا ہی عقیدہ رکھنا چاہئے۔ ان کے واسطے مسئلہ یہ ہیں تھا کہ عملی طور پر کون کون سے عقائد موجود تھے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ خود قریش نے بعد والے زمانوں میں مسلمانوں کی نظر میں بالاترین قدر و منزلت کو حاصل کر لیا۔ اس لئے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے زعم ناقص میں دوسرا لوگوں کی بہ نسبت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے بہت زیادہ نزدیک اور ان کے بہت ہی وفادار اصحاب میں سے تھے، اقتضاء الصراط المستقیم کے ص ۱۵۵-۱۵۶ اور اسی طرح کنز العمال، کی ج ۳، ص ۲۴-۲۶، پر بھی رجوع کریں۔

(۲) تقریباً تاریخ اسلام کی تمام کتابیں جوزمانہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے واقعات و حوادث کو شامل ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کی رحلت کے بعد کے واقعات، ابو بکر کے انتخاب کی کیفیت کی داستان اور وہ بحثیں جو اس کے ضمن میں آئی ہیں، کم و بیش بغیر کسی اختلاف اور فرق کے نقل کرتی ہیں اور یہ بات اس کی نشان دہی کرتی ہے کہ یہ داستان صحیح ہے نمونہ کے طور پر الامامة والسياسة کی ج ۱، ص ۲-۱۷، پر رجوع کریں۔

(۳) اسلام اس نئے معاشرہ کا باñی تھا جس کے دینی اور دنیاوی مقدسات ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ اس امر کو کہ یہ دین جاہلیت کی رسم و رواج اور اس کی میراث کی طرف توجہ

دیتے ہوئے کس طرح وجود میں آیا اور اس میں تبدیلی پیدا کر کے برقرار رہا احمد امین نے فخر الاسلام، کے ص ۹۶۔ ۹۷، میں اس کی بخوبی وضاحت کر دی ہے اور اسی طرح العقیدہ والشیریعتیۃ فی الاسلام، کے ص ۴۲۔ ۹، پر بھی رجوع کریں۔

### 510- PP.350, Shorter Encyclopaedia of Islam

(۴) الاسلام و اصول الحکم ص ۱۷۵۔ ۱۷۶، مزید وضاحت کے لئے آپ اسی کتاب کے ص ۱۷۱۔ ۱۸۲ پر رجوع کریں۔

(۵) چھوٹے سے ایک گروہ نے ابو بکر کی خلافت کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی وصیت کی او سے جانا ہے۔ حسن بصری، محب الدین الطبری اور اہل حدیث کی ایک جماعت اس گروہ سے متعلق ہیں۔ معالم الخلافۃ فی الافکر السیاسی الاسلامیہ ص ۱۳۳، ابن حزم ایک مفصل اور طاقت فرسا بحث کے ضمن میں اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ثابت کریں کہ ابو بکر کی خلافت حضرت کے واضح بیان کے سبب اور آپ سے منصوص تھی، الفصل ج ۴، ص ۱۰۷۔ اس نظریہ پر تقدیم و تبصرہ الاسلام و اصول الحکم کے ص ۱۷۲۔ ۱۷۳، پر موجود ہے اور اس پر اس سے بھی زیادہ علمی تقدیم اسلامیت کے ص ۸۴۔ ۸۵، پر رجوع کریں۔

اس مقام پر قابل توجہ یہ ہے کہ ابن جوزی جو غزنیاط کے آٹھویں صدی کے معروف علماء میں سے ہیں، ابو بکر اور عمر کی بھی خلافت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی وصیت کے قائل ہیں۔ اس کی کتاب القوانین الفقهیہ کے ص ۱۷، پر رجوع کریں۔

(۶) ابو بکر کے خلیفہ منتخب ہونے میں انصار کی مخالفت کے بارے میں الامامة والسياسة کے

ص ۵۔ ۱۰ اور اسی طرح ابو بکر اور عمر کی طرف سے انصار کو دیئے گئے جوابات کو ص ۶ اور ۷ رجوع کریں۔

(۷) ابو بکر کو خلیفہ کے امیدوار کے طور پر نام پیش کرتے وقت ابوسفیان نے اس طرح کہا: اے عبد مناف کے بیٹو! کیا تم اس بات پر راضی ہو جاؤ گے کہ قبیلہ بنی تمیم کا ایک شخص تم پر حکومت کرے؟ خدا کی قسم مدینہ کو گھوڑوں اور جنگجو افراد سے بھر دوں گا۔ مواقف کے ص ۴، ۱۰ رجوع کریں۔

(۸) بنی هاشم کی مخالفت کے بارے میں الاماۃ و السیاستہ کے ص ۴۔ ۱۰ اور اسی طرح ص ۱۳، ۱۶، پر بھی رجوع کریں۔

حضرت علیؑ کے اقوال جسے آپؑ نے بعد میں مقابلہ نہ کرنے کی علت اور سبب کے طور پر بیان کیا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آنحضرتؐ کے موافق بہت زیادہ اور ابو بکر کے مخالفین کی بھی تعداد بہت زیاد تھی۔ نمونہ کے طور پر آنحضرتؐ کے خطبہ کو الغارات کے ج، ص ۳۰ پر اور اسی طرح کشف الحجۃ میں سید ابن طاووسؑ نے ان کے کلام کو نقل کیا ہے اس کی طرف رجوع کریں۔

(۹) بہت سے لوگ جن پر مرتد ہونے کا الزام تھا اور اہل رده سے مشہور تھے حقیقت میں وہ لوگ مرتد نہیں تھے۔ وہ لوگ ابو بکر کے سیاسی مخالف اور حریف تھے نہ یہ کہ انہوں نے اسلام کا انکار کیا ہو۔ اس بارے میں خاص طور پر آپؑ رجوع کریں اللہ اسلام و اصول الحکم کے ص ۱۷۷۔ ۱۸۰ پر اور اسی طرح الحص و الاجتہاد کے ص ۱۳۶۔ ۱۵۰ پر رجوع کریں۔ فخر

الاسلام ص۔ ۸۱، پر رجوع کریں۔ جو لوگ تمام ارتاداد کے ملزموں کو مرتد واقعی جانتے ہیں ان کے نظریات اور تحلیل و تجزیہ کی کیفیت کو معلوم کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ لوگ ابو بکر کے سرخست مدافع ہیں، اس کے لئے رجوع کریں، البدعة: تحدیدہا و موقف الاسلام منہا ص ۳۲ اور ۳۳، مولف عزت علی عطیہ، اس داستان کے مصادر کو تفصیل سے نقل کرتے ہیں۔

(۱۰) نمونہ کے واسطے، ابو بکر کے منتخب ہونے کے مخالفین و موافقین کی دلیلیں کوala امامت و السیاست کے ص ۴-۶، پر ملاحظہ کریں۔

(۱۱) اس بات پر دلیلیں قائم کرنا کہ خلافت اور امامت کی اپنی ایک حیثیت ہے جو صرف علی ابن ابی طالب کے لئے زیب دے سکتی ہے، نہ فقط آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ، بلکہ بعد میں دوسرے ائمہ ہدای (ع) کے ذریعہ ایک دوسرے طریقہ سے بھی بیان کی گئی ہے۔ نمونہ کے واسطے امام حسن کا معاویہ کے نام خط کو نظریۃ الامامت عند الشیعۃ الامامیۃ کے ص ۳۱۸-۳۱۹ پر آپ رجوع کریں ان شرائط کے بارے میں جو امام کے اندر ہونے چاہئے، اس کے لئے شرح ثہجۃ البلاغۃ ابن ابی الحمید کی ج ۸، ص ۲۶۳ پر رجوع کریں۔

(۱۲) آنحضرت کے کامل بیان کوala امامت و السیاست کی ج ۱، ص ۱۲، پر ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں پر قبل توجہ یہ ہے کہ حضرت کے بیان کے تمام ہو جانے کے بعد بشیر ابن سعد نے جو سعد ابن عباد کے بڑے حریف تھے انہوں نے کہا: اگر ابو بکر کی بیعت سے پہلے آپ کا کلام النصار نے مُن لیا ہوتا تو ان میں سے کوئی بھی آپ کی بیعت کی مخالفت نہ کرتا اور نہ ہی کوئی توقف اور

اختلاف کرتا۔ بشیر قبیلہ اوس کا سردار تھا اور بیعت کے بارے میں اس کی مدد اس بات کا سبب بنی کی کہ عمر اپنی خلافت کے آخری زمانہ تک بنی خزر ج سے زیادہ بنی اوس کو حصہ دے اس کے لئے محمد مہدی شمس الدین کی کتاب ثورۃ الحسین کے ص ۱۶، پر رجوع کریں۔

(۱۳) بنی ہاشم نے علی کا دامن پکڑ لیا تھا اور زیر بھی انھیں لوگوں کے ساتھ تھا اور بنی امية عثمان کے طرفدار تھے اور بنی زہرہ بھی سعد اور عبد الرحمن کے طرفدار تھے... آپ الامامة والسياسة کے ص ۱۱-۱۰، پر رجوع کریں۔

(۱۴) طبری ج ۳، ص ۱۹۷ پر رجوع کریں۔

(۱۵) ابن قتیبہ نے حضرت علی سے بیعت لینے کی داستان کو اس طرح نقل کیا ہے: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس دوبارہ سے بیعت لینے کے لئے لوگوں کو بھیجنے کے بعد عمر ایک جماعت کے ہمراہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور ان کو ابو بکر کے نزدیک لے گئے، آپ سے کہا گیا: بیعت کرو۔ آپ نے فرمایا: اگر میں بیعت نہ کروں گا تو کیا ہو گا؟ تو ان لوگوں نے کہا: خدا کی قسم تمہاری گردن مار دیں گے تو آپ نے فرمایا: ایسی صورت میں تم نے خدا کے ایک بندہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے بھائی کو قتل کر دیا۔ عمر نے کہا: ہاں بندہ خدا ضرور لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بھائی کو نہیں۔ ابو بکر کے سر پر طاہر بیٹھے ہوئے تھے یعنی وہ خاموش تھے۔ عمر نے چاہا کہ وہ حضرت سے بیعت لے لے تو اس (ابو بکر) نے جواب میں اس طرح کہا: جب تک فاطمہ اس کے ساتھ ہیں، اس کو کسی چیز کے لئے مجبور نہیں کروں گا۔ الامامة والسياسة کی ج ۱، ص ۱۳ پر رجوع کریں۔ ابن قتیبہ اس کو

تفصیل کے ساتھ نقل کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں: علی، کرم اللہ وجہہ نے، رحلت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے وقت تک ابو بکر کی بیعت نہیں کی۔ نفس حوالہ سابق، ص ۱۴ اور اسی طرح ریاضین الشریعۃ کی ج ۲، ص ۳-۴، پر بھی رجوع فرمائیں۔

(۱۶) سب سے زیادہ اہمیت کا حامل بلکہ فقط ایک دلیل جو اس زمانہ میں قائم کی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ خاندان قریش کے علاوہ دوسرے عربوں کے آگے سر نہیں جھکائیں گے اس کے لئے آپ الامامة والسياسة کے ص ۶-۸ پر رجوع کریں۔

بعد میں عمر نے اپنے آخری حج کے سفر کی واپسی کے وقت مدینہ میں ایک خطبہ میں بیان کیا، ابو بکر کو مند خلافت پر بٹھانے کی داستان اور ان دونوں کے حوادث اور واقعات کو تفصیل سے بیان کیا۔ مند احمد ابن حنبل کی ج ۱، ص ۵۵-۵۶، پر رجوع کریں۔

(۱۷) یمامہ میں بارہ سو (۱۲۰۰) مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ان میں سے ۲۳ افراد خاندان قریش سے اور ۷۰ افراد انصار میں سے تھے التنبیہ والاشراف کے ص ۲۴۸ پر رجوع کریں۔

(۱۸) جنگ یمامہ کے بعد عمر کا بھائی زید بھی اس جنگ میں قتل ہو گیا، عمر نے ابو بکر سے اس طرح کہا: بہت سے قاریان قرآن جنگ یمامہ میں قتل ہو گئے ڈرتا ہوں کہ دوسری جنگوں میں تمام قاری حضرات قتل کر دیئے جائیں اور قرآن کا بہت سا حصہ ضائع ہو جائے۔ اس طرح سوچتا ہوں کہ قرآن کو جمع کر لیا جائے... اس کے لئے العواصم من القواسم کے ص ۶۷ پر رجوع کریں۔

حاشیہ میں مختلف آخذ اور مختلف نقل موجود ہیں ان کو ملاحظہ کریں۔

(۱۹) ان مرتدوں کے بارے میں جنہوں نے اسلام سے منھ موڑ لیا تھا اور مدینہ کو قطعی دھمکیوں کی چپیٹ میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ بحث کو متھ اور تفصیلی طور پر مطالعہ کرنے کے لئے مویر کی کتاب کی طرف رجوع کریں۔ اور اسی طرح التعبیہ الاشراف کے ص ۲۴۷۔ ۲۵۰ پر بھی

رجوع کریں۔ 410-Muir The Caliphate PP. 11

(۲۰) جس چیز نیم مسلمانوں کو مشغول کر رکھا تھا وہ دائیٰ جنگیں تھیں۔ اس لئے کہ وہ لوگ اس زمانہ میں روم اور ایران کے ساتھ جنگ میں مشغول تھے۔ املل والخل کی ج ۱، ص ۱۸ پر رجوع کریں۔

(۲۱) کنز العمال ج ۵، ص ۶۵۸، نیز العواصم من القواسم کے ص ۴۵، اسی صفحہ کے حاشیہ میں اس واقعہ کے بہت سے آخذ اور مختلف نقولوں کی طرف ملاحظہ کریں۔

(۲۲) حقیقت یہ ہے کہ عمر کی جانشینی میں بہت زیادہ کشکش اور کھینچاتا تھا۔ اب تنبیہ کہتے ہیں: جب ابو بکر مریض تھے، اسی مرض میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کچھ صحابہ اس کی عیادت کے لئے آئے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے اس کو خطاب کرتے ہوئے کہا: اے خلیفہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے امیدوار ہوں کہ تم شفا و سلامتی پالو، ابو بکر نے کہا: کیا تم ایسا سوچتے ہو؟ کہا: ہاں ابو بکر نے کہا: خدا کی قسم میری حالت بہت خراب ہے اور شدید درد ہے۔ لیکن جو کچھ تم مہاجرین کی طرف سے دیکھتا ہوں میرے لئے اس سے بھی کہیں زیادہ دردناک ہے۔ تمہارے امور کو جو میرے نزدیک بہترین شخص ہے میں نے اس کے ذمہ کر دیا

ہے لیکن تم غرور و تکبر اور بغاوت پر اتر آؤ گے اور اس کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہو گے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ دنیا نے تمہاری طرف رخ کر لیا ہے... الامامة والسياسة ج ۱، ص ۱۸؛ شرح ابن ابی الحدید ج ۲۰، ص ۲۳؛ ممل وخل ج ۱، ص ۲۵۔

ابن ابی الحدید طلحہ کی صریح مخالفت کو بھی نقل کرتا ہے: جس وقت ابو بکر نے عمر کو انتخاب کیا، طلحہ نے کہا: خداوند عالم کو کیا جواب دو گے اگر وہ بندوں سے پوچھے کہ کیوں سخت اور سگدل شخص کو لوگوں کا حاکم بنادیا ہے۔ ابو بکر نے کہا: مجھے اٹھا کے بیٹھا دو! مجھ کو خدا سے ڈراتے ہو۔ اگر وہ مجھ سے پوچھے گا تو جواب میں کہہ دوں گا: تیرے بندوں میں سے بہترین مرد کو لوگوں کا امیر بنایا ہے اس کے بعد اس (طلحہ) کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ (نفس حوالہ سابق کے ص ۲۴، پر رجوع کریں)

ان روایات کی بنابر جن کا تذکرہ کنز العمال نے اس باب میں کیا ہے۔ طلحہ کے علاوہ دوسرے لوگ بھی اس انتخاب پر متعرض تھے۔ ایک روایت کے مطابق جس کو اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک صحابی نقل کرتا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان، ابو بکر کی مجلس میں وارد ہوئے اور تہائی میں اس سے کچھ خاص باتیں کرتے ہیں۔ اسی وقت کچھ لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور عمر کے انتخاب پر اس کی خشونت کی بنابر اعراض کرتے ہیں۔ کنز العمال ج ۵، ص ۶۷۵ ایک دوسری روایت نقل کے مطابق جس وقت ابو بکر کی وصیت، عمر کی خلافت کے لئے لکھی گئی اس وقت طلحہ ابو بکر کے پاس آئے اور کہا کہ میں ان لوگوں کی طرف سے گفتگو کرنے آیا ہوں جو تیرے انتخاب پر متعرض ہیں۔ عمر کو جو ایک بد اخلاق، تندخوا اور سخت گیر

انسان ہے ایسے شخص کو خلافت کے لئے کیوں انتخاب کیا ہے؟ نفس مأخذ سابق ص ۶۷۸۔ خود عمر اپنے انتخاب کے بعد منبر پر گئے اور اس طرح کہنا شروع کر دیا: خدا یا! میں ایک سنگدل انسان ہوں مجھ کو نرم بنادے، میں ایک ضعیف انسان ہوں مجھے قدرت عنایت کر، میں بخیل ہوں مجھے سخاوت عطا کر۔ نفس مأخذ سابق ص ۶۸۵، پرانا خطبہ اس کی تائید کرتا ہے کہ واقعاً ایسے اعتراضات کا بازار گرم تھا اور حتیٰ ان پر یہ اعتراض کی فضاعمومی تھی۔

البتہ اس کے علاوہ اور دوسرے اسباب بھی دخیل ہیں۔ ابن ابی الحدید کہتے ہیں: ابو بکر نے اپنے مرض الموت میں صحابہ کو خطاب کر کے اس طرح کہا: جس وقت میں نے اپنے نزدیک تم میں سے بہترین کو چُننا، تم سب نے اپنی سانس کو سینے کے اندر جس کر لیا چاہا کہ یہ امر اسی کے پاس رہنے والوں یہ سب اس لئے ہے کہ تم نے دیکھا کہ دنیا نے تمہاری طرف رخ کر لیا ہے۔ خدا کی قسم حیری و دیبا کے پر دوں اور ریشمی مندوں کو اپنے لئے حاصل کر لو گے۔ شرح ابن ابی الحدید ص ۲۴

(۲۳) عمر ابو بکر کے بالکل برخلاف اپنے آپ کو ایک طرح کی قانون سازی کی صلاحیت کے مالک سمجھتے تھے۔ لیکن جیسا کہ ان کی رفتار و گفتار سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کو مسلمانوں کے حاکم ہونے اور اپنی ذاتی حیثیت کے اعتبار سے جانتے تھے نہ کہ اپنی ذاتی اور دینی مقام و منزلت کے سبب۔ خود ان کے فرزند عبد اللہ روایت کرتے ہیں ایک روز جابیہ ایک مقام جو بیت المقدس نے نزدیک واقع ہے اس مقام پر مسلمانوں کو خطاب کر کے اس طرح کہا: اے لوگو! میں تمہارے درمیان وہی حیثیت رکھتا ہوں جیسی پیغمبر اکرم صلی اللہ

علیہ وآلہ ہمارے درمیان مقام و منزلت کے حامل تھے۔ سنن ترمذی ج ۴، ص ۴۶۵۔

انہوں نے بعد میں اس بات کو ثابت کر دیا کہ وہ واقعاً پنے لئے اس شان کی حکومت کے قائل ہیں۔ اس سلسلہ میں اس کے بہت سارے اقدامات جن کے ذریعہ ایسی شان و شوکت اُبھر کر سا منے آئی اس کے لئے آپ رجوع کریں انص و الاجتہاد کے ص ۱۴۸۔ ۳۸۳، پر اس کے بعد کے دور کے فقہاء اور متكلّمین میں اسی حیثیت اور مقام و منزلت کی بنیاد پر جس کے عمر اور دوسرے خلاف اپنے واسطے قائل تھے، نیز دوسری دلیلوں کے تحت بھی، جنہوں نے حکومتی احکام کی تفسیر و تدوین کی ہے۔ اس بارے میں آپ الاحکام فی تمیز الفتاویٰ عن الاحکام مؤلف ابن ادیس قرآنی کے ص ۳۹۔ ۳۹۶، پر رجوع کریں۔ خصائص التشریع الاسلامی فی السياسة والحكم ص ۳۱۔ ۳۱۹؛ الاعتصام مؤلفہ شاطبی کی، ج ۲، ص ۱۲۱۔ ۱۲۲ پر رجوع کریں۔

(۴) نمونہ کے واسطے جس وقت عمر نے حضرت علی سے ابو بکر کی بیعت لینے کے لئے آنحضرت کے اوپر دباؤ ڈالا، حضرت نے فرمایا: اس کو دوہ لے کہ کچھ حصہ تجھے بھی نصیب ہو جائے گا۔ تو اس کی امارت اور حکومت کو آج مستحکم کر دے تاکہ کل تیرے ہی پاس پلٹ کر آنے والی ہے۔ الامامة والسياسة ج ۱، ص ۱۱۔ عمر نے اپنا جاشین بناتے وقت کہا: اگر ابو عبیدہ جراح زندہ ہوتے تو یہ عہدہ ان کو دیتا۔ نفس حوالہ سابق ص ۲۳، یہاں پر دلچسپ چیز یہ ہے کہ تمام دنیا سے اٹھ جانے والے لوگوں میں صرف ابو عبیدہ جراح پہلے انسان تھے کہ عمر نے ان کو یاد کر کے افسوس کا اظہار کیا کہ وہ کیوں زندہ نہیں ہیں۔

(۲۵) من اصول الفکر السیاسی الاسلامی کے ص ۴۷ پر رجوع کریں۔

(۲۶) یہ بات خلیفہ دوم کی ذاتی اور اخلاقی خصوصیات کا ملاحظہ کرتے ہوئے اور اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانہ اور تھوڑا سا قبل و بعد کے زمانہ کے اعراب اور ان کی تربیتی اور نفسیاتی خصوصیات پر توجہ کرنے سے یہ بات مخفوب معلوم ہو جاتی ہے بطور نمونہ آپ، کنز العمال کی ج ۵، ص ۶۸۷-۶۷۴ پر رجوع کریں اسی طرح کتاب عمر ابن خطاب مولف عبدالکریم الخطیب کے، ص ۵۲-۴۲-۳۷۱-۴۰ اور اسی طرح ان کی وصیت، اپنے بعد والے خلیفہ کے لئے ان کے روحانی اور نفسیاتی افکار اور قلمی جھکاؤ اور روتوی اور نفسیاتی حساسیت کی حکایت کرتی ہے۔ آپ اس کے لئے الیمان و الشیین کی ج ۲، ص ۴۷-۴۸ پر رجوع کریں۔

(۲۷) عبداللہ ابن عمر اس زمانہ کے سخت اور خوف ناک حالات کی اس طرح تصویر کشی کرتے ہیں: پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جیسے ہی اپنی آنکھیں بند کیں، مدینہ نفاق سے بھر گیا اور اعراب مرتد ہو گئے۔ عجمی بھی وجد میں آ کر خیالی پلاو پکانے لگے اور طرح طرح کے نقشے بنائے کر کہنے لگے وہ انسان جس کے سایہ میں اعراب نے قدرت حاصل کی تھی وہ اس دنیا سے اٹھ چکا ہے۔ اس کے بعد ابو بکر نے مہاجرین اور انصار کو جمع کیا اور کہا: اعراب نے اونٹ، بھیڑ اور بکری دینے سے انکار کر دیا ہے اور دین سے پلٹ گئے اور عجمی لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی رحلت کے سبب تمہارے اوپر حملہ کرنے کا سودا سر میں پالے ہوئے ہیں۔ پس اپنی رائے کو اس بارے میں بیان کرو میں تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں

البته اس موقع پر میری ذمہ داری زیادہ سنگین ہے۔ کنز العمال ج ۵، ص ۶۶۰۔

(۲۸) وہ روایات جو مسلمانوں کے خوف کو ظاہر کرتی ہیں، یہاں تک کہ عمر کی خلافت کے زمانہ میں ایران سے جنگ ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ ایسا مشہور ہے کہ عمر اس اقدام سے وحشت زدہ تھے اور یہی سبب تھا کہ اس نے چند بار ارادہ کیا تاکہ وہ خود محاذ جنگ پر جائیں۔ یہاں تک کہ حضرت علی اپنے ایک محضراً پر معنی بیان کے شمن میں ان کے ڈر کوان کے دل سے نکال دیا اور فی الحال ان کو محاذ جنگ پر جانے سے روکا۔ آپ کے کلام کا ایک حصہ اس طرح سے ہے:...اس دین کی کامیابی اور شکست شروع ہی سے کمی اور زیادتی پر نہیں رہی ہے۔ یہ ایک ایسا دین ہے کہ خداوند عالم نے اس کو فاتح بنایا اور اس کے سپاہیوں کو قدرت بخشی اور اس کی مدد فرمائی۔ اور نوبت آہستہ آہستہ یہاں تک آپنچھی...نیج المبالغہ خطبہ ۱۶۴۔

(۲۹) ایران و روم سے جنگوں میں جو مال غنیمت ہاتھ آیا اس کی مقدار کو معلوم کرنے کے واسطے اخبار طوال میں رجوع کریں، اسی طرح اکامل فی التاریخی ج ۲، ص ۳۸۔ ۶۸۔ پر رجوع کریں۔

امیں اس کتاب سے نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں: مسلمانوں نے جنگ جو لاء میں بہت زیادہ مال غنیمت اپنے اختیار میں لے لیا جو تمام دوسری جنگوں سے بہت زیادہ تھا اور کثیر تعداد میں عورتیں قیدی ہو کر آئیں نقل کیا جاتا ہے کہ عمر ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے خدا یا! جنگ جو لاء کے اسیروں کے بچوں کے بارے میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ فجر الاسلام ص ۹۵: ملک و خل ج ۱، ص ۲۵۔ ۲۶۔ دوسرے مقام پر نافع عمر سے اس طرح روایت کرتے ہیں: جس وقت

قادسیہ کی فتح کی خبر لائی گئی تو عمر نے کہا: کہ میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں زندہ رہوں اور ان سے تمہاری اولادوں کو دیکھوں۔ لوگوں نے کہا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا: اس صورت میں تمہاری رائے کیا ہے کہ ایک شخص میں حیله عربی اور عجمی تیز ہوشی جمع ہو جائے؟ کنز العما کلی ج ۵، ص ۷۰۔ ۲ پر رجوع کریں۔

(۳۰) گولدزیہر (Goldziher) نے اس نئے تجربہ کو جو کثیر مال کے جمع کرنے سے حاصل ہوا، جنگلوں کی وجہ سے حاصل ہوا تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے روایت نقل کی جاتی ہے کہ مال و دولت کے اکٹھا کرنے کی پیشین گوئی فرمادی تھی۔ (كتاب الجہاد، صحیح بخاری، حدیث ۳۶،) بخوبی اس کی توضیح دیتی ہے العقیدۃ والشریعتۃ فی الاعلام ص ۳۴۔ طحسین نے خلافت کی عمر کے ختم ہو جانے کا سبب دوسری طرح بیان کرتے ہیں جس طرح شیخین کے زمانہ میں موجود تھاویے سے بیان کرتے ہیں الاسلامیات ص ۶۶۲۔

(۳۱) من اصول انقلال سیاسی الاسلامی ص ۳۵۔

(۳۲) سیرہ ابن ہشام ج ۴، ص ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ اور اسی طرحدی احمد ابن حنبل ج ۱، ص ۵۶۔ ۵۵۔

(۳۳) عمر کی وصیت، اس کی کیفیت اور شرائط کے لئے الاسلامیۃ والسیاستیہ ج ۱، ص ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵ پر رجوع کریں۔ عمر اپنی جانشینی کے معین کرنے کے سلسلہ میں متعدد مشکلات اور موازع سے رو برو تھے، اس مقام پر مناسب ہے کہ اس بارے میں علی الوردی کی نظر کو نقل کریں۔ البتہ اس لحاظ سے کہ وہ شیعہ کی طرف جھکا و رکھتا ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر عمر نے علی کو

خلافت کے لئے معین نہیں کیا تو صرف خاندان قریش کی مخالفت سے ڈرتا تھا یہاں پر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کا نظریہ درست ہے یا نہیں اہم اس زمانہ کے خصوصیات اور حالات کی نشاندہ ہی ہے: بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ عمر اپنے بعد خلیفہ معین کر سکتا تھا اور لوگ بھی اس کو عمر سے مان لیتے اور اس کے امیدوار کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے۔ یہ ایک سرسری اور سطحی نظر ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس زمانہ میں پس پرده کیا گذر رہی تھی۔ اگر عمر حضرت علی کو اپنا جانشین انتخاب کر لیتے تو قطعی طور پر قریش یہ افواہیں اڑاتے جو خود آنحضرت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے۔ کیونکہ ان کو آپ سے سخت دشمنی تھی۔ اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید اضافہ کرتا ہے: بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عمر حیران تھے اور اس بات کی طرف مائل تھے کہ خلافت کو علی کے سپرد کر دیں لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ قریش ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے... و عاظ السلاطین ص ۱۹۹-۲۰۱۔

(۳۴) خلیفہ دوم کی ممتاز اور مختصہ بفردمویقیت کے باوجود یہ کہ بعد والے زمانوں میں لگاتار کوشش کی جا رہی تھی تاکہ سبھی لوگ ان کے طریقہ کار کا اتباع کریں، لیکن کسی نے بھی ان کے جانشین کی تعین میں ان کی روشن کا اتباع نہیں کیا اور اہل سنت کے متکلمین نے بھی باوجود اس کے بعد میں بنے والے خلیفہ کی تمام انواع و اقسام کا ذکر پہلے سے ہی کر دیا ہے جس کو خلیفہ سابق معین کرتا تھا اس کو بیان کر دیا ہے لیکن اس روشن کا نام بھی نہیں لیا ہے۔ الاحکام اسلامی ص ۶-۱۱۔

(۳۵) کنز العمال ج ۵، ص ۷۴۵-۷۴۶۔

(۳۶) انفر کی اسلامی اشیعی ص ۲۴۸، ماخوذ از الفلسفۃ السیاسیة الاسلام مصنفہ ابوالعطائی، ص ۳۱-۳۲۔

(۳۷) کتاب الزہد احمد ابن حنبل، ج ۲، ص ۳۹-۴۳؛ اور تاریخ الخلفاء کے ص ۱۴۷-۱۵۳۔ پر بھیر جو ع کریں اور خصوصاً محب الدین خطیب کے العواصم من القواسم کے ص ۵۳-۵۵۔ ان احادیث کے بارے میں جو عثمان کے فضائل کے بارے بیان کی گئی ہیں ان پر جامع اور منصفانہ تقدیم کی ہے۔ اس مطلب کو آپ کتاب الغدیر کی ج ۹، ص ۲۶۵-۲۶۱، پر ملاحظہ کریں۔

(۳۸) مقدمہ ابن خلدون ترجمہ محمد پروین گنابادی، ج ۱، ص ۳۹۰-۳۹۳۔ اس تفصیل کو جس چیز کو ابن خلدون نے مسعودی سے نقل کرتے ہیں اس کو مرrog الذہب نامی کتاب کی ج ۲، ص ۳۴۱-۳۴۲، پر ملاحظہ فرمائیں۔

(۳۹) ملل و محل ج ۱، ص ۲۶، عثمان کے گورزوں کی لاپرواہی اور فسق و فجور کے سلسلہ میں آپ رجوع کریں فہرست اسلام کے ص ۷۹-۸۱ پر، شہرستانی کے کلام کا وہ حصہ جو عثمان پر ہونے والی اہم تقدیموں کو شامل ہے خواہ وہ تقدیمیں عثمان کی حیات میں ہوں یا مرنے کے بعد، اپنے اعتراضات کو ثابت کیا ہے؛ ابن عربی کے جوابات مع تفسیر و توجیہ جس کو انہوں نے العواصم من القواسم نامی کتاب کے ص ۱۲۲-۱۲۳ پر بیان کیا ہے آپ اس سے مقایسه کریں۔ خاص طور سے اسی مقام پر محب الدین خطیب کے شدید لمحن حاشیوں کو ملاحظہ کریں۔

(۴۰) ان میں سے ایک نمونہ ولید ابن عتبہ کا ہے جو حاکم کوفہ تھا وہ اپنے ندیبوں اور گانے

والیوں کے ساتھ رات سے صبح تک شراب پی پی کر اپنی محفل جمائے رہتا تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ مسٹی کی حالت میں صبح کی نماز چہار رکعت پڑھادی سجدہ کے عالم میں شراب کا مطالبہ کیا اور مسلمانوں کے اعتراضات کے جواب میں کہا: تم لوگ اگر چاہو تو اور زیادہ پڑھادوں۔ کوفیوں کا عثمان پر اعتراض کرنے کی داستان اور اس پر اس کے رد عمل اور حضرت علی کا اس (ولید) پر حد جاری کرنا ان باتوں کو مروج الذینیاتی کتاب کی ج ۲، ص ۴۴۔ ۳۴۵ پر تلاش کیجئے۔ ابن تیمیہ کے کلام سے مقاییہ کیجئے جہاں عثمان پر اعتراض کرنے والوں کی متعصّبانہ اور تکلیف دہ انداز میں اعتراض کی رد کی ہے۔ اس لئے کہ اس نے اپنے فاسق اور لاابالی نزدیک لوگ کو امارت بخشی تھی اس کو بیان کرتا ہے۔ منہاج السنۃ النبویۃ کی ج ۳، ص ۱۷۳۔ ۱۷۶، پر ملاحظہ کیجئے۔

(۴) عثمان پر مسلمانوں کے اعتراضات، ان کو محاصرہ کرنے، اس کے بعد ان کے قتل کے جانے، ان پر نماز میت پڑھنے اور ذن کرنے کی کیفیت کو تفصیل کے ساتھ تاریخ اخلفاء کے ص ۱۵۷۔ ۱۶۴ پر ملاحظہ کریں؛ الاماۃ والسیاستہ کی ج ۱، ص ۳۲۔ ۴۵ پر اور ایسے ہی مروج الذہب کی ج ۲، ص ۳۴۵۔ ۳۵۷، پر تلاش کر سکتے ہیں۔ اس مقام پر قابل توجہ بات یہ ہے کہ ابن ابی الحدید کہتا ہے عائشہ کا عثمان پر اعتراض اس قدر شدید اور کفن پھاڑتا کہ آج کل کوئی اس بات کی جرأت بھی نہیں کرسکتا کہ اس کو کوئی اس طرح کہے جس طرح عائشہ نے عثمان کے بارے میں کہا ہے اور ان کو اتنی ساری نسبتوں سے منسوب کیا ہے۔ شرح ابن ابی الحدید کی ج ۲، ص ۱۱ پر رجوع کریں۔

(۴۲) عثمان کی فضیلت کے بارے میں معاویہ نے وسیع پیگانے پر جعل حدیث کے اقدامت کئے ہیں اس کے بارے میں آپ، شرح ابن ابی الحدید کی ج ۱۱، ص ۱۵-۱۶ پر رجوع کریں۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی جس کے ذریعہ اموی خاندان کے لوگ اس سے متمسک ہو کر اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ اپنی حقانیت اور مشروعیت کو ثابت کر لیں یہ وہ بات تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ عثمان کے شرعی و قانونی وارث بن بیٹھے۔ اس بارے میں اموی دربار کے مذاہوں اور شعراء نے دادخن دی ہے۔ لیکن یہ سکھ کا ایک رخ تھا۔ اس کا دوسرا رخ عثمان کی تقدیریں اور اس کی حقانیت اور مظلومیت کی تبلیغ تھی۔ جس قدر اس (عثمان) کی شان و منزلت اور حیثیت بڑھتی جا رہی تھی اس کے جانشینوں اور وارثوں کا بھی مرتبہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ جیسا کہ اس کے بر عکس بھی صحیح تھا۔ یعنی اگر عثمان کی منزلت میں شک و تردید کی جاتی تو یہ تردید بنی امیہ کی حیثیت پر بھی اثر انداز ہوتی۔ یہ اہم ترین سبب تھا کہ ایک ایسے انسان کے چہرہ کو تقدس بخشنا جا رہا تھا جو اپنے زمانہ خلافت میں لوگوں کی نظر میں تمام کمالات و فضائل اور شخصیت و محبوبیت سے عاری تھے۔ مزید توضیح کے لئے آپ الامویوں والخلافت کے ص ۱۲-۱۷، پر رجوع کریں۔

ایسی بخششیں جو بعد میں عثمان کی شان اور ان کا خلافائے راشدین سے مقایسه چاہے متكلمین کے درمیان اور چاہے اہل حدیث کے درمیان ہوں زور پکڑ گئیں: اس کے بارے میں آپ شرح ابن ابی الحدید کی ج ۱، ص ۶-۱۰، پر رجوع کریں؛ نیز المواقف کے ص ۴۰۷-۴۱۳، پر بھی رجوع کریں؛ مذہبی روشن فکروں کی تقتید کے بارے میں اور اسی طرح وہ لوگ جو

انقلابی رجحان رکھتے ہیں ان کی تقدیروں کے بارے میں اندیشہ سیاسی دراسلام معاصر کے ص ۱۵، پر رجوع کریں۔

(۴۳) محب الدین خطیب کے حاشیوں پر جس کو انہوں نے کتاب العواصم من القواسم کے ص ۶۳-۶۵، پر درج کیا ہے اس کی طرف رجوع کریں۔

(۴۴) تاریخ اخلفاء ص ۱۶۵۔

(۴۵) الاسلام و اصول الحکم ص ۱۸۱۔

(۴۶) یہ معروف جملہ ہے جس کو مختلف مناسب موقع پر عرب سے نقل کیا گیا ہے۔ اس کے لئے آپ تحریر الاعتقاد کے ص ۲۴۵، پر رجوع کریں؛ اور شرح ابن ابی الحدید کی ج ۲، ص ۲۶ پر رجوع کریں۔

(۴۷)...جن لوگوں نے علی کی بیعت کی تو ان کی بیعت کرنے کا اصلی سبب یہ تھا کہ آپ کو مسلمانوں کے درمیان مقام خلافت کے لئے سب سے بہتر پاتے تھے جیسا کہ گذشتہ زمانہ کے مسلمان ابو بکر کو مقام خلافت کے لئے سب سے بہتر سمجھتے تھے، اسی لئے اس کا انتخاب بھی کر لیا اور یکے بعد دیگرے عمر اور عثمان کو منتخب کرتے رہے (۲۲۰) اسلام بلا مذاہب ص ۱۱۰۔

(۴۸) ان توقعات کے نمونوں میں سے ایک نمونہ ابو موتی اشعری کی تجویز ہے جس کو آپ مردوں الذہبی کی ج ۲، ص ۴، پر ملاحظہ کریں۔

(۴۹) طلحہ وزیر کا جنگ جمل سے پہلے امام جماعت اور لشکر کی قیادت کے سلسلہ میں اختلاف

اس کے لئے آپ نقش عالیٰ شہد در تاریخ اسلام کی ج ۲، ص ۴۸۵-۶۵ پر رجوع کریں۔  
 (۵۰) طلحہ کا جنگ جمل کے دوران مروان کے ہاتھوں قتل کرنے جانے اور اس کے مدارک میں تنقیدی چھان بین کے بارے میں آپ اسی کتاب کے ص ۱۷۳-۱۷۵ پر رجوع کریں، نیز العواصم من القواسم فی الذب عن سنته ابی القاسم کے ص ۲۴۱-۲۴۰، پر اور خاص طور پر اسی طرح آپ محب الدین خطیب کے شدید تکلیف دہ جواب کے لئے ان کے حاشیوں میں رجوع کریں۔

(۵۱) اس کے باوجود کہ سعد ابن ابی و قاص کے ایسا انسان علی کے ساتھ نہ تھا لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ آپ سے مقابلہ کرے، وہ اس جملہ کو اپنی زبان پر لاتے ہوئے کہ میں جنگ نہیں کروں گا کہ مجھے توارد و اور وہ میرے بارے میں یہ سوچیں اور دیکھیں اور یہ کہیں کہ یہ راہ راست اور دوسرا خطہ پر ہے۔ حضرت علی کی مدد سے انکار کردیا الفتنة الکبریٰ کے ص ۵ پر لیکن اس کے باوجود امام کی تعریف میں یہ کہا: پس پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ سے جو باتیں علی کے بارے میں میں نے سنی ہیں اگر میرے سر پر آرہ رکھ کر ان کو برا بھلا کہنے کے لئے کہیں کہ ان کو برا بھلا کہوں تب بھی میں ان کو برا بھلا نہیں کہوں گا۔ کنز العمال اس روایت کو مختلف تقلیوں اور سندوں کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ ج ۱۳، ص ۱۶۲-۱۶۳۔

(۵۲) الخلافۃ والامامۃ عبد الکریم الخطیب ص ۱۲۱۔

(۵۳) مقدمہ ابن خلدون ج ۱، ص ۲۹۸۔

(۵۴) شرح ابن ابی الحدید ج ۲، ص ۸۔

(۵۵) اس خود پسندانہ تفسیر اور اس میں چاہی اور ناجائز توقعات کے بہترین نمونہ کو علی سے طلحہ و زبیر کے مجادلات میں دیکھا جاسکتا ہے اس کے لئے آپ نقش عائشہ در تاریخ اسلام کے ص ۳۵-۴۱، پرجو ع کریں۔

(۵۶) پیش حضرت علی اپنی خلافت کے وقت جن مختلفوں سے رو برو ہوئے اس کے چند اصلی اسباب تھے ان میں سے ایک سبب خاندان قریش کا آپ سے قدیمی کینہ تھا۔ امام نے بارہا مختلف موقع پر اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور قریش والوں کی شکایت کی۔ ایک بار آپ نے فرمایا: تمام وہ کینہ جو قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے لئے اپنے دل میں رکھتے تھے مجھ پر ظاہر کر دیا اور بعد میں میری اولاد سے بھی اس کینہ کا اظہار کریں گے۔ مجھ کو قریش سے کیا سروکار! خدا اور اس کے رسول کا حکم تھا جس کے باعث میں ان (قریش) سے لڑا۔ کیا خدا اور رسول کی اطاعت کرنے والے کی جزا یہی ہے، اگر یہ لوگ مسلمان ہیں۔ الشیعۃ والحاکمون ص ۱۷۔

قابل توجہ بات تو یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس نکتہ کی تھہ تک پہنچ گئے تھے۔ ایک دن عمر نے عباس سے اس طرح کہا: اگر ابو بکر کی رائے اپنے مرنے کے بعد کے خلیفہ کے بارے میں نہ ہوتی تو پیشک و شمشہر یہ قدرت تمہارے پاس پہنچ جاتی اور اگر ایسا ہو جاتا تو اپنی قوم سے تمہیں چین کا سانس لینا نصیب نہ ہوتا۔ وہ تم کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ذبح ہونے والی گائے قصاص کو دیکھتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ایک جلیل القدر صحابی ابن القیمان نے حضرت علی سے کہا: قریش کا حسد آپ کی نسبت دو طرح کا ہے۔ ان میں کے اچھے لوگ

چاہتے ہیں کہ آپ ہی کی طرح ہو جائیں اور آپ ہی کی طرح معنوی اور روحانی حیثیت بڑھانے میں آپ سے رقبہ کریں لیکن ان میں کے جو برے لوگ ہیں وہ آپ سے اس قدر حسد کرتے ہیں جو دل کو سخت بنادیتا ہے اور عمل کو نابود کرنے والا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کن نعمتوں سے مالا مال ہیں جو آپ کی خوشنودی اور ان کی محرومی کا باعث ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے برابر ہو جائیں اور آپ سے آگے نکل جائیں کہ وہ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر پاتے ہیں اور ان کی کوشش بے نتیجہ ہو جاتی ہے چونکہ وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں لہذا وہ آپ سے مقابلہ کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم آپ تمام قریش سے زیادہ ان کے نزدیک قدر دانی کے مستحق ہیں۔ کیونکہ آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و سیدہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ و سیدہ کی رحلت کے بعد ان کے حق کو ادا فرمایا۔ خدا کی قسم ان کی سرکشی میں صرف انھیں کا نقصان ہے۔ انھوں نے اس کے ذریعہ خدا کے عہد کو توڑ دیا اور اس (خداوند عالم) کا ہاتھ تمام ہاتھوں سے برتر ہے۔ لیکن ہم انصار کے ہاتھ اور زبانیں آپ کے ساتھ ہیں... الفکر السیاسی الشیعی کے ص ۴-۲۰۶، پر رجوع کریں؛ خاص طور پر آپ زیادابن الغم شعبانی کے نظریات میں رجوع کریں (متوفی ۱۵۶) اور اسی طرح شعبی نے بھی اسی باب میں محب الدین خطیب العواصم من القواسم نامی کتاب کے حاشیہ کے ص ۱۶۸-۱۶۹، سے نقل کیا ہے۔ واقعیت یہ ہے کہ قریش کی مخالفت صرف حضرت علی تک محدود نہ تھی یہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و سیدہ کو بھی شامل تھی کہ اس کے نمونے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ و سیدہ کی عمر کے آخری حصہ میں بار بار دیکھئے جاسکتے ہیں۔ شیخ مفید، امام صادق سے روایت نقل

کرتے ہیں کہ اس میں کا کچھ حصہ اس طرح ہے: پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو خبر ملی کہ قریش کے بعض لوگوں نے اس طرح کہا ہے: کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے کس طرح قدرت کو پینہ اہل بیت کے لئے مستحکم اور استوار بنادیا ہے ان کی وفات کے بعد اس قدرت کو ہم ان (اہل بیت) سے دوبارہ لے لیں گے اور اسے دوسری جگہ پر مقرر کر دیں گے... امامی، ص ۱۲۳۔ قریش کے طعنہ دینے کے باب میں اور ان میں سے سرفہrst ابوسفیان تھا جو بنی ہاشم کو حتی زمان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ میں بھی طعنہ دیا کرتا تھا اس کے لئے عبداللہ بن عمر کی روایت کو اقتداء الصراط المستقیم، نامی کتاب مصنفہ ابن تیمیہ کے ص ۱۵۵ سے مأخوذه ہے اس پر ملاحظہ فرمائیں اور ایسے ہی ابوسفیان کے کلام کی طرف بھی جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے چچا حضرت حمزہ کی قبر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا قاموس الرجال، نامی کتاب کی ج ۱۰، ص ۸۹، پرجو عن فرمائیں۔

(۵۷) اس زمانہ کے راجح دین کی تبعیت میں ڈاکٹر طہ حسین صاحب کے اقتصادی بدلاوے کے بارے میں تحلیل و تجزیہ کو الفتنۃ الکبری، نامی کتاب میں رجوع کریں۔

(۵۸) نمونہ کے واسطے ابو حمزہ کے خطبہ البیان والتبیین، کی ج ۲، ص ۱۰۳-۱۰۰، پرجو عن کریں اور یہ کہ پہلے والے دو خلیفہ اور حضرت علی تعارف کس طرح سے کرا یا گیا۔

(۵۹) نظریہ الامامۃ لدی الشیعۃ الاشناعشر، نامی کتاب کے، ص ۲۸، پر، ان تنقیدوں کے خلاصہ کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔

(۶۰) معاشرتی اور اقتصادی تبدیلیاں اور اس کی اتباع میں پہلے زمانہ کی دینی، سیاسی اور

فکری تبدیلیاں اس قدر گھری اور تیز تھیں کہ معاویہ کے جیسے بلا کے سیاسی انسان کو بھی عاجز و ناتوان بنادیا۔ اس نے اپنے مرض الموت کے خطبہ میں اپنی ناتوانی اور عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا: اے لوگو! ہم بہت ہی سخت اور گیرو دار اور فتنہ سے بھرے ہوئے زمانے میں واقع ہوئے ہیں۔ ایسا زمانہ جس میں ایک صالح انسان گنہگار شمار کیا جاتا ہے اور ظالم اپنی سرکشی میں اور اضافہ کر دیتا ہے... عيون الاخبار، ج ۲، ص ۲۵۹۔

(۶۱) حقیقت تو یہ ہے کہ عائشہ بہت زیادہ مصمم نہیں تھیں اور حتیٰ کہ حضرت علی سے جنگ کرنے کے لئے مائل نہیں تھیں چند بار ارادہ کیا میدان جنگ میں نہ جائیں زیادہ تر عبداللہ بن زبیر جوان کے بھانجہ تھے، حضرت عائشہ کو ان کے قطعی ارادہ سے روک دیا۔ اس کے لئے آپ نقش عائشہ در تاریخ اسلام، نامی کتاب کی ج ۲، ص ۵۱۔ ۵۲ کی طرف رجوع کریں۔

(۶۲) عائشہ جنگ جمل کے بعد اپنے کئے پر سخت پیشمان ہوئیں اور انہوں نے اسے مختلف طرح سے اظہار اور بیان کیا۔ ان میں سے ایک معاویہ کے ذریعہ مجرم بن عدی کی شہادت کے بعد اس طرح کہا: میں یہ چاہتی ہوں جو کہ خون کے بدله لینے کے لئے قیام کروں (اس کا بدله لوں) لیکن ڈراس بات کا ہے کہ کہیں جنگ جمل کی تکرار نہ ہو جائے: افکر السیاسی الشیعی، ص ۲۹۱۔

(۶۳) زبیر کا ماحاذ جنگ چھوڑ کر چلے جانے کا بڑی ہی باریکی سے جائزہ لینے کے لئے عائشہ در تاریخ اسلام، نامی کتاب کی ج ۲، ص ۱۶۰۔ ۱۷۰ پر ملاحظہ کیجئے۔

(۶۴) بطور نمونہ الامامة والسياسة، نامی کتاب کے ص ۱۷۷، ۱۸۹، ۱۹۱ پر رجوع کریں۔

(۶۵) حقیقت یہ ہے کہ انصار کی حضرت علی بن ابی طالب کی حمایت اور معاویہ اور امویوں کی مخالفت کے بہت سے دلائل اور وجوہات موجود ہیں۔ سب سے زیادہ مخالفت یہ تھی کہ ان لوگوں کو اپنی موافقت کے لئے کھینچ لیا اور یہ سبب مستقل برقرار رہا۔ یہی وجہ تھی کہ معاویہ نے مختلف موقع پر ان لوگوں کو اس بات کا طعنہ دیا اور یزید اور تمام امویوں نے بھی ایسا ہی کیا یہاں تک کہ ان کے قتل عام کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ محمودی، مسعودی کے قول سے اس طرح حکایت کرتا ہے: جس وقت امام حسن نے معاویہ سے صلح، قیس بن سعد نے معاویہ سے جنگ کرنے پر انصار کیا اور اپنے افراد کو اختیار دیا کہ یا تو امام حسن کی طرح صلح پر قائم رہیں یا پھر بغیر امام کی اجازت کے جنگ کو جاری رکھیں۔ اس کے بعد وہ خود اضافہ کرتا ہے: ہاں اس نے اچھے طریقے سے امویوں کو انصار پر امویوں کی حکومت کے مفہوم کو جان لیا تھا۔ نظریہ الامامة لدی الشیعۃ الاشناعشیریۃ، ص ۴۴۔ ایک دوسری جگہ قیس بن سعد ایک خط (نامہ) کے ضمن میں جو نعمان بن بشیر کو لکھا تھا کہ وہ خود انصار میں سے تھے لیکن خاندان اور قبیلہ کے درمیان اختلاف کی بنا پر انصار سے جدا ہو کر معاویہ سے مل گیا تھا، اس طرح لکھا: اگر تمام عرب معاویہ کی حمایت میں جمع ہو جائیں، تب بھی انصار اس سے جنگ کے لئے اٹھ کھڑے ہونگے انصار اور امویوں کی گہری جڑیں رکھنے والی مخالفت کے بارے میں آپ، الامامة و السياسة، کی ج ۱، ص ۲۲۰۔ ۱۷۷۔ پر رجوع کریں اور اسی طرح معاویہ اور انصار کے درمیان رقبابت کے بارے میں بھی البيان والتبیین، کی جلد ۱، ص ۱۲۹ پر رجوع کریں۔

(۶۶) اس داستان کو عموماً کتب تاریخ و احادیث نقل کرتی ہیں۔ اس کے لئے آپ، حاشیہ مل

خلل، ج ۱، ص ۱۱۶ پر رجوع کریں۔ یہاں پرمزے کی بات تو یہ ہے کہ اس کو ابن تیمیہ جیسا شخص بھی السیاست الشرعیہ، کے ص ۴۶ پر نقل کرتا ہے: اس باب میں وہ احادیث جو خوارج کے بارے میں وارد ہوئیں ہیں ان کے بارے میں کنز العمال، کی، ج ۱۱، ص ۲۸۶۔ ۲۲۳۔ پر رجوع کریں۔

(۶۷) خوارج کے وجود میں آنے اور ان کی پیدائش اور بقا کی کیفیت کے بارے میں بہترین کتاب مصنفہ نایف الخوارج فی العصر الاموی کی معروف نیز قدیمی ترین کتاب الخوارج والشیعۃ، مؤلفہ ولہازان، ترجمہ عبدالرحمن بدودی میں کسی طرف بھی رجوع کریں۔

ان کے بارے میں بہترین اور جامع ترین تعریف توصیف کو خود امام نے بیان کیا ہے۔ نہروان کی جنگ کے تمام ہونے کے بعد امام سے پوچھا گیا کہ یہ لوگ کون تھے؟ اور کیا یہ لوگ کافر تھے؟ آپ نے فرمایا: ان لوگوں نے کفر سے فرار کیا۔ ان لوگوں نے پھر پوچھا کیا یہ لوگ منافق تھے؟ آپ نے فرمایا: منافق لوگ خدا کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ خدا کی یاد کثرت سے کرتے ہیں۔ پھر آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ آخر وہ کون لوگ تھے؟ تو آپ نے فرمایا: ایک ایسا گروہ تھا جو قتنہ میں بنتا ہو گیا۔ لہذا وہ لوگ اندھے اور گونگے ہو گئے۔ المصنف شمارہ ۱۸۶۵۶ و نیز قرائیہ جدیدہ فی مواقف الخوارج و فکر وادیہم کے ص ۷۵۔ ۸۲ پر بھی رجوع کریں۔

(۶۸) بطور نمونہ ابو حمزہ کے اس خطبہ کو جس مقام پر وہ معاویہ، یزید اور بنی مردان کا تعارف کرتا تھا اس کے لئے آپ البيان لتیمین، کی ج ۲، ص ۱۰۰۔ ۱۰۳، پر رجوع کریں۔

بعد میں خوارج کی جانب سے کی گئی اصلاحات اور ان کے درمیانہ اقدام کو آپ ملاحظہ کریں اباضیہ کے فقہ و کلام میں خاص طور پر ازالۃ الاعتراض عن مخی آل اباض، والاصول التاریخیۃ للفرقۃ الاباضیۃ، نامی کتابوں میں رجوع کریں۔

(۶۹) حقیقت یہ ہے کہ متعدد موقع پر بنی امیہ کی سیاست ایک ایسی سیاست تھی جو قہر و غلبہ، دباؤ، دھمکی آمیزانداز، خوف کا ماحول بنانے اور بلا وجہ ایک شخص کو دوسرا پر ترجیح دینے اور جبری دین کا لبادہ پہنچنے ہوئے تھی، نمونہ کے طور الامامة والسياسة، کی ج ۱، ص ۱۹۱-۱۸۳ یزید کے لئے بیعت لینے کے موقع پر معاویہ کے کلام کی طرف رجوع کریں۔ اور زیاد بن سمیہ کا اہل بصرہ سے وحشت ناک خطاب جس کو البیان والتبیین، کی ج ۲، ص ۵۸-۶۰ پر، اپنے باپ مردان کے مرنے کے بعد عبد الملک کا خطبہ جس کو انساب الاشراف، نامی کتاب کی ج ۱، ص ۱۶۴ پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ مصعب بن زیر کے قتل کرنے کے بعد خود اسی کا خطبہ جس کو الامویون والخلافۃ، کے ص ۱۲۰ پر بھی رجوع کریں۔ اور اسی طرح سے طبری، ج ۷، ص ۲۱۹ میں بھی ملاحظہ کریں۔ یزید بن عبد الملک کا اپنے دو بیٹوں کی ولایت عہدی کے بارے میں ان کے نام خط اور اسی طرح حاج کے متعدد خطبے جس کو جا حظ نے البیان والتبیین، نامی کتاب کی جلد دوم میں بیان کیا ہے۔ خاص طور پر عراق کے لوگوں سے اس کا خطاب اسی کتاب کے ص ۱۱۵ پر رجوع کریں، خاص طور پر آپ، الامویون والخلافۃ، نامی کتاب کی طرف مصنفہ، حسین عطوان کی طرف رجوع کریں۔ سب سے بہتر اور سبق آموز مطلب کے لئے آپ، عبداللہ بن مردان کی طرف رجوع کریں جو بنی امیہ کے آخری

خلفہ کا بیٹا تھا، اپنے خاندان کی حکومت کے ختم ہو جانے کو نئے بادشاہ کے عنوان سے اپنی زبانی منصور سے نقل کرتا ہے بادشاہ نے امویوں کی داستان کو سن کر عبد اللہ سے یہ کہا: یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے تمہارے گناہوں کے سبب تم سے عزت اور بزرگی کو چھین لیا اور لباس ذلت پہنادیا ہے اور انتقام خدا بھی تمہارے اوپر ختم نہیں ہوا ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اسی وقت میرے ہی ملک میں خدا کا عذاب تم پر نازل ہو جائے اور تمہاری وجہ سے وہ عذاب مجھ پر بھی آجائے... مقدمہ ابن خلدون، ج ۱، ص ۳۹۷ اور ۳۹۸۔

. the Majesty That was Islam, p.18, Watt. M.W (۷۰) شامیوں اور عراقیوں کے فرق کے باب میں جعفری بھی واث کے نظریات کی تاکید کرتا ہے۔

(۷۱) لوگوں (عوام الناس) نے میری بیعت کی۔ وہی افراد جنہوں نے ابو بکر و عمر و عثمان کی بیعت توجہ کی ضرورت ہے کی اسی چیز پر ان لوگوں کی بیعت کی تھی... الی آخرہ شرح نجح البلاغہ، ج ۳، ص ۸۔

(۷۲) علامہ امینی مختلف روایتوں کو ان گلشت شمار اصحاب کے بارے میں نقل کرتے ہیں جو لوگ حضرت علی علیہ السلام کے ہمراہ جنگ صفین میں تھے۔ ایک روایت کی بنابر حاکم نے مستدرک میں روایت کی ہے، وہ ۲۵ افراد جنہوں نے بیعت رضوان میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی جنگ صفین میں حضرت علی کے ہم رکاب تھے اور ایک دوسری روایت کی بنابر ۸۰۰ آدمی تھے، ان میں سے ۳۶ آدمی شہید ہو گئے۔ جیسا کہ

جنگ بدر میں حضرت کے ہمراہ شرکت کرنے والے صحابہ ۷۰ و ۸۰ یہاں تک کہ ۱۰۰ افراد کو بھی نقل کیا گیا ہے۔ خود حضرت علی نے ۱۴۵ صحابہ کے نام ذکر کئے ہیں عموماً یہی امام کے باوفا ساتھیوں میں سے تھے جو حضرت کے لئے اسی شان اور حیثیت کے قائل تھے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کے بارے میں فضیلت بیان کی ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگ اس جنگ میں شہید ہو گئے اور امام اپنے آخری ایام میں بارہاں سے بچھڑنے کو یاد کر کے گریہ فرماتے تھے اور یہ آرزو فرماتے کہ جتنی جلدی ہو سکے ان سے ملتی ہو جائیں۔

الغدیر، ج ۹، ص ۳۶۲-۳۶۸۔

تسمیہ من شہدمع علی حروبہ ان لوگوں کے اسامی جو امیر المؤمنین کے ہمراہ جنگ میں شہید ہو گئے تراشنا، مجلہ کے تسمیات نامی مقالہ کے شمارہ ۱۵، کے ص ۳۱ پر ملاحظہ ہو۔

(۷۳) اس طرح کے بیانات پہلے دو خلافے نے بہت زیادہ دیئے ہیں اور تاریخی اور مختلف روائی آخذ میں کثرت کے ساتھ وارد ہوئے ہیں۔ اس کے لئے تحرید الاعتقاد، نامی کتاب مؤلف محمد جواد جلالی کے حاشیہ کے ص ۲۴۱-۲۵۴ پر رجوع کریں۔

(۷۴) معاویہ کے اقدامات ایسے موثر اور دیر پا تھے کہ بہت سے اہل سنت کے نزدیک اس نے اموی خاندان کو ایک بہت بلند مرتبہ عطا کر دیا۔ کیونکہ امویوں کا مسئلہ اور ان کا دفاع ہمیشہ سنیوں کی سیاسی فکر کے عنوان سے باقی رہا۔ ضحیٰ الاسلام کی ج ۳، ص ۳۲۹ پر رجوع کریں۔

(۷۵) اضواء علی السنۃ الحمدیۃ، کے ص ۲۱۶ کا ملاحظہ کریں۔ اور یہ کہ ابو ہریرہ نے معاویہ کی

خوشامد کے واسطے امام علی کے خلاف کس طرح بہت سی روایات جعل کیں اور معاویہ کا قدرت پر پہنچنے کے بعد کوفہ میں لوگوں کے سامنے ان کو پڑھا اور اس نے اس کے بابت ایک بہت بڑا انعام حاصل کیا۔

(۷۶) بہت سی ان باتوں (نکات) کو حاصل کرنے کے لئے جو روایت میں موجود ہیں اور شیعوں کے ایک صدی کے حالات کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس کے لئے شرح نجح البلاغہ کی ج ۱۱، ص ۴۳ پر رجوع کریں۔

(۷۷) حوالہ سابق (شرح نجح البلاغہ) ج ۱۱، ص ۴۴ - ۴۶۔

(۷۸) حوالہ سابق (شرح نجح البلاغہ) ج ۱۱، ص ۴۶۔

(۷۹) بطور نمونہ اموی شعر کے اشعار کو ملاحظہ کجھے الامویون والخلافۃ، کے ص ۱۵ - ۲۱ پر اور عباسی شعرا کے رد کے ساتھ، مروج الذهب، کی ج ۳، ص ۳۴ پر موازنہ کریں۔

. Muslim Studies Vol.2nd P.115, Goltziher

(۸۱) اموی لوگ کہتے تھے خلافت ہمارے جملہ حقوق میں سے ایک حق ہے اور انہوں نے اس کو عثمان سے ورثہ میں حاصل کیا ہے۔ عثمان نے شوریٰ کے ذریعہ اس کو حاصل کر لیا لیکن مظلوم قتل ہو گئے اور ان کا حق پامال ہو گیا۔ خلافت ان کے خاندان سے باہر چلی گئی اور دوسروں کی طرف منتقل ہو گئی۔ یہ ان کا فریضہ ہے کہ اس کو واپس پلٹانے کے لئے جنگ کے لئے اٹھ کھڑے ہوں۔ امویوں کی طرفداری میں رطب اللسان شعر اس بات کو مختلف موقع پر کہا کرتے تھے: الامویون والخلافۃ، ص ۱۳ اور تبلیغ کرتے تھے کہ امویوں نے خلافت پیغمبر

صلی اللہ علیہ وآلہ سے وراثت میں حاصل کی ہے۔ حوالہ سابق ص ۱۷۔

یہ تبلیغات اس حد تک موثر ہو گئیں کہ امویوں کی حکومت کے زوال تک ایسا اعتقاد، کم سے کم ان کی اپنی سرحد میں یعنی شام میں کامل شائع تھا۔ مسعودی اس موقع پر روایت کرتے ہیں: اس کے بعد کہ مروان، آخری اموی خلیفہ، قتل ہو گیا عبد اللہ بن علی شام آئے اور وہاں کے ثروت مندوگوں کے ایک گروہ کا انتخاب کر کے سفاح کے پاس بھیجا۔ انہوں نے سفاح کے نزدیک قسم کھائی کہ وہ لوگ امویوں کے علاوہ کسی کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے اہل بیت نہیں جانتے تھے تاکہ آنحضرت سے میراث حاصل کریں۔ اس مجلس میں ابراہیم بن مہاجر نے ایک شعر پڑھا جس کی بعد میں عباسیوں کے چاہنے والے شعرا نے متابعت کی اور امویوں کے طعنہ دینے کے ضمن میں، بنی عباس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے ورثہ داروں کے نام سے یاد کیا۔ اس کے لئے آپر ورج الذهب، کی ج ۳، ص ۴۳ پر رجوع کریں۔

(۸۲) اس داستان کی تفصیل کو کتاب مر وج الذهب کی ج ۲، ص ۶۰۹ - ۴۰۹ پر ملاحظہ کیجئے۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ استاد سجادی اس داستان کا اصلی سبب خلفا کی حقانیت کا عقیدہ جانتے ہیں۔ جبکہ یہ عقیدہ تینوں خلفا کے زمانے میں دکھائی نہیں دیتا ہے مہاجرین و انصار کسی فرد کے ذہن میں خطور نہیں کرتا تھا کہ اس کی یا اس کی خلافت کا عقیدہ رکھنا واجب ہے اور جوان کی خلافت کا معتقد نہیں ہے وہ مونین کی جماعت سے خارج اور بدعت گزاروں کی جماعت میں داخل ہو گیا ہے۔ اس قاعده کو سیاست نے وجود دیا تاکہ علی کو طعنہ دیں اور خون عثمان کے

انتقام کے سلسلہ میں معاویہ کے خروج کو مشروعیت بخشے۔ شاید عمر وابن عاص پہلا شخص تھا جس نے اس طرزِ تفکر کا نقج بویا۔ اس کے بعد داستان کو مفصل طور پر نقل کر کے اس قسم کا نتیجہ نکالتا ہے: یہ داستان اور اسی کی طرح دوسری داستانیں اس بات کی حکایت کرتی ہیں کہ خلفاء کی خلافت کا اعتقاد دشمنی اور رقابت کی مسموم فضائیں پیدا ہوا ہیں اس تک کہ وہ مکار اور ہوشیار مرد شیخین کی خلافت کے اعتقاد کو وسیلہ بنائے گئے۔ عثمان کی حقانیت کا اقرار لینا قرار دے... اُملل والخل، کی ۱، ص ۲۶۵۔ ۲۶۶ پر بوجع کریں۔

(۸۳) اس طرح کے واقعہ کے نمونہ کو رجال حول الرسول نامی کتاب میں ملاحظہ کریں۔ اس واقعہ نے حتیٰ ایک آزاد خیال اور خالد محمد خالد کے جیسا تجدید پسند انسان، جو اس کتاب کے مؤلف بھی ہیں ان کو بھی منتاثر کر دیا ہے۔

(۸۴) برہاری جوابن حنبل کی کتاب السنیہ، کی شرح ہے اس میں کہتے ہیں: اس بات کو دل وجہ سے ماننا ضروری ہے کہ عمر اور ابو بکر عاششہ کے مجرمہ میں مدفن ہیں۔ پس جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی قبر کے نزدیک آؤ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کو سلام کرنے کے بعد ان دونوں پر سلام کرنا واجب ہے۔ طبقات الحنابلۃ، نامی کتاب کی ج ۲، ص ۳۵ سے ماخوذ ہے۔

صحابہ نامی مقالہ سے موازنہ کریں شارٹ رانس انکلو پیڈ یا آف اسلام میں

Shorter Encyclopaedia of Islam.p.88

اور اسی طرح العواصم والقواصم فی الذب عن سنته الی القاسم، کی ج ۳، ص ۲۳۰۔ ۲۳ پر بھی

ملاحظہ کریں۔

(۸۵) یہ نکتہ ایسے حساس نکات میں سے ایک ہے، جو بہت ہی قاطع اور فضیل ہے کہ اہل سنت و شیعہ اس طرف زیادہ متوجہ ہیں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنے اصول اور اپنے عقائد کے مطابق ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں۔ ان نمونوں میں سے ایک بہترین نمونہ کتاب دلائل الصدق، ہے، جو مرحوم شیخ محمد حسین مظفر کی مؤلفہ ہے جو کتاب ابطال الباطل فضل بن روز بہان کی رد میں لکھی گئی ہے کہ خود یہ کتاب ابطال الباطل بھی علامہ حلی کی کتاب نجیح الحق کی رد میں لکھی گئی ہے۔ اس کے متن میں کچھ غور و فکر کے بعد اور ابن روز بہان کی اس پر رد اور اس کے بعد مرحوم مظفر کی تقدیم سے پتہ لگایتا ہے کہ بعض مباحث کاملاً و مختلف بنیاد وں پر بنی ہیں اور ان میں سے ہر ایک اپنے عقائد کے اعتبار سے مسائل پر غور و خوض کرتا ہے اور اسی معیار پر وہ اپنے مدقائق پر تنقید کرتا ہے۔

(۸۶) بطور نمونہ مقدمہ مفصل ابو ریدہ، رسائل الکندی، نامی کتاب پر رجوع کریں۔

(۸۷) صدر اول کے مقدس اور اس کے باعظمت ہو جانے کے سبب کو عبدالہادی حائزی مشہور مستشرق انگریز، واث سے اس طرح نقل کرتے ہیں: تیری صدی کی نویں اور آخری دہائیوں میں اکثر مسلمانوں پر واضح ہو گیا تھا کہ اپنی اسلامی ماہیت اور حقیقت کو محفوظ رکھنے کے لئے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے کو گذشتہ اسلام کی تاریخ کو یا کم از کم اپنے آپ کو صدر اسلام سے وابستہ کر لیں اسی صدی کے آخر میں زیادہ تر وہ لوگ جو طرح طرح کی مذہبی تحریکوں میں مشغول تھے سنی فرقہ کے رواج کو تمام اختلافات کے باوجود قبول کر لیا اور یہ اسی

معنی میں تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبھی ساتھی اور اصحاب احترام کے قابل ہیں ان میں سے ایک عثمان بھی ہیں جو صدر اول کے مسلمانوں کے مختلف گروہوں کے نزدیک خلافت کی شائستگی کے بارے میں شک و شمہر کر رہے تھے وہ لوگ مورد احترام قرار پائیں... ادبیات کالج اور انسانی علوم مشہد کے جریدہ، شمارہ سلسلہ ۵۶، ص ۷۳۳۔

(۸۸) معتزلہ کی بڑی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ تھی کہ ٹھیک جس زمانے میں ان کی سیاسی، معاشرتی، فکری اور مختلف دینی نظریات رو بروval تھے۔ اپنے آخری اعتقادی اصول و قواعد کو جمع کرنے کے لئے کمر بستہ ہو گئے۔ اس پختگی کی معراج کو قاضی عبدالجبار کی کتابوں میں دیکھا جاسکتا ہے اُغمی، نامی کتاب کے علاوہ کہ اس کی عظمت اور اہمیت کے باوجود علماء اہل سنت کے ذریعہ غفلت بر تی گئی ہے کہ فقط اس صدی کے پچاس کی دہائی میں میکن میں، معتزلی زیدیوں کا مرکز سامنے آیا، اس کے لئے الاصول الخمسہ، جو معتزلی فکر کی کتابوں میں سے بہترین کتاب ہے اور اپنی پہلی دالی کتابوں سے زیادہ شرعی و قرآنی بنیادوں پر استوار ہے اس کی طرف رجوع کریں۔ اگر یہ کتاب میں اور دوسری اس طرح کی مشابہ کتابیں جلدی یا کم از کم ابوالحسن اشعری کی کتابوں کے ہمراہ آجائیں تو اشاعتِ اس طرح کا کامل غلبہ حاصل نہیں کر پاتے۔ اس بارے میں کہ اشاعتِ کتب حالات میں میدان میں آئے اور کتنے اسباب کی وجہ سے کامیاب ہوئے، اس کے لئے بغداد کے بزرگ حنبلیوں کے ساتھ اس کی گفتگو کے ذریعہ آپ طبقات الحنابلۃ، مکلفہ بر بہاری کی ج ۲، ص ۱۸-۱۹ پر رجوع کریں۔

(۸۹) ابن حنبل اور معتصم کی گفتگو کی طرف الفکر والدعوه في الاسلام، نامی رجال کی کتاب،

مولفہ ابو الحسن ندوی، کے صفحات ۱۱۸۔۱۲۰ پر رجوع کریں اور خاص طور پر آپ، مناقب الامام احمد بن حنبل، نامی کتاب میں جوابن جوزی کی مولفات میں سے ہے کے ص ۳۹۷۔ ۴۳۷ پر رجوع کریں، جو معتضم اور والق سے اپنی بحثوں کی داستان کو تفصیل کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔

(۹۰) *خیال الاسلام*، کی ج ۳، ص ۷۶۔ ۷۵، شرح ابن ابی الحدید، کی ج ۴، ص ۴۵ سے نقل کی گئی ہے، اس کی طرف رجوع کریں۔

(۹۱) *خیال الاسلام*، ج ۳، ص ۸۶۔ ۸۸۔

(۹۲) *حوالہ سابق*، ص ۸۹۔

(۹۳) مقدمۃ ابن خلدون، ج ۲، ص ۰۷ اور ۹۰۔ ۹۱۔

(۹۴) ابن حوم: حیاتہ و عصرہ و آراء و فقہہ، ص ۴۸۳ پر رجوع کریں؛ مزید وضاحت کے لیما سی کتاب کے ص ۴۸۳۔ ۴۸۵ پر رجوع کریں اور اسی طرح اس میں بھی رجوع کریں:

The Zahiris Their Doctorine and their ,Goltziher  
.207- PP.190,History

(۹۵) جیسا کہ ہم پہلے کہے چکے ہیں کہ شیعوں کے علاوہ صرف معتزلہ ہی تھے جو صدر اسلام کی تاریخ کو تدقیدی زاویہ نگاہ سے دیکھتے تھے: فخر الاسلام، ص ۲۶۶۔ ۲۷۸، ان کے با مقابل اہل حدیث اور حنبلی فرقہ کے لوگ تھے جو اس تاریخی دورہ کو مقدس اور اس دور کے لوگوں کو مقدس ہونے کے علاوہ کچھ اور سوچ ہی نہیں رہے تھے: چونکہ بنی امیہ کی تاریخ ان کے

دشمنوں یعنی بنی عباس کے دور میں تحریر کی گئی الہذا ان کی خوبیاں نہیں لکھی گئی ہیں۔ لیکن احمد بن حنبل بعض امویوں کے صفات کو نقل کرتا تھا جس کی بنا پر مستشرقین کو ان کی ان صفات کی تعریف کرنے پر مجبور کرتا تھا مثلاً ان کی امانت داری اور شجاعت کے بیان کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ ضحیٰ الاسلام، ج ۲۲، ص ۱۲۲۔ ابن حنبل کی یہ روشن زمانہ کے تقاضہ کے مطابق تھی فقط اس کے قطعی اعتقاد سے اس تاریخی دور کی حقانیت اور اس زمانہ کے افراد سے وجود میں آئی تھی۔ اس سلسلہ میں خاص طور پر الائمة الاربعة، کی ج ۴، ص ۱۱۷، پر رجوع کریں ان دو گروہ کے علاوہ عموماً اہل سنت متوسط موقف کے حامل تھے۔ الاقتصاد فی الاعتقاد، کے ص ۲۰۳۔

۲۰۵۔ گب کے نظریات سے اس کا مقایہ کیجئے۔

(۹۶) یہ کہ اجتہاد و آوقل، (تاویل) کس طرح ان لوگوں کی برائیت کا سبب بنا جو لوگ برے کاموں میں ملوث اور مفسد تھے اس کے لئے آپ مقدمہ ممتنع سید محمد تقی الحکیم انص والا اجتہاد، نامی کتاب کی طرف رجوع کریں و نیز یہ کہ خود اپنی کتاب میں اجتہاد کے کیا معنی ہیں، کہاں اور کن موقع پر اجتہاد کر سکتے ہیں اس کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح آپ الغدیر، کی ج ۱، ص ۳۴۱۔ ۳۴۹ کی طرف رجوع کریں۔

اس مقام پر مناسب ہے کہ ایک نمونہ ذکر کریں۔ اس وقت جب خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کی بیوی کے ہتھیانے کی لائچ میں پڑ گیا اور اس کو قتل کر دیا اور وہ مدینہ واپس آگیا، عمر نے ابو بکر سے چاہا کہ اس سے قصاص کرے۔ ابو بکر نے جواب میں کہا: اس کو قتل نہیں کروں گا۔ کیونکہ اس نے اجتہاد کیا اور اس میں اس سے خط اسرزد ہو گئی ہے۔ الاسلام و اصول

الحکم، کے ص ۱۷۹ پر رجوع کریں اس مفہوم سے بعد میں وسیع پیانہ پر استفادہ کیا گیا۔ مجرمین کو بھی بری کرنے کے واسطے اور ان کی تاریخی و راثتوں سے بھی بری کرنے کے لئے اور اسی طرح سے اہل سنت کی تاریخی، کلامی اور فقہی افکار کو بنانے سنوارنے کے لئے بطور نمونہ آپ کنز العمال میں، خالد بن ولید کے نضائل کے باب میں، ج ۱۳، ص ۳۶۶۔ ۳۸۰ پر رجوع کریں۔

بے شک اس کو منظم کرنے کی ضروریات میں سے ایک یہ ہے کہ پہلے درجہ پر دائرہ اجتہاد کو وسعت دی جائے اور دوسرے درجہ میں ان اختلافات کی تفسیر تو جیہے تھی جو دو قابل اعتماد افراد کے درمیان پیدا ہو گئی تھی۔ مثلاً عمر اور خالد بن ولید شعبی کے درمیان اختلاف کے اسباب کے بارے میں جو پہلی صدی کے آخری سالوں کے بزرگ فقہاء میں سے ایک ہیں اور اہل سنت کے فقہی و کلامی افکار کو منظم کرنے اور بنانے سنوارنے میں ایک مؤثر اور اساسی کردار ادا کرتے ہیں وہ اس طرح کہتے ہیں: خالد عمر کا میرا بھائی (امام زاد بھائی) تھا پچھنے میں دونوں نے لڑائی کر لی۔ خالد نے عمر کا پاؤں توڑ دیا جو ایک عرصہ دراز کے بعد اچھا ہوا۔ یہی واقعہ دونوں کے درمیان عداوت کا سبب بنا۔ کنز العمال، کی ج ۱۳، ص ۳۶۹ اور اسی طرح آپ عمر ابن الخطاب، نامی کتاب کی طرف جو عبدالکریم الخطیب کی تصنیف ہے، اس کے ص ۴۲۰۔ ۴۴۰ پر رجوع کریں۔

جنگ جمل و صفين کی توجیہہ اور تفسیر کے بارے میں کہ اس میں اس زمانہ کے برجستہ افراد ایک دوسرے کے مقابلہ میں بغیر اس بات کے کہ ان میں سے کسی ایک کی بھی شخصیت اور موقعیت

داندار ہوا اور پوچھتا چھکی جائے، اس کے لئے آپ مناقب الخلفاء الاربعة فی مؤلفات الشیعیة، عبدالستارالتونسی کی تحریر کے، ص ۶۴۔ ۷۰۔ پر رجوع کریں اور اسی طرح آپ البدعة تحدید ہا و موقف الاسلام منہما، کے ص ۲۵۔ ۶۱، پر رجوع کریں۔ اثر عزت علی عطیہ، اس باب کے سلسلہ میں خاص طور پر آپ، العواصم من القواسم، محب الدین الخطیب کے حوالی پر ملاحظہ کیجئے۔ وہ کتاب جو تاریخی اور دینی توجیہ کی شاہ کار ہے اور یہاں تک کہ اس میں تاریخی اور دینی مسلمات کو اس کی حقیقی اور واقعی شکل کے خلاف مختلف شکل میں تفسیر اور توجیہ پائی جاتی ہے مثلاً اس کے واسطے آپ معاویہ کا حجر بن عدی کے قتل کر دینے کے دستور کو اس کے ص ۲۱۱۔ ۲۱۳ پر رجوع کریں اور خطیب کے حاشیہ کے ص ۲۱۲ پر ملاحظہ کیجئے و نیز آپ، خطیب کی جانب سے یزید کے دفاع کے لئے، ص ۲۱۴ پر رجوع کریں اور اسی طرح آپ، ص ۲۴۔ ۲۵۱ پر رجوع کریں کہ اس دوران ابن عربی، طبری کے علاوہ تمام مورخین کو مکوم کرتے ہیں اور یہ کہ خلفا کے فسق و فجور کی داستان کو کیوں نقل کیا ہے۔ اور اسی طرح آپ رجوع کریں۔ The Zahiris, I. Goldzihér.

.13-PP.3

اور اسی طرح آپ ابن حزم کے نظریات رائے و قیاس اور تعلیل کے بارے میں رجوع کریں۔

(۹۷) نمونہ کے واسطے، آپ صدر اسلام کے مسلمانوں کی بہ نسبت ابن حنبل کے مختلف نظریات اور زاویہ نگاہ کے لئے آپ۔ الائمة الاربعة، کی ج ۴، ص ۱۱۷ پر رجوع کریں اور

اس کو اس کے سیاسی افکار کے ساتھ مقایسه کیجئے حوالہ سابق ص ۱۹-۱۲۔ مخصوصاً آپ شرح کتاب السنۃ، متوالفة بر بہاری کی طرف رجوع کریں، چوتھی صدی ہجری کے عنبیوں کے بزرگ عالم، طبقات الحنابلۃ، کے ص ۴۵-۱۸ پر رجوع کریں۔ اور اسی طرح آپ الابانۃ عن اصول الدینۃ، ابو الحسن اشعری کی کتاب کے ص ۴۵-۱۸ پر رجوع کریں۔

(۹۸) پچھلے زمانہ کے لوگوں کے بارے میں قضاوت کرنے کا ضابطہ یہ ہے کہ اختلافی مسائل میں ان میں سے ہر ایک کا نظریہ اور موقف کیا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ صداقت و حقانیت دونوں طرف کی صداقت اور حقانیت یقینی (محرز) ہے اور اسی لئے اقدامات کی توجیہ کرنے کے واسطے بیٹھنا چاہئے۔ نمونہ کے واسطے فارسی ترجمہ ایہا الولد، غزالی، کے ص ۳۱-۳۱ پر رجوع کریں۔

(۹۹) آج کے جوان مسلمانوں کے درمیان انقلاب کی طرف مسلحانہ رجحانات اور میلان کی میزان کو کتاب الفریضۃ الغایبۃ، مصنفہ عبدالسلام جو جہاد اسلامی نامی فرقہ کے ایک نظریہ پر دعاز تھے انہیں ان آخری سالوں میں پھانسی دے دی گئی ہے، اس کتاب میں پتہ لگایا جاسکتا ہے۔ وہ اپنی اس کتاب کے ایک حصہ میں تحریر کرتے ہیں اس کے بعد کہ معاشرہ کو اسلامی کرنے کے واسطے تمام طریقوں کے بارے میں سفارش اور تجربہ کو بتایا گیا ہے اس بات سے عام ہے کہ احزاب اسلامی کی تاسیس کرنے، پڑھے لکھے مسلمانوں کی ایک نسل کی تربیت کرنا ان کے زمام حکومت کو اپنے ہاتھ میں لینے تک اور لوگوں کو راست کی ہدایت

اور وعظ و نصیحت کرنے اور دوسرے علاقہ میں ہجرت کر کے فاتحانہ طور پر واپسی کے لئے حالات کو ہموار کرنے اور انھیں کی طرح دوسری چیزوں کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں: اسلامی ممالک میں دشمن گھریلو یعنی داخلی ہے۔ (یعنی اپنے اندر ہی دشمن ہے) حقیقت میں وہی ہے جس نے سرداری کی کمان کو اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے۔ اس کی نمائندگی کو دوسری حکومتوں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، جس نے قدرت کو مسلمانوں کے ہاتھ سے اچک لیا ہے اور اسی وجہ سے تمام مسلمانوں پر جہاد واجب ہے۔ کچھ توضیحات کے بعد اضافہ کرتے ہیں: خداوند عالم کے فرمان کو جاری کرنے کے لئے اسلامی حکومت کے اقدام کرنا ضروری ہے۔ ہم اس پار یا اس پار کے نتیجہ پر اصرار نہیں کرتے۔ کافر حکومت کے نابود کرنے کے لئے ہر چیز مسلمانوں کے اختیار میں موجود ہے۔ پیامبر و فرعون، کے ص ۲۴۲ - ۲۴۷ پر رجوع کریں۔

(۱۰۰) سعد الدین ابراہیم مصر میں اسلامی مجاہدین کی اہم خصوصیات کو، ۸۰ اور ۷۰ کی دہائی میں اس طرح بیان کرتے ہیں: کسی گروہ کی عملی شدت پسندی ہرگز کسی حکومت اور دوسرے لوگوں کے خلاف جو اسلام کے نام پر عمل کرتے ہیں، ان کے خلاف وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔

P.29, Islamic Movements, Asaf Hussain.

(۱۰۱) نسل جدید کے اسلامی اور روشن فکر صاحبان قلم میں سے احتمالاً پہلا شخص جس نے کوشش کی تاکہ اپنی تعبیر کے مطابق ظاہری مسلمان حکام کی فریب دینے والی نقاب کو جس کو انہوں نے اپنے چہرے پر ڈال رکھی تھی اور حقیقت میں اس کے خلاف تھے کہ اس (نقاب) کو نوچ کر چینک دے، وہ سید قطب تھے۔ خاص طور پر انہوں نے اپنی اہم ترین اور آخری کتاب

معالم فی الطریق، اگرچہ یہ کتاب بعد میں بہت زیادہ تقدیموں کا نشانہ بنی اور بجز ان جوانوں کے جوانقلابی رجحان رکھتے تھے کسی ایک نے بھی اس کی کلیت کو قبول نہ کیا۔ حتیٰ کہ حسن الحضیی، اخوان المسلمین مصر کے رہبر، سید قطب کی پھانسی کے تختہ پر چڑھ جانے کے بعد صراحةً کے ساتھ ان کی کتاب دعاۃ لاقضاۃ، میں انتقاد کیا اور یوسف العظم، اخوان المسلمین کا مشہور ترین دانشور اپنی کتاب رائد الفکر الاسلامی المعاصر، کے نام سے ان کے بعض افکار پر تقدیم کی۔

لیکن ۷۰۔۸۰ کی دہائیوں کے سیاسی حالات نے ان کے افکار کی وسعت کے لئے مناسب حالات فراہم کر دیا۔ عملی طور پر سب سی دنیا کی موجودہ اسلامی تحریکیں خاص طور پر دنیاۓ عرب میں سید قطب کے افکار سے متاثر ہیں۔ چاہے اس کی افکار کو مجموعی طور پر قبول کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ لیکن یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ انہوں نے مبارزہ طلب اسلامی عقائد (Ideology) کو حاصل کر لیا ہے۔ انہوں نے ایک بند جگہ سے اپنی فنایت کا آغاز کیا اسی وجہ سے ایسا نہ کر سکے اور یہ ان کے بس کاروگ بھی نہیں ہے۔ وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کو اپنے اعتقادی اصول کو نظر انداز کرنا چاہئے اور اپنی اعتقادی بنیادوں کو اس کے علاوہ کسی اور چیز پر رکھیں۔ ہاں ایسا کر سکتے ہیں کہ ان اصول و ضوابط کی دوسری تفسیر کرنے لگیں لیکن یکسر ان کو پس پشت نہیں ڈال سکتے۔ جس وقت تک یہ ایسا کرتے رہیں گے تب تک ان کے پر اعتراض ہوتے رہیں گے اور کوئی اطمینان بخش جواب بھی نہیں دے سکیں گے اور ان کے اعتقادات بھی ترقی کی شاہراہ پر گا مزن نہیں ہو سکتے اور نہ ہی اس کو پانداری نصیب ہوگی۔

ان کی دوسری غلطی یہ ہے کہ ان لوگوں نے کوشش کی ہے کہ انقلابی لوگوں کی فداکاری اور ایمان واستقامت اور پائداری کے سبب اپنے مقاصد تک پہنچنے کو قطعی بنالیں۔ یہ خیال بسیاری طور پر غلط ہے۔ انہوں نے جز کو علت تامہ سمجھ لیا ہے اور اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اس پر تکیہ اور تاکید کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس سے نجات دے لیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی اس غلطی میں دوسرے انقلابی اور غیر اسلامی گروہوں کے جیسے ہیں۔ نمونہ کے طور پر فدائیان خلق انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی سے پہلے، پہلی دہائی میں انہیں توهہات اور غلطیوں میں مبتلا تھے۔ انہوں نے مصدق کے زمانہ کی مختلف پارٹیوں کو ان کی استقامت نہ کرنے کی وجہ سے ان پر تقيید و تبصرہ کیا ہے اور فقط فداکاری اور استقامت میں ہی کامیابی کا راز سمجھتے تھے۔ اس کے لئے آپ، جزئی، احمدزادہ اور صفائی فراہمی کی کتابوں کی طرف رجوع کریں اور خاص طور پر شخص اول یعنی جزئی کی کتابوں میں رجوع کریں۔ اسی طرح آپ، ایدہ لوثی و انقلاب، نامی کتاب کے ص ۲۱۴۔ ۲۲۰ پر۔ معالم فی الطریق نامی کتاب کی اہمیت کے باب اور اسی کے ذیل میں مختلف نظریات جو بیان کئے گئے ہیں، ان کی طرف رجوع کریں اور اسی طرح سید قطب کی کتاب مصنفہ عبداللہ عوض اس، ص ۳۲۵۔ ۳۲۹ پر رجوع کریں۔

(۱۰۲) دینی پابندیوں سے رہائی پانے کے لئے نسل جدید کی کوششوں کے بارے میں تامل آور السنۃ النبویۃ بین اہل الفقہ و اہل الحدیث، نامی کتاب خاص طور سے، اس کے ص ۷۔ ۱۲، مصنفہ محمد الغزالی جو موجودہ زمانے کے معتبر ترین دینی عالم ہیں اس میں ملاحظہ کریں

مفصل من العقيدة الی الشورۃ، نامی کتاب جو پانچ جلدوں پر مشتمل ہے اور دور حاضر کے روشن فکر اور اطلاع رکھنے والے شخص حسن حنفی کی تحریر ہے، خاص طور پر آپ ان کی جلد اول کے ص ۷۔ ۴۷ پر رجوع کریں۔

(۱۰۳) نمونہ کے طور پر ماوردی کی تصنیف الاحکام السلطانیة، کے ص ۵۔ ۲۱ پر رجوع کریں اور اسی طرح ابو یعلی کی تصنیف الاحکام السلطانیة، کے ص ۱۹۔ ۲۸ پر بھی رجوع کریں۔

## تیسرا فصل

### حکومت اور حاکم

گذشتہ فصل میں مختصر طور سے بیان ہو چکا ہے کہ صدر اسلام کی تاریخ کس طرح وجود میں آئی اور بعد میں کن زاویہ نگاہ سے غور و خوض کیا گیا، اس نظریے نے اہل سنت کے فقہ و کلام اور ان کے سیاسی عمارت اور نظریات پر کیا اثر چھوڑا۔ لیکن ہم جدید بحث و گفتگو کے آغاز سے پہلے، ایک مختصر مقدمہ بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ شیعہ اور اہل سنت کے درمیان اگرچہ بنیادی طور سے کافی حد تک اشتراک پایا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان دونوں کے فقہی اور کلامی مسائل بھی الگ الگ ہیں اور دو مذاہب کے پیروکاروں کے مذہبی رجحانات اور معاشرتی مسائل بھی جدا جدا ہیں۔ اس بات کو واضح کرنے کے لئے کہ ان دونوں مذاہب کے دینی نظریات کس طرح وجود میں آئے اور کن عوامل و اسباب اور مراکز سے متاثر ہوئے ہیں اور اس بات کا جانا بھی ضروری ہے کہ دونوں نظاموں کی حقیقت کیا ہے؟ اور تاریخی لحاظ سے یہ کیسے وجود میں آئے ہیں؟ اس مقام پر جو بات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے (جاننا پڑے گا) کہ ان دونوں مکاتب فکر کی سیاسی بنیادیں کن اصولوں پر استوار ہیں اور کن اسباب و عوامل سے متاثر

ہیں؟۔ کیونکہ ان دونوں مکتبوں کی سیاسی، معاشرتی تحریک بیہاں تک کہ فکری اور ثقافتی تحریکیں خواہ مخواہ انھیں خصوصیات کے زیر اثر ہیں، جب تک ان خصوصیات کو نہیں پہچانا جائے گا، اس کے نتائج اور اثرات کی چھان بین نہیں کی جاسکتی اور اس وقت تک ان دونوں فرقوں کی دینی تحریکوں کو صحیح طریقہ سے نہیں پہچانا جاسکتا۔ چاہے گذشتہ زمانہ کی تحریکیں ہوں، یادور حاضر کی تحریکیں۔

ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ وہ اہم ترین اصول جس نے ان دونوں فرقوں کے سیاسی نظریات کو جنم دیا، ان کی فہم اور تفسیر و توضیح کا سرچشمہ صدر اسلام کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ کے متعلق اہل سنت کی فہم اس کی حقیقت سے بالکل جدا ہے۔

دوسری اصل: حاکم کے سلسلہ میں اہل سنت کیا عقائد کی کیفیت اس لحاظ سے کہ وہ حاکم ہے۔ یعنی ان مسائل سے قطع نظر جو صدر اسلام میں پیش آئے اور اہل سنت نے اس سے جو سمجھا ہے، انہذا ہمیں دیکھنا چاہئے کہ حاکم کے متعلق اہل سنت کا نظریہ کیا ہے؟ اور اس نظریہ نے ان کے سیاسی نظریات پر کیا اثر چھوڑا ہے یا کیا اثر ڈال سکتا ہے۔ آخر کار تیسرا اصل یہ ہے: جو چیز اہل سنت کے علماء، فقہاء اور متكلمین کی نظر میں حاکمیت اور اس کی مشروعیت کے متعلق اہمیت کی حامل ہے وہ امنیت ہے نہ کہ عدالت۔ (یعنی حاکم کے لئے عادل ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ صرف امن قائم کرنا ضروری ہے) وہ لوگ (اہل سنت) امنیت اور ایسی قدرت کے متعلق جو امنیت کی ضمانت لے سکے حساس تھے نہ کہ عدالت یا مثلاً شرعی قوانین اور قواعد و ضوابط اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ پر اس طرح سے اجر اکرنا جیسے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے

زمانے میں تھی۔ شیعوں کا موقف اور زاویہ نظر آخری ان دو مسائل میں اہل سنت کے نظریے سے بالکل مختلف ہے۔ اس اختلاف کے نتیجہ اور عکس العمل کو ان دونوں فرقوں کے پیروکاروں کی دینی اور معاشرتی تحریکوں کی تاریخ میں دیکھا جاسکتا ہے۔

یہ لوگوں (عوام الناس) کی عدالت دوستی اور عدالت خواہی ہی تھی جو سیاسی اور معاشرتی تحریکوں کا سرچشمہ ہے، اتفاق سے شیعہ حضرات اپنی ابتدائی تاریخ سے ہی مفہوم عدالت اور دینی قوانین و ضوابط کے اجراء کے بارے میں پابند اور حساس اور اس پر زور دیتے چلے آئے ہیں۔ اور قیام عدالت اور دینی قوانین کی پابندی اور ان دونوں مسائل سے دفاع اور اس کے وجود عطا کرنے کو اپنا فریضہ سمجھتے آئیں ہیں۔ جب کہ اہل سنت کی نظر میں عدالت کا مسئلہ اہمیت کے دوسرے اور یا پھر تیسرا درجہ کی اہمیت کا حامل ہے۔ جو چیزان کی نظر وں میں اہمیت کی حامل رہی ہے اور اب بھی ہے وہ اقتدار اور نظام ہے البتہ اس کے ذریعہ امنیت بھی برقرار کی جاتی رہی ہے۔ اس مقام پر ہم الگ الگ تمام مسائل پر گفتگو کریں گے۔

### خلافت کی اہمیت

گذشتہ نصل میں بیان کرچکے ہیں کہ اہل سنت کے اس نظریہ کی پیدائش میں سب سے پہلا اور بنیادی سبب صدر اسلام کی تاریخ میں معاویہ کے اقدامات تھے۔

حضرت علی ابن ابی طالب کی شخصیت اور آپ کی قدر و منزلت سے (۱) اس کی رقبابت اور دشمنی اور آپ کے چاہنے والوں کو گوشہ نشین کرنے کی کوششوں کو بروئے کار لانا کہ سب کے

سب معاویہ کے نظریاتی مخالف تھے، اس (معاویہ) کو اس بات نے اس پر ابھارا کہ وہ اپنے تمام والیوں اور کارندوں کو حکم دے کر وہ آپ کو حلم کھلا برآ بھلا کہیں، (گالیاں تک دیں) سر عالم آپ پر تبرّ اکریں اور جیسی حدیثیں حضرت امیر کی فضیلت کے متعلق موجود تھیں، وہی کو دوسروں کے لئے بھی گڑھی جائیں اور انہیں کو رواج دیا جائے اور ان لوگوں نے یہ کام انجام بھی دیا۔

بے شمار دلیلوں اور وجوہات کے سبب حضرت امیر پر وہ سب و شتم اور لعن و طعن کا سلسلہ دیر پا نہ رہ سکا اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ جس کی اہم ترین دلیلوں میں سے وہ فضائل تھے جسے دوسروں کے لئے گڑھا گیا تھا۔ کس طرح ممکن تھا کہ دوسرے افراد ایسے فضائل و کمالات کے حامل ہوتے اور حضرت علی جو کم از کم انھیں کے جیسے ایک افراد اور انھیں کی طرح ایک خلیفہ ہوتے ہوئے بھی ان کے یہاں یہ سب فضائل اور کمالات مفقود تھے جس کی وجہ سے ان کی مخالفت کی جائے اور مورد لعن و طعن قرار پائیں اور ان کو گالیاں دی جائیں۔ (۲) اگر فرض کر لیا جائے کہ لوگوں میں ایسے عقائد کو قبول کروانے پر قادر تھے، تو ایسی صورت میں عام لوگوں کا عقیدہ خوارج کے مانند ہو جاتا اور اس کے نتیجہ میں خوارج ان سے نزدیک ہو جاتیا اور یہ چیز بھی خود نظام حاکم کے نزدیک نفرت اور خوف و ہراس کا باعث ہوتی، چاہے موجودہ نظام بنی امیہ کا ہوتا یا بنی عباس کا ہوتا، کیوں کہ خوارج ان (بنی عباس اور بنی امیہ) کے سرخخت دشمنوں میں سے تھے۔ لیکن دوسرے اقدام نے اپنا گہر اثر چھوڑا اور صدر اسلام کی تاریخ اور مسلمانوں کی شان اور اہمیت کو اعلیٰ درجہ تک پہنچا کر اس کو اسلام کے برابر کر دیا۔ البتہ

معاویہ کے نقشوں کے علاوہ، اس سلسلہ میں دوسرے اسباب و عوامل بھی دخالت رکھتے تھے جو ایسے عقیدے کے استحکام واستقرار میں مددگار ثابت ہوتے جن کی طرف میں درج ذیل عبارت میں اشارہ کر رہا ہوں۔

خلافے راشدین (ابو بکر، عمر، عثمان و حضرت علی) کے بعد والے خلافاً چاہے اموی ہوں یا عباسی اور چاہے ان کے علاوہ، وہ تمام افراد جو تاریخ اسلام میں خلیفہ کے عنوان سے سامنے آئے اور ان کی خلافتوں کو لوگوں کے درمیان قبول کیا گیا ہو، مصر کے خلافے مملوک کی طرح، عثمانی حکومت کے دورہ کے سلاطین، اپنی منزلت اور مقام کو منوانے کے لئے محتاج تھے کہ وہ اپنے لئے دینی شان و حیثیت کے قائل ہوں اور اسے لوگوں سے منوائیں۔ اور اس بات کے لئے بہترین وسیلہ یہ تھا کہ وہ اپنی ذات کے لئے نہیں بلکہ وہ اس منصب کے لئے ایسی حیثیت اور مقام و منزلت پیدا کرنا چاہتے تھے۔ جس گدی پر وہ خلیفہ بن کر برآ جمان تھے۔ تاکہ اس کے ذریعہ اپنے لئے جواز اور قانونیت ثابت کر لیں اور اس کا لازمہ یہ تھا کہ اپنی قدرت بھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافاً کی قدر و منزلت کو اونچا کیا جائے اور خلافت کو ایک الہی اور دینی امر بنا کر پیش کیا جائے اور خلافاً کے ماننے والوں (طرفداروں) اور خلافت کو مقدس ثابت کریں۔ کلی طور پر اس زمانے کی تاریخ اور اس کے لوگوں کو ایک خاص دینی اہمیت اور تقدس سے نوازیں۔ کیونکہ اس کے ذریعہ اپنے منصب خلافت کو ایک خاص حیثیت بلکہ ضرورت دین بنانے کے سامنے لا نئیں اور یہ عظمت خود ان کی شان و منزلت کو بھی شامل ہو جائے گی، اس لئے کہ اس کے سہارے خلیفہ یا حاکم بنے تھے۔ (۳)

درحقیقت اموی خلفا اس بات پر زیادہ مائل تھے کہ وہ خلیفہ کے عنوان سے بچانے جائیں۔ کیونکہ نتوان کو اس کی کوئی خاص ضرورت تھی اور نہ ہی ان کی ابتدائی اور جاہلیت کے زمانے کی فطرت اور لاپرواہی اور لاابالی گری سے سازگار تھی۔ لیکن خلفا بنی عباس، خلافت اور حکومت کا سہارا لئے بغیر باقی نہیں رہ سکتے تھے۔ مسلسل پانچ صد یوں تک ان حکومت کا باقی رہنا اگرچہ بہت سے حصوں میں ان کی حکومت و خلافت صرف ظاہری تھی، لیکن بہر حال اسی دینی خلافت کے عنوان ہی کی مرہون منت تھی جو چل رہی تھی۔ بنی عباس نے ان مسائل اور بدعنوں جس کی معاویہ نے مختلف دلائل کے تحت بنیاد ڈالی اور وہ اس کا بانی تھا انہیں کو بے حد اچھala۔ باوجود اس کے کہ بنی عباس کے دور میں معاویہ کی بہت سی کلی سیاستوں اور بنی امیہ کا یکسر انکار کیا گیا، لیکن دراصل یہ ایک استثنائی موارد میں سے تھا جس کی تائید و تصدیق کر دی گئی۔ کیونکہ پغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد آنے والے خلفا کا الہی اور مقدس ہونا خلافت کے نظام اور خلیفہ کے تقدیس کو ثابت کرنے اور اس کے ذمہ دار کیلئے مدگار تھا۔ (۴) دوسرا سبب جو ایسے موقف کی تقویت اور مدد کر رہا تھا، وہ شیعوں اور خوارج سے مقابلہ کی وجہ سے تھا۔ پہلی دو صد یوں بلکہ تین صد یوں تک چاہے اموی خلفا ہوں یا عباسی زیادہ اہمیت کے حامل مخالفین شیعہ تھے۔ اور یہ دونوں گروہ صدر اسلام کی تاریخ کے متعلق تنقیدی نظریہ رکھتے تھے۔ شیعوں کا نظریہ تو معلوم ہی ہے کہ دوسرے دوروں کی طرح صدر اسلام کو بھی جانتے تھے اور ان کے درمیان کسی فرق کے قابل نہیں تھے، لیکن خوارج خفاراشدین کے پہلے حصہ سے لے کر عثمان کے درمیانی زمانہ تک کی تائید کرتے تھیا اور دوسرے حصہ کو اپنے

نظریہ کے لحاظ سے شرک اور دین سے خروج کی تاریخ سمجھتے تھے۔ مزید یہ کہ خوارج کا پہلے حصہ سے ان کی اپنی سمجھتے سے بالکل دوسرے لوگوں کے فہم کی طرح نہیں تھی اور ان لوگوں کی بہ نسبت کچھ مختلف تھے۔ وہ لوگ (خوارج) خشک ذہنیت کے مالک افراد تھے جو کبھی کسی فرد، شخص یا زمانہ کو تقدس کی نگاہ سے دیکھنے پر تیار نہیں تھے۔ بلکہ وہ صرف اس زمانہ کو جوان کی رائے کے موافق تھا، یعنی اس دور پر کفر کا فتویٰ نہیں دیتے تھے، اسے قبول کرتے تھے۔ (۵) بہر حال عام مسلمانوں کی نگاہ میں ان دونوں گروہوں سے مقابلہ کرنے کی وجہوں میں سے ایک وجہ تھی کہ یہ دونوں گروہ اس بات کا اقرار کریں کہ صدر اسلام کی تاریخ کی حقانیت ان کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، اس ہدف تک پہنچنے کے لئے سب سے بہترین طریقہ یہ تھا کہ جتنا ممکن ہو اس دور کی تعریف اور تحسین کریں۔ اس دور کی الہی اور دینی قدر و قیمت عام لوگوں کے نزدیک جتنی زیادہ ہوتی جائے گی، مخالفین اتنا ہی خلع سلاح (نہتھے) ہوتے چلے جائیں گے۔ اس دور کے خلافاً کا ایک اہم ترین اور دھوکہ دھڑکی والے حربوں میں سے ایک یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے مخالفین سے کہا کرتے تھے کہ تم ہمیں ناحق سمجھتے ہو اور ہم سے مقابلہ کرنے کے لئے کمر بستہ ہو خود تم ہی لوگ مشروعیت نہیں رکھتے ہو۔ یعنی خود تمہاری بھی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ کیونکہ صدر اسلام اور اس دور کی شخصیتیں تمہارے لئے مورد احترام اور اعتقاد نہیں ہیں (۶) خاص طور پر اتفاقاً یہ تہمت شیعوں کے اوپر زیادہ سخت موثر تھی اور ایک زمانہ تک بہترین حرబے کے عنوان سے شیعوں کے خلاف استعمال کی جاتی تھی۔ گذشتہ تاریخ میں ایسی بیشمار مثالیں مل سکتی ہیں جو اس حرబے کے ذریعہ مخالفین کی تحریک کونٹھے میں (شروع میں) ہی

اس کا گلاں گھونٹ کر ان کو نیست و نابود کر دیا اور ان کا شیرازہ بکھر گیا۔ اگرچہ ابھی تک یہ حرہ بہ کند نہیں ہوا اور خاص طور سے آج بھی سعودی اور ان کے ہم خیالوں کے ذریعہ یہ حرہ وسیع پیمانہ پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ (سعودی) اپنی شیطانی چال کے ذریعہ صدر اسلام کی ایسی تصویر پیش کرتے ہیں جس کے مقابلہ میں ہر طرح کے تنقیدی موقف کو باطل اور محکوم کر دے تے ہیں اور اپنی پوری طاقت و قدرت کے ذریعہ آگ کو شعلہ ور بنانے میں ہوا کام کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعہ شیعہ کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکائیں اور ان کو لوگوں کی نظر میں برا بن کر گوشہ نشین کر دیں اور اسی طرح ہر اصلاح طلب تحریک کو بھی اسی عنوان کے تحت چکل دیں۔ اس لئے کہ عموماً اصلاح طلب اور انقلابی تحریکیں اہل سنت کی نگاہ میں صدر اسلام کی تاریخ کے مقابلہ میں تنقیدی موقف کے حامل ہیں بلکہ اصولی طور پر خود تاریخ اسلام کے ہی خلاف تنقیدی موقف کے حامل ہیں اور جب اصل نظریہ اور طرز فکر ہی مورد سوال واقع ہو جائے گا تو لامالہ اس (نظریہ) کے قائلین بھی موردنہ دید قرار پائیں گے اور ان کے مخالفین کا اصلی ہدف اور مقصد بھی یہی ہے۔ (۷)

درحقیقت یہ دو اہم اور سیاسی اسباب تھے جو صدر اسلام کے الہی اور دینی پہلو کی زیادہ سے زیادہ تقویت کرنے میں مددگار تھے۔ معاویہ کے بعد کے، خلفاء، بھی مختلف انداز میں مختلف عنوان کے تحت ان اسباب کے محتاج تھے اور اس بات پر تاکید کرتے تھے۔ یہ ضرورت بھی اس وقت تک باقی تھی، جب تک ان کی خلافت برقرار رہی۔ یعنی عملی طور پر موجودہ صدی کی ابتدا تک اس کے بعد بھی آنے والی حکومتوں کے حاکم جو خود اپنے آپ کو اپنے زعم ناقص میں

سلف صالح کا پیر و سمجھتے تھے وہ لوگ بھی اس کی ضرورت محسوس کرتے تھے۔

## صدر اسلام کا تقدس پاانا

البتہ اس دوران دوسرے اقدامات بھی انجام پائے جس کے نتیجہ میں ان حوادث میں مزید شدت پیدا ہو گئی اور اس میں بھی معاویہ ہی اساسی کردار کا حامل تھا۔ معاویہ نے اپنے حق اور اپنی حکومت کی حقانیت اور مشروعیت کا دفاع کرنے کے لئے دوسری گندی اور دھوکہ دھڑکی کی سیاست کا سہارا لیا، جس میں اس کو بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوئی اور اس نے مسلمانوں کے نزدیک صدر اسلام کی تاریخ کے چہرے پر تقدس کے نقاب اوڑھانے میں بھرپور مددگار تھی۔ وہ چاہتا تھا خود اپنے اور اپنی حقانیت اور پہلے والے خلفا اور ان کی حقانیت، خاص طور سے ابو بکر اور اپنے درمیان تعلق برقرار کرے۔ لیکن جب تک حضرت علی زندہ رہے، نہ تو یہ حربہ کامیاب ہو سکا اور نہ ہی حضرت امیر المؤمنین علی نے اس سے سوء استفادہ کی ہی اجازت دی، آپ کی بے نظیر شخصیت، آپ کی موقعیت (قدر و منزلت) اور آپ کا منحصر بفرد ماضی اور آپ کا مسلمانوں کی اکثریت آرائی کے اتفاق سے خلافت اور امامت کی مند پر رونق افروز ہونا، ایسے وسیلہ سے سوء استفادہ کرنے میں ایک بہت بڑا مانع اور رکاوٹ تھی۔ لیکن جب امام علی کی شہادت ہو گئی اور امام حسن نے حکومت کو سنہالا تو ان حربوں سے غلط استفادہ ممکن اور آسان ہو گیا۔ بہتر یہ ہو گا کہ اس حربہ سے سوء استفادہ کی کیفیت کو خود معاویہ ہی کی زبانی نہیں۔

معاویہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے اس خط کے جواب میں جس میں صلح اور جنگ سے خلاجی کے مسئلہ کو بیان کیا گیا تھا، اس نے اس طرح لکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحہ رحلت کے بعد اس امت نے جس وقت آپ کی فضیلت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ سے آپ کی قرابت اور درخشش ماضی اور اسلام و مسلمانوں کے درمیان آپ کی قدر و منزلت کو جانتے ہوئے اس سلسلہ میں اختلاف کیا تو کیا اس وقت وہ لوگ ان سب باتوں سے بے خبر تھے؟ ان لوگوں نے مصلحت اس میں جانی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے قرابت داری کی بناء پر، قریش خاندان کے افراد حکومت و خلافت کی باگ ڈورا پنے ہاتھوں میں لے لیں۔ قریش و انصار کے بزرگوں اور ان کے علاوہ بھی دوسرے لوگوں نے بھی کہا کہ خلافت کی ذمہ داری کو قریش کی ایسی شخصیت کے سپرد کریں جو اسلام قبول کرنے کے اعتبار سے قریم تر ہو خدا کی بہ نسبت اس کا علم اور اس سے اس کی دوستی زیادہ اور گہری ہو اور اس کے امر میں سب سے قوی اور مقتدر ہو، لوگوں نے ابو بکر کو چین لیا اور یہ کام (انتخاب) صاحبان عقل و دین و فضیلت اور اس امت کے آگاہ ترین لوگوں کی رائے سے انجام پایا۔ اور اگر تمہارے درمیان مسلمان لوگ کسی کو ان صفات کا حامل پاتے تو شروع سے ہی اپنی رائے سے نہ پلٹتے۔ لہذا انہوں نے اپنی نظر میں اسلام اور مسلمانوں کے حق میں جو بہتر سمجھا، اسی پر عمل کیا۔ اور ہماری تمہاری کہانی بھی حضور کی رحلت کے بعد تمہاری اور ابو بکر کی داستان کی طرح ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحہ کی رحلت کے بعد اگر میں اس بات کو جانتا کہ تم مجھ سے زیادہ اس امت کے امور کو سنبھالنے کی قدرت رکھتے ہو تو میں ہر اس چیز کو جس کی طرف مجھے

دعوت دے رہے ہو قبول کر لیتا۔ لیکن تم خود بھی اس بات کو جانتے ہو کہ میری حکومت کی مدت اور میرا تجربہ تم سے زیادہ ہے۔ میں تم سے زیادہ سیاس اور تم سے زیادہ سن رسیدہ ہوں لہذا تمہارے لئے بہتر یہ ہو گا کہ جس بات کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو اس میں تم میری بات مانو اور میری اطاعت اور میرے حکم کی پیروی کرو... ) (۸)

معاویہ اس بیان کے ضمن میں اس بات کی کوشش کر رہا تھا کہ انہیں گذشتہ دلائل کا سہارا لے کر اپنے آپ کو قانون مندا اور اس سے اپنی مشروعیت ثابت کرے جن دلائل کے سہارے ابو بکر نے اپنے آپ کو مشرع اور قانونی ثابت کیا تھا اور اس طرح تنظاہر کرتا تھا کہ اس کی داستان بھی ابو بکر کی ہی داستان ہے اور یہ کہے کہ جن معیار کے تحت ابو بکر نے مقبولیت اور مشروعیت حاصل کی ہے اس نے بھی بالکل اسی کی طرح مشروعیت اور قانونیت حاصل کی ہے۔ اور حتیٰ کہ امام حسن کو بھی اس کے مقابلہ میں سر تسلیم ختم کر دینا چاہئے۔

محمود صحنی اس سلسلہ میں یوں بیان تحریر فرماتے ہیں: معاویہ کا یہ خط عام طور سے مسئلہ خلافت، خاص طور سے بیعت ابو بکر کے سلسلے میں اہل سنت و جماعت کے عقیدم اور نظریہ کی سب سے پہلی کلامی تفسیر ہے۔ معاویہ نے اقتدار پاتے ہی، کلامی اور عقیدتی کامیابی حاصل کر لی۔ اور اس طریقہ سے تمام سنی مسلمانوں کے عقائد کا بیان کرنے والا بن جائے... اس نے اس فرصت سے فائدہ اٹھایا، تاکہ خلفا اور بزرگان اصحاب کے دفاع کی ذمہ داری کا خود بے نفس نفیس عہدہ دار ہو جائے اور اس طریقہ سے مسئلہ خلافت میں اپنے دعویٰ کو شرعی رنگ دے دیا اور بڑی ہی چالاکی کے ساتھ ابو بکر کی بیعت سے دفاع کے قالب میں اپنے دعویٰ کو پیش

کر دیا۔ اس تفسیر اور تحلیل کی رو سے اس نے خلافت کو غصب نہیں کیا اور خود زبردستی امت کے اوپر نہیں لاد تھا۔ بلکہ اس کی موقعیت اور حیثیت ابو بکر کی موقعیت اور حیثیت کی طرح تھی۔ وہ امور مملکت کو چلانے میں دوسروں سے قویٰ تر اور دیگر میدانوں میں دوسروں سے زیادہ سیاسی سوچ بوجھ کا مالک اور دوسروں سے زیادہ تجربہ کار اور عمر میں بھی سب سے زیادہ سن رسیدہ تھا۔ اس طرح حضرت امام علی علیہ السلام کے دور میں عثمان کے خون کا انتقام لینے پر ممکن معاویہ کا دعویٰ زیادہ خطرناک، موثر، مقبول تر نظریہ میں تبدیل ہو گیا جو اس کے خلافت تک پہنچنے کی ہوں کے لئے اپنے مدد کے مطابق جواب دھتا اور خلافت کو معاویہ کے حق میں ثابت کرتا تھا۔<sup>(۹)</sup>

نتیجہ یہ کہ ان عوامل اور اسباب کے علاوہ جن کو پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ جن اسباب نے معاویہ کو اس بات پر ابھارا کہ وہ اپنے مخالفوں اور ان میں سرفہرست شیعوں کے حوصلوں کو پست کرنے اور لوگوں کے ذہنوں میں حضرت علی علیہ السلام کی قدر و منزلت گھٹانے اور گرانے کے لئے صدر اسلام کی تاریخ اور اس کی شخصیتوں کو دینی قدر و منزلت سے نوازے، دوسرا سے اسباب بھی پائے جاتے تھے جو معاویہ کو اس کام کے لئے رغبت دلاتے تھے۔ اسے امام اور آپ کے شیعوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے، چاہے آپ کی زندگی میں یا اس کے بعد اس تاریخی دور کا سہارا لئے بغیر اپنی مراد کو نہیں پاسکتا تھا۔ اسے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اس کا محتاج تھا اور مختلف عنوانوں کے تحت اس سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ ان اسباب سے اس طرح فائدہ اٹھانا جس کو بعد میں اہل سنت کے فقہی اور کلامی عمارت، خصوصاً امامت

اور خلافت کے مسئلہ میں، ایک بلند مقام حاصل کر لیا تھا۔ بے شک اگر امام علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور شخص معاویہ کا اصلی رقیب ہوتا، یا امام علیہ السلام کے سامنے معاویہ کے علاوہ کوئی اور شخص اپنی ان خصوصیتوں کے ساتھ ہوتا، تو نہ صرف یہ کہ زمانہ کی تاریخ کسی اور شکل میں سامنے آتی، تقریباً یقینی طور سے جس میں اس زمانے کے اہل سنت کی فقہی اور کلامی عمارت اور اس کی آج کی عمارت میں بہت بڑا فرق پیدا ہو جاتا۔

البتہ مذکورہ اسباب کے علاوہ جو اکثر سیاسی تھے دوسرے دو دینی اسباب بھی پائے جاتے تھے جو ان حادثت کی مذکورہ عبارت میں ہم ان کی طرف اشارہ کریں گے۔

### جدید مسائل

پہلا سبب دین کے مختلف مسائل چاہے وہ فقہی مسائل ہوں یا کہ کلامی اور خصوصاً فقہی مسائل کے جواب دینے کی ضرورت تھی کہ مسلمان پہلی صدی کے آخر بلکہ پہلی صدی کے وسط سے ہی ان مسائل سے دوچار ہوئے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کی سنت میں اس کو صریح اور واضح جوابات نہیں مل پاتے تھے۔ وہ لوگ مجبور تھے کہ اس مشکل کو حل کرنے کے لئے چارہ جوئی کی فکر میں پڑیں، اس کا ایک بہترین راہ حل یہ تھا کہ صدر اسلام کی تاریخ کو دین کے مساوی کر دیں اور ان مسائل کے جوابات کو صرف سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ سے ہی اخذ نہ کریں بلکہ اس دور سے بھی حاصل کریں اور یہ ایک فطری عمل ہوگا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانہ میں اسلامی معاشرہ، ایک محدود معاشرہ تھا۔ ضروریات

بھی کم تھیں اور روزمرہ پیش آنے والے مسائل بھی کم تھے۔ جب بھی کوئی جدید مسئلہ پیش آتا تو اسے بغیر کسی واسطہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں سوال کر لیتے تھے۔ لیکن یہ حالات اسلام کی تیزی سے ترقی کے سبب تبدیل ہو گئے اور خصوصاً ابتدائی اہم فتوحات اور دینی جوش و جذبہ کے قائم جانے اور اسلامی معاشرہ پہلی صدی کے وسط سے پر سکون ہونے کے پھر سے بعد بدل گئے۔ مسئلہ نہیں تھا کہ معاشرہ کی اور کیفی (عدد اور کیفیت کے) اعتبار سے ترقی کر چکا تھا۔ بلکہ کیفیتی پیچیدگی جو کی (افراد کی کثرت والی) ترقی کی وجہ سے وجود میں آئی تھی کئی گناز یادہ تھی اور روز بہ روز پیچیدہ تر ہوتی جا رہی تھی۔ ملتیں، شاقفیں، فلفے، مذاہب اور مختلف فرقے اور ادیان نئی قدرت کے ماتحت تھے جس پر دینی رنگ چڑھا ہوا تھا، دینی دعوت بھی تھی اسی اعتبار سے وہ وجود میں آئے ایسے معاشرے نئے نئے بہت زیادہ مسائل بھی اپنے ساتھ لیکر آئے جو جواب کے طالب تھے۔ ایسے جوابات جو واضح درشن اور عملی ہوں صرف نظری نہ ہوں کیوں کہ ضروری تھا کہ معاشرہ کو انھیں جوابات کی بنیاد پر چلا�ا جائے۔ درحقیقت یہ جوابات ایسے قوانین تھے جو معاشرہ کو نظم و ضبط عطا کرتے تھے۔

یہاں پر پریشانی یہ تھی کہ ان جدید مسائل کے کچھ ہی حصے کا جواب سنت پیغمبر میں صریح اور مستقیم طور پر دیا گیا تھا۔ (۱۰) یہ سوالات جدید موضوعات سے متعلق تھے جو اس زمانہ میں نہ تو نظری اعتبار سے ہی وجود رکھتے تھے اور نہ ہی عملی لحاظ سے۔ لیکن اب (جدید زمانہ میں) نظری لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی جواب کے خواہاں تھے۔ اسی پس و پیش میں مسلمان

مجبور ہو گئے کہ حیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور سے زیادہ طولانی زمانے کے لئے اور ایک عرصہ دراز کے لئے دینی رسمیت کے قائل ہو جائیں اور یہی وہ خلفاء راشدین کا دور تھا۔

بے طرف اور حقیقت میں نظریہ کی بنیاد پر یہ کہنا چاہیے کہ حق انھیں لوگوں کے ساتھ تھا، اگر یہ طے ہو کہ تاریخ اسلام کے ایک حصہ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور سے ظاہری شاہت کی بنی پر قانونی سمجھا جائے، بیشک یہ وہی دور تھا۔ خاص طور سے جس پر اکثر مسلمانوں کا اتفاق بھی ہے اور ان کے نزدیک موردا حترام بھی اور ان کے بعد جتنے بھی دور گزرے ہیں ان کے اندر یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی تھی۔ جس کے نتیجہ میں اس دور کو استمرار سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ سمجھایا گیا اور ان بے شمار پیش آنے والے سوالوں کے جوابات کیلئے اٹھ کھڑا ہوا۔ خصوصاً اس زمانے میں جب اجتہاد فقہی، اس کے ارکان اور وہ روش وجود میں نہیں آئی تھی جیسا کہ بعد میں پھولا پھلا، لہذا ہر موقع پر مجبور تھے کہ نص پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کی طرف رجوع کریں۔ (۱۱)

لیکن شیعہ بنیادی طور پر ان مشکلات سے دوچار نہ تھے۔ ان کے عقائد میں ائمہ معصومین (ع) کا قول فعل اور تقریر (کسی کام کے سامنے معصوم کا خاموش رہنا) وہی سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ تھی اس عقیدہ کو نہ تو کسی تاریخی ضرورت نے شیعوں پر تمیل کیا تھا اور نہ ہی کسی دوسرے سبب نے۔ بلکہ اصل امامت پر ان کے فطری اور منطقی اعتقاد کا نتیجہ تھا، جس معنی میں وہ سمجھتے اور تفسیر کرتے تھے، ویسے ہی تھا۔ اس طرح سے ان کی نظر میں ۲۶۰ ہجری قمری تک

جو امام حسن عسکری کی رحلت کا سال تھا، ایک معتبر اور شرعی سنت کے اعتبار سے چلتا رہا۔ یعنی اور بہت ہی متنوع میراث جو مختلف مسائل کے جوابات کا حصل تھی جو ۲۷۳ سال تک زمانہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے لے کر ائمہ (ع) کی امامت کے زمانے کے علاوہ غیبت صغری کے آغاز تک لوگوں کے درمیان رائے تھی، نیز اصل اجتہاد اور اس کی حد بندی اور اس کے مبانی (معیار و ملاک) کی تعین پر شیعوں کی تاکید بھی تھی، اصولاً اہل سنت کے نزدیک جن موضوعات کی بہت سخت احتیاج تھی اس ضرورت کے احساس کو بالکل ختم کر دیا تھا۔

### نفسیاتی جاذب و قلبی کشش

دوسرے سب ایک نفسیاتی اور دینی سبب تھا، اصولاً انسان جذبیتی اور نفسیاتی لحاظ سے ایک ایسے وجود کا نام ہے جو ان تمام چیزوں کو دوست رکھتا ہے اور اس کی طرف لگا رکھتا ہے جو کسی نہ کسی طرح ایسی شے یا فرد سے وابستہ ہو جسے وہ چاہتا ہے۔ چاہے وہ وابستگی حقیقی اور واقعی ہو یا صرف وہی اور غیر واقعی کی حد تک ہو، (یعنی حقیقت و واقعیت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو) لیکن صرف یہی کافی ہے کہ وہ وابستگی کا تصور کرے۔ قدیم زمانہ میں یہ سب آج کل سے کہیں زیادہ قوی اور موثر تھا۔ آج کا انسان گذشتہ انسانوں سے زیادہ فکری اور نفسیاتی پر اگندگی اور پریشانی کا شکار ہے۔ جس کے نتیجے میں اس کی دوستی اور چاہت کی پائداری اور گہرائی بھی کم ہو گئی ہے۔ لیکن گذشتہ زمانے میں اگر کوئی کسی شے یا شخص کو دوست رکھتا تھا تو وہ اپنے تمام وجد کے ساتھ اس میں جذب ہو جاتا تھا اور جتنا زیادہ جذب کرنے یا جذب

ہونے کی کیفیت قوی تر اور عمیق ہوتی تھی اس شے یا شخص سے وابستہ دوسری اشیاء سے تعلق بھی اتنا ہی گہرا اور زیادہ ہو جاتا تھا اور اپنے محبوب کے لئے جن خصوصیات کا قائل ہوتا تھا خود اس سے وابستہ شے اور افراد کے اندر بھی انھیں خصوصیات کا قائل ہوتا تھا۔

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ پوری تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ محبوب اور مقدس ترین شخص تھے۔ خوبصورت ترین اور عارفانہ ترین تو صیف و تعریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے سلسلہ میں بیان ہوئی ہیں۔ اس میدان میں صوفیوں کے خواص سب سے آگے نکل گئے، فطرتاً اور نتیجتاً ایسی جذاب شخصیت کی مقناطیسی کشش آپ کے چاہنے والوں کے ذہن کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے حاشیہ نشینوں میں بھی سرایت کر گئی اور یہ کارروائی نظری اور انسانیِ عمل ہے۔ اصلاً یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی شخصیت کے مقناطیسی مدار میں جذب ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سے وابستہ اور منسلک افراد کو دوست نہ رکھے۔ اس مقام پر مسئلہ یہ نہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ سے وابستہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سے متعلق رہنے والے کون لوگ تھے اور ان کی زندگی کیسی تھی؟ بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ افراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے حاشیہ نشین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے اصحاب ہیں۔

صوفی حضرات بلکہ عام مسلمانوں نے پوری تاریخ اسلام میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے اطرافیوں اور صدر اسلام کو بھی اسی نگاہ سے دیکھا ہے۔ ان لوگوں کی نظر میں وہ بہترین دور تھا کیونکہ اس دور میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ بہ نفس نفس موجود تھے اور وہ لوگ بہترین

افراد میں سے تھے، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے ارد گر درہ کراپنی زندگی بس رکر رہے تھے اور اسی طرح سے اپنی زندگی گذار رہے تھے۔ البتہ اگرچہ یہ بات حق ہے لیکن اس کے حدود اور مفہوم کو واضح ہونا چاہئے۔ یہ سچ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور نے اس وجہ سے عزت اور شرافت حاصل کر لی تھی، کہ آپ اس دور میں زندگی بس رکر رہے تھیا اور سچ ہے کہ آپ کے حاشیہ نشین اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، سعادت و بزرگی کی توفیق سے سرفراز ہوئے۔ لیکن اس کے معنی نہیں ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانہ سے نزدیک والے ہر زمانہ میں لازمی طور سے زیادہ شرافت پائی جائے گی، تاکہ اس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکے کہ صحابہ کرام کا زمانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانہ سے نزدیک ہونے کی وجہ سے دوسرا زمانوں سے بہتر ہو گیا ہے اور مثلاً اسلام کو اسی صحابہ کے زمانے کے ذریعہ پیچانا جائے! اور یا صحابہ کا بزم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ میں حاضری کی توفیق حاصل کر لینے کے معنی نہیں ہیں کہ وہ اپنی عملی زندگی میں پابند دین اور متعهد مسلمان کی حیثیت کے حامل تھے۔ (۱۲)

بہر حال یہی روحی نظام اور نفسیاتی حالت سبب بنی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا تقدس صحابہ اور زمانہ صحابہ تک سراست کر جائے اور سب کے سب ایک قسم کے الہی لقنس کے ہالہ میں چھپ جائیں۔ اس نے خود اپنے طور پر بھی ان مسائل اور حوادث کی مدد کی ہے جس کا مقصد صدر اسلام کو دینی مقام و منزالت عطا کرنا تھا۔ یہ کہ شیعہ حضرات کیوں اس فطری حالت اور روحی نظام سے متاثر نہیں ہوئے اس پر خاص دلیل پائی جاتی ہے۔ وہ لوگ

(شیعہ) دوسرے مسلمانوں کی طرح ہمیشہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے والہانہ عشق و محبت میں سرشار تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کو بہترین اور برترین انسان جانتے تھے، لیکن شیعوں کے نزدیک بہت معتبر احادیث کی بنابر جوان کے نزدیک صحیح اور تمام ہیں... نہ کہ تمام اصحاب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بارے میں جو خاص گروہ سے اظہار محبت و مودت کرتے تھے۔ اگر ایسی حدیثیں موجود نہ ہوتیں تو شیعہ حضرات بھی دوسروں کی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کے معنوی شان و قدس کو دوسروں تک پہنچادیتے کیونکہ انسان کی فطرت اسی بات کا تقاضا کرتی ہے۔

اس مقام پر مناسب ہے کہ ایک نمونہ ذکر کریں اور یہ کہ بعد کے زمانہ میں آنے والے مسلمانوں کی نظر میں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے حضور کو درک کرنے نے کیا قدر و قیمت حاصل کی اور کس طرح افراد کی دینی اور معنوی صلاحیت کے پر کھنے کے لئے سب سے اہم ترین اور اطمینان بخش ترین ضابطہ اور میرزاں بن گیا۔

ابن حجر، ابن عبدالبر کے نظریے پر تنقید کرتے ہوئے جو اس بات کا معتقد تھا کہ ممکن ہے آئندہ آنے والے زمانوں میں لوگوں کے درمیان کچھ ایسے افراد بھی ہوں جو صحابہ سے افضل ہوں، جس کی دلیل یہ حدیث ہے: میری امت بارش کی طرح ہے اور یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی ابتداء بہتر ہے یا انتہا اور دوسری حدیثیں جو اس بات کی تائید کرتی ہیں، (ان کی تنقید میں) وہ (احادیث) اس طرح بیان کرتی ہیں: یہ ایک بہت ہی شاذ و نادر نظریہ ہے اور یہ حدیثیں اس مطلب پر دلالت نہیں کر رہی ہیں۔ اور پھر اس وقت وہ (ابن حجر) ان مطالب کے ذریعے کہ

جنھیں ابن مبارک سے نقل کیا ہے اپنے نظریے کی یوں تائید کر رہا ہے: عبد اللہ ابن مبارک نے بھی جو کہ علم و فیض اور معرفت کے اعلیٰ درجہ پر فائز تھا اس نکتہ کی تائید کرتا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ معاویہ اور عمر ابن عبد العزیز میں سے کون فضل ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا: خدا کی قسم رسول کے ساتھ میدان جنگ میں معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہونے والا غبار عمر ابن عبد العزیز جیسے سوا لوگوں سے بہتر ہے۔ اور وہ اس طریقہ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کادیدار اور آپ کی ہمراہی کا شرف اور انسان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی نظر کا پڑ جانا اتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ نہ تو کوئی عمل اس کے برابر ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی شرافت اس کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ (۱۳)

بے شک اس کے درمیان سیاست کا بھی کافی عمل دخل رہا ہے۔ لیکن ماننا پڑے گا کہ مسلمانوں نے اسی طرزِ تفکر کے ساتھ ترقی کی اور اس کی بنیاد پر ان کی شخصیت اور ذہنیت پھولی پھلی اور پروان چڑھی یہاں تک کہ گویا مسلمان اخلاقی، روحي، فطری اور دینی لحاظ سے ایک ایسے نظریہ کے محتاج تھے۔ اس کے علاوہ اندر وہ طور سے تعارض و تضاد سے دوچار تھا، ایسے مجموعہ میں سازگاری پیدا کر کے ایک مکمل کلامی نظام کو پیش کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔

اصولًا ہر صاحب ایمان اور معتقد انسان، دینی مسائل سے لیکر دوسرے مسائل تک، جس چیز پر اس کا ایمان و عقیدہ ہوا کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے معتقدات (عقائد) کو ایک ایسے مجموعہ میں پائے جس میں پورے طریقہ سے ارتباط اور ہما ٹھنگی پائی جاتی ہو اور ہر طرح کے تضاد سے خالی ہو۔ اسے حاصل کرے یہ اس کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ مسئلہ یہ نہیں

ہے کہ اپنے اعتقادات کو دوسروں کے سامنے پیش کرنے یا اپنے عقائد سے دفاع کرنے کے لئے ایسے اقدام پر مجبور ہے، خود اس کی اپنی داخلی ضرورت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ ایسی کوشش اور عمل کے بغیر لا جواب رہ جائے گا۔ اپنے عقائد کی بہ نسبت انسان کا قلبی سکون ان کے درمیان ہماہنگی اور سازگاری کا مر ہون منت ہے۔ انسان کی فطری اور عملی کوششوں کا اچھا خاصا حصہ چاہے دین سے متعلق ہو یا فکر و علم سے، اپنے عقائد کو ہماہنگ اور منسجم کرنے اور اس میں یک سوئی پیدا کرنے میں صرف ہوتا ہے اور یہ عموماً اندر و فی ضرورت کے تقاضا کے تحت ہوتا ہے۔

ایسی کوشش کے چند نمونوں کو جو صحابہ اور صدر اسلام کی شخصیتوں کی طرف پلٹتا ہے، اس نظریہ میں تلاش کیا جاسکتا ہے: اس امت میں اور اس کے علاوہ دوسری امتوں میں پیغمبروں کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں اور ان کے بعد عمر اور ان کے بعد عثمان پھر ان کے بعد حضرت علی ہیں۔ یہ کلام خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی زبان مبارک سے سنا گیا ہے اور اس کا انکار نہیں کرنا چاہئے۔ پھر ان حضرات کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر اور افضل، طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی و قاص اور سعد بن زید اور عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ جراح وغیرہ سب کے سب منصب خلافت تک پہنچنے کے لئے مناسب اور شائستہ افراد تھے۔ سب میں منصب خلافت کی صلاحیت پائی جاتی تھی۔ پھر ان حضرات کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر اصحاب پیغمبر ہیں، وہ صدی جس میں حضرت ختنی مرتب معمول ہوئے، پہلے والے مہاجرین جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی، انصا اور وہ

حضرات جنہوں نے مسجد الاقصی (یعنی بیت المقدس اور خانہ کعبہ) کی طرف نماز ادا کی۔ پھر ان لوگوں کے بعد لوگوں میں سب سے افضل وہ لوگ ہیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ رہتے تھے اور آپ کی بزم میں حاضر ہوتے تھے۔ چاہے ایک روز یا ایک ماہ یا ایک سال یا اس سے کچھ کم یا زیادہ حضور کے ہمراہ رہتے ہوں۔ ہم ان کی مغفرت کے لئے دست بدعا ہیں اور ان کے فضائل کو نقل کرتے ہیں اور ان کی لغزشوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور ان میں سے کسی کو بھی تینکی کے علاوہ کسی اور چیز سے پابندیں کرتے... (۱۴)

نتیجہ یہ کہ مذکورہ اسباب و عوامل اور دوسرے اسباب سب مل کر سبب بنے کہ اہل سنت کے نزدیک صدر اسلام اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ اور خلفائے راشدین دینی اور قدسی (پاکیزہ) قدر و منزلت حاصل کر لیں۔ ان لوگوں (اہل سنت) کے درمیان کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ملتی جو ان تمام مقامات میں شک و تردید کا شکار ہو۔ یہ ایک ایسی اصل اور قاعدہ ہے جس پر سب کا اتفاق اور اجماع ہے اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اس کی روشنی میں اسلام کو درک اور اس کی تفسیر کرتے ہیں یہاں تک کہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان مواقع سے قطع نظر اسلام کے متعلق ان لوگوں کی فہم و ادراک کی کیفیت کو حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ اسلام کے کلی مسائل فقہ و تفسیر اور تاریخ سے لے کر کلام، فلسفہ، خدا و ند عالم کی معرفت اور شناخت (عرفان) تک اور خاص طور سے اس کے سیاسی اور دینی مسائل، اسلام سے متعلق اہل سنت کے فہم و ادراک کی کیفیت اور شیعوں کے فہم و ادراک کی کیفیت کے درمیان فرق اس آخری مسئلہ میں پایا جاتا ہے۔

اگر بغور وقت کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں شیعہ اور اہل سنت ایک دوسرے کو کم سمجھ سکتے ہیں۔ وہ لوگ چونکہ اس نقطہ کی طرف توجہ نہیں رکھتے کہ ان کیا عقائد و نظریات دو بنیادوں اور دو جدا جدا، فکری و فلسفی کلامی اور تاریخی نظام پر استوار ہیں اس کا اشارہ نہیں کیا ہے، جس کے نتیجہ میں بحث و گفتگو اور افہام و تفہیم کے مرحلہ میں مشکلات سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک فرقہ، دوسرے کے عقائد کو اپنے دینی نظریہ کے معیار پر دیکھتا ہے، لہذا اس کو درک کرنے اور سمجھنے سے قاصر رہتا ہے اور اس سے ان کے اصول اور میزان کے خلاف توقع رکھتا ہے۔ یہ ایک نظری مشکل نہیں ہے بلکہ ایک محسوس حقیقت ہے۔ اور جب تک شیعہ اور اہل سنت ایک دوسرے کی فکری اور اعتقادی نظام کی خصوصیات اور یہ کہ کون ہی ضروریات اور تصورات سے وجود میں آتی ہیں ان کا پتہ نہ لگا لیں تب تک وہ افہام و تفہیم، گفتگو اور ایک دوسرے کی کار ساز اور مفید مدد پر قادر نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ عرض کر چکے ہیں کہ یہ سخن دینی و سیاسی مسائل میں بدرجہ ہاز یادہ صحیح ہے اور یہی وجہ تھی کہ ہم نے اسے زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ (۱۵)

اب ہم یہ دیکھیں کہ ایسے اعتقاد کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ یعنی اس کے روای اور اعتقادی، معاشرتی اور سیاسی منتائج کیسے ہیں؟ بہاں پر ہم اس کے دو اہم منتائج کو جو ہماری اس گفتگو میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں بیان کر رہے ہیں۔

## حاکم کے بھنسبت اہل سنت کاظر یہ

فی الحال حاکم کے متعلق اس مقام پر شیعوں کے نظریہ کو بیان کرنے سے صرف نظر کرتے ہیں اس لئے کہ قارئین اس موضوع سے بخوبی آگاہ ہیں۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ حاکم کی نسبت اہل سنت کا نظریہ کیا ہے اور یہ کن عوامل اور اسباب سے متاثر ہیں اور عمل میں اس کے کیا آثار اور نتائج ظہور میں آئے اور ابھی بھی ظاہر ہو رہے ہیں؟

حقیقت تو یہ ہے کہ پوری تاریخ میں اہل سنت کے درمیان بعض اصولی (بنیادی طور پر) نظریات کے موافق ہونے کے باوجود اس باب میں، یہ مسئلہ پوری طرح تمام گوشوں میں روشن نہیں ہے اس کا سبب بھی معلوم ہے۔ اس لئے کہ یہ ایک دینی مسئلہ ہے جس کا سیاسی حکام سے ہمیشہ بہت زیادہ ٹکراؤ پایا جاتا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیشہ صاحبان قدرت دین اور دینداروں سے اپنے کو قانونی اور امینیتی طور پر منوانے کے درپے رہا کرتے تھے اور ان پر دباو ڈالتے تھے تاکہ ان کو قانونی حیثیت دے دیں۔ یعنی دین اپنے آپ کو ایک ایسی شکل میں ڈھال لے جوان (حکام) کی آرزوں اور خواہشات کو بخوبی بروئے کار لانے پر قادر ہو۔ شاید ہی دین کا کوئی بھی دوسرا حصہ اس حد تک تمام پہلوؤں سے اس پر دباو ڈالا گیا ہو اور اس حد تک ان سے فائدہ نہ اٹھایا گیا۔

اس مسئلہ کی تبعیت میں اس موضوع کے متعلق منابع اور مصادر بھی بہت زیادہ پائے جاتے

ہیں جو مختلف اور رنگ برنگ کے ہونے کے ساتھ ساتھ پر اکنہ اور ایک دوسرے کے مقابل بھی ہیں۔ کنز爾 العمال، جو حقیقت میں اہل سنت کی احادیث کے سلسلہ میں منظم اور طبقہ بندی شدہ دائرة المعارف ہے، اس میں تقریباً چار سو احادیث تنہا کتاب الامارة، کے عنوان سے مذکور ہیں اور یہ احادیث اس مجموعہ کا تنہا ایک حصہ ہیں۔ اس لئے کہ ان کے علاوہ بہت سی احادیث موجود ہیں جو اس موضوع سے بلا واسطہ مستقلًا متعلق ہیں جنہیں اس کتاب میں نقل کیا گیا ہے اس باب کی احادیث کا یہ مختصر حصہ ہے اس لئے کہ اکثر احادیث اس بارے میں جن سے استفادہ کیا جاسکتا ہے غیر مستقیم طور پر اس سے متعلق ہیں کہ اس کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے۔ (۵۴)

ان احادیث کی سند اور رجال احادیث کے سلسلہ میں تحقیق کئے بغیر، البتہ اہل سنت کے اپنے معیار کے مطابق نہ کہ شیعوں کے معیار کے مطابق، موضوع بحث کو نظر میں رکھنے کے ساتھ ساتھ اور ان کے درمیان تعارض و تنوع کا لاحاظہ رکھتے ہوئے یہ بات بڑی ہی آسانی سے معلوم ہو جاتی ہے کہ اس سلسلہ میں جعل و تحریف کا بازار خوب خوب گرم رہا ہے۔ اگرچہ بہت کم ایسے محدثین اور علماء گزرے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس بات کی اجازت دے دی ہو کہ وہ ان احادیث (نصوص) میں تقدیم کریں، لیکن یہ مسلم ہے کہ ابتداء میں یہی مطلب ذہن میں آتا ہے، البتہ سیاست کی دخالت کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ امر فطری بھی محسوس ہوتا ہے۔

یہ کہ بہت کم لوگوں نے ان احادیث میں تقدید کی جرأت کی ہے یہ خود اپنے مقام پر حائز اہمیت ہے اس لئے کہ طول تاریخ میں اس موضوع سے متعلق مختلف مسائل مخصوصاً معزز لکی نہائی

شکست اور اشعارہ کی شہرت حاصل کر لینا اس قدر اجماع اور اتفاق کا حامل تھا کہ قاعدتاً ابتدائی منابع اور مصادر کے بارے میں صحت و سقم کی گفتگو ہی فضول تھی یہاں پر بحث یہ نہ تھی کہ یہ احادیث (نصوص) آیا علم رجال اور درایہ کے اصول و ضوابط کے مطابق ہیں؟ یا اس کے معیار کے مطابق نہیں ہیں۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ان احادیث کے متعلق کوئی دوسری تفسیر اور بیان کو اس لحاظ سے حاصل کرنے کی کوشش جو فقہاء، متكلمین اور محدثین کے اجماعی اور متفق علیہ نظریات کو باطل کرے وہ پہلے سے ہی محکوم تھی۔

اس دوران ایک دوسری مشکل تھی وہ اس شخص کے متهم ہونے کا ذرخوا مخصوصاً ان علماء کی تہمت جو بلا واسطہ یا غیر بالواسطہ حکام کی حمایت کر رہے تھے۔ اس لئے کہ ان کے بارے میں معمولی جتنو جز کی حیثیت اور موقعیت کے تنزل اور ان کی حکام کی مشروعیت کو کم کرنے کے کچھ اور نہیں تھی۔ جو چیز عملی طور پر موجود تھی آخری نظریہ وہ تھا جس میں درحد امکان حکام وقت کی تائید اور اس کی تقویت میں نظر دی جائے اور چونکہ حالات بھی ایسے تھے، لہذا کوئی بھی نئی کوشش اس کی بیشتر تائید اور تقویت میں مفید واقع نہیں ہو سکتی تھی اور عملی طور سے وہ ان کو کمزور بنانے میں ان کی معاون ہو سکتی تھی۔ جب یہ فکر ایک اصل اور قاعدہ کے عنوان سے قبول کر لی گئی تھی تو صرف قہر اور غلبہ کے زور پر اور اقتدار کے استقرار کے ذریعہ کسی پر مسلط ہو جانا اور شمشیر و خوزیزی کے ذریعہ حکومت کو حاصل کر لینا مشروعیت لاتا ہے، لہذا اس کی اطاعت واجب ہے اور اس کے خلاف اعتراض اور قیام کرنا منع اور حرام ہے، اس صورت میں اس کی اس سے زیادہ تائید اور تقویت کا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں بچتا جس سے تمسک

کرتے ہوئے دوبارہ احادیث میں جمع و تاویل اور جرح و تعدیل کا راستہ اختیار کریں، جب حالات ایسے تھے تو ایسی صورت میں فطری طور پر نہ تو نظام حکومت اس قسم کی بحث اور چھان بین کو پسند کرتے تھے اور نہ ہی ان سے ساز باز رکھنے والے علماء چھان بین کو پسند کرتے تھے۔ یہ دعوایں اور دوسرے اسباب اس بات کے باعث ہوئے کہ بحث ایسے ہی مجمل اور بغیر تقيید کے رہ جائے۔

موجودہ صدی کی تیسرا دہائی کے نصف میں خلافت عثمانی کے ساقط ہوتے ہی جس اہم شخص نے ایک دوسرے انداز میں اس مسئلہ کی تفسیر و تحلیل کی، وہ الاسلام و اصول الحکم، نامی کتاب کے مؤلف علی عبدالرزاق ہیں جنہوں نے ایسے وقت میں دنیا کے اسلام مخصوصاً دنیا کے عرب میں ایک عظیم ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ انہوں نے بطور مستقیم خلافت کی بحث اور اس کی دینی و تاریخی حیثیت اور اس کے وجوب شرعی یا عدم و جوب شرعی کے موضوع کو چھپیا اور یہ دور ایسا تھا جس میں خلافت عثمانی کے سقوط نے، بڑی شدت سے تمام اذہان کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا، اس کو چھپیا اور امامت و حکومت کے مسئلہ کو عمومی طور پر اپنی بحث و نقد کا مرکز بنالیا۔

اس کتاب نے جو ہنگامہ کھڑا کیا وہ اس نتیجے کو بتا رہا تھا کہ اس موضوع کے متعلق اہل سنت کے عقائد ان موردنے میں کس حد تک غیر قابل تقيید اور مناقشہ ہیں۔ واقعیت تو یہ ہے کہ یہ ہنگامہ اس سے زیادہ کہ (عبد الرزاق کے مخالفوں کے بقول) مؤلف کے دین اور اسلام مخالف رجحان کی نشاندہی کرتا ہے اور مثال کے طور پر یہ ان کے کفر و الخاد کی علامت ہے، اس سے کہیں زیادہ اس موضوع کے متعلق اہل سنت کی حسایت کا موضوع وہ مباحث تھے جس پر انہوں

نے تقدیم و تحلیل و تجزیہ پیش کیا تھا۔ وگرنہ اسی دور میں ان کے علاوہ بہت سے دوسرے بھی مصنفوں نے جو لوگ اسلام کے اصولی مسائل میں بھی خدشہ اور شک و تردید ظاہر کیا کرتے تھے۔ لیکن اس میں سے کسی کو بھی اس شدت سے چہار جانب مخالفوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہاں تک کہ اس کتاب کے سلسلہ میں یہ کہا گیا: جب سے ہمارے ملکوں میں کتابوں کے چھاپنے کی صنعت کاررواج ہوا ہے، اس وقت سے آج تک کوئی کتاب بھی ایسی نہیں چھاپی گئی ہے جو عبد الرزق کی کتاب کی طرح کسی اور کتاب نے اس حد تک شور شرابہ، شر و فساد اور ہنگامہ کھڑا کیا ہو۔ (۵۵)

## حکومت اور حاکم

بحث میں وارد ہونے سے پہلے ایک نکتہ کی طرف یاد دہانی ضروری ہے کہ اہل سنت کے نزدیک حکومت سے مراد اسلامی اور دینی حکومت ہے، جس کی خصوصیات ایک مسئلہ ہے اور حاکم اور اس میں پائی جانے والی شرائط اور صفات ایک دوسرا جدا گانہ مسئلہ ہے۔ یہ دونوں باہم باطنی ارتباط رکھنے کے باوجود عملی طور سے دو متفاوت چیزیں ہیں اور دو مختلف عوامل کے تحت متاثر ہوئے ہیں۔

حکومت کے بارے میں اہل سنت کا نظریہ عموماً قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نیز بعض موقع پر صحابہ کی میراث سے متاثر ہے۔ لیکن حاکم کی بہ نسبت مسئلہ ان کا نظریہ صدر اسلام سے عباسیوں کے دور اقتدار کی ابتداء کے سیاسی اور تاریخی حالات سے متاثر ہے۔ یا

واضح تر الفاظ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ حکومت کے متعلق ان (اہل سنت) کا تصور اور فہم اسلام کے نظری معیار سے متاثر ہے اور حاکم کی حیثیت سے اس کا تصور تاریخی حقائق سے متاثر ہے۔ اگر یہ تعبیر حکومت اور اس کی خصوصیات کے سلسلہ میں مناسب ہو تو پھر آرزوں کے طالب اور اسوہ و نمونہ کے فکر مند حاکم کے متعلق واقعیت پسند اور واقع بین ہیں۔ ان لوگوں کی نظر میں ان دونوں کے درمیان کوئی ربط نہیں پایا جاتا (بالکل شیعوں کے نظریہ کے برخلاف) یہ دونوں دو مختلف چیزیں ہیں اور ان دونوں کو مختلف ہی دیکھا جانا چاہئے۔ (۵۶)

اب یہ معلوم کرنا چاہئے کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ اسلام ایک وسیع اور جامع دین ہے۔ جو دین ہونے کے ساتھ ساتھ حکومت بھی ہے عبادت بھی ہے اور قانون و سیاست بھی۔ یہ خصوصیات ایک دین ہونے کے عنوان سے خود اسلام کی طرف پہنچتی ہیں۔ ایک مسلمان کے لئے دوسرے ادیان کے مانے والوں کی طرح اس پر اسلام کے تمام عقائد پر ایمان رکھنا واجب ہے اور چونکہ حقیقت ایسی ہی ہے لہذا اسلام کے غیر عبادی حصے سے بھی چشم پوشی کرنا ناممکن ہے۔ وہ شخص مسلمان ہی باقی نہیں رہ سکتا و حالانکہ اس نے ان حصوں کو فراموشی کے حوالہ کر دیا ہے۔ اگر وہ ان پر عمل نہ کرنا چاہے یا ان پر عمل نہ کر سکے اس کا معتقد اور ملتزم نہ رہے۔ اس لئے کہ ان عقائد پر ایمان نہ رکھنا اس کے عقائد کی صحت کے لازمہ کے برخلاف ہے۔

لیکن یہ مسئلہ کا صرف ایک پہلو ہے اور نظریہ پردازی سے متعلق مسائل ہیں لیکن یہی مسائل عملی طور پر ایک دوسری شکل اختیار کر لیتے ہیں، جیسا کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اسلام دین بھی ہے اور ایک حکومت بھی، قرآن اور سنت نبوی اس پر دلالت

کرتی ہیں۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ اس حکومت کو کس حاکم کے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور اس مسئلہ میں قرآن و سنت کا اس بارے میں نظریہ کیا ہے کیا ان دونوں نے جسے بیان کیا ہے ویسا ہی وجود میں بھی آیا ہے یا مسئلہ دوسری طرح پیش آگیا، جو تغیرات وجود میں آئے وہ کیا تھے اور کیوں وجود میں آگئے اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟

یہی ان حساس ترین نقاط میں سے ایک ہے جس کے ذریعہ سیاست و امامت اور حکومت کے متعلق شیعوں اور سنیوں کے نظریات میں شدید اختلاف ہے۔ دنیاۓ اسلام کے متعلق ان دونوں کا فہم دینی اعتبار سے اسلامی دنیا میں کوئی فرق نہیں رکھتا ہے اس لئے یہ دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ دنیاۓ اسلام کے قوانین اسلام ہی کے قوانین کا ایک حصہ ہے اور اس پر ایمان رکھنا اور اس پر پابندی بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں گروہ یکساں طور پر حکومت اسلامی کی ضرورت کے قائل ہیں۔ لیکن اس کے حالات پر نظر رکھتے ہوئے، یہاں تک کہ اس کے فروعات میں بھی بہت زیادہ فرق کے قائل نہیں ہیں۔ بلکہ ان کا اساسی فرق اور اختلاف صرف حاکم سے متعلق ہے۔ حکومت کے متعلق دونوں ایک جیسے نظریات کے حامل ہیں۔ اہل سنت کے نظریہ کے مطابق حاکم عملاً نظری اعتقاد کے لحاظ سے حکومت سے جدا اور ایک الگ مفہوم ہے اور جو چیز اس سے متعلق ہے حالانکہ شیعوں کے نظریہ کے مطابق یہ دونوں ایک دوسرے سے وابستہ بلکہ ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ (۵۷)

---

اس نکتہ کی وضاحت کے لئے ضروری ہے کہ ہم امامت ووصایت کے متعلق ان دونوں کے نظریات کو بیان کریں۔ اس مقام پر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا وصی

کون ہے؟ مسئلہ کا آغاز یہاں سے شروع نہیں ہوتا۔ شیعوں کے نزدیک بنیادی طور پر مسئلہ، امام اور وصی کا نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ امامت و وصایت ہے۔ کسی شخص کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کے مقام اور مرتبہ کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ امامت و وصایت کا مرتبہ کیا ہے اور اس کی منزلت کیا ہے اور اس کے مطابق کون امام یا وصی بن سکتا ہے۔ ان کی نظر میں امام اور خلیفہ وہ ہے جس میں اس منصب کو سنبھالنے کی صلاحیت پائی جاتی ہو۔ پہلے شان و منزلت کی تعریف اور اس کی حد بندی کی جاتی ہے اور پھر اس مقام کے حائز شخص کو معین کیا جاتا ہے۔ (۵۸) یہ نکتہ زیادہ وضاحت طلب ہے اور اگرچہ اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ ہماری بحث کو ایک حد تک موضوع سے محرف کر دے؛ لیکن اس چیز کے واضح ہونے کے لئے کہ بہتر سمجھنے میں یہ بحث خاصی اہمیت کی حامل ہے، مجبوراً ہم پر لازم ہے کہ اس بارے میں مزید گفتگو کریں۔

## شیعوں کا موقف

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد خلافت و وصایت کے متعلق شیعوں کا نظریہ اور ان کا موقف تھا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے بعد امام علمی کو اپنا جانشین مقرر فرمادیا ہے اور بار بار اس موضوع کی تاکید فرمائی ہے۔ بلکہ اہمیت کا حامل یہ ہے کہ بنیادی طور پر اس موضوع کے متعلق ان کا درک وسیع عیق اور اس کی کچھ اہم خصوصیات ہیں۔ یا ایک دوسرے بیان کے مطابق ایک فرد اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کا جانشین کون ہے؟ مسئلہ اس میں مخصر نہیں ہے بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کی جانشینی کا

مفہوم کیا ہے؟ اور اس کے جوانب اور خصوصیات کیا ہیں؟ اور ان خصوصیات کو مدنظر رکھتے ہوئے کون اس منصب کو سنبھال سکتا ہے اور کس کو یہ منصب سنبھالنا چاہیئے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ شیعہ حضرات آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کی خلافت و وصایت کے سلسلہ میں مختلف عقلی و نقلي دلائل کی رو سے ایک خاص مقام و منزلت کے قائل ہیں اور انھیں اس بات کا اعتقاد ہے کہ خلافت و وصایت اپنے اصطلاحی مفہوم کے اعتبار سے سیاسی رہبری کے مقابلہ میں کہیں زیادہ بلند و بالا درجات کی حامل، حساس تر اور سرنوشت ساز ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ اپنے دور میں مسلمانوں کے سیاسی رہبر (اس کے راجح مفہوم و معنی میں) نہیں تھے کہ صرف اپنے ہاتھ میں اقتدار لئے رہتے تھے یہی کیفیت ان کے جانشین کی ہے کہ مقام رہبری میں وہ ایک معمولی سیاسی رہبر کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ ایک عام انسان آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کا جانشین نہیں ہو سکتا جو صرف عوام کی سیاسی رہبری کو اپنے ہاتھوں میں لئے رہے۔ اور یہ خود پہلے درجہ پر ان خصوصیات کا ہونا اسلام کی انفرادی شان ہے۔

جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ اسلام دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک حکومت بھی ہے۔ ایمان بھی ہے اور سیاست و حکومت بھی یہ دونوں ایک دوسرے سے وابستہ اور نہم متصل ہیں اور ان میں جدائی ناممکن ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ مدینہ کے حاکم اور زمامدار ہونے کے عنوان سے اس بات پر مصروف آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کی سیرت اور مدینہ میں زمامداری کا طریقہ خود اس بات پر بہترین دلیل ہے۔ اس سماج کی قرآنی تعلیمات اور اس کے احکام کے

مطابق رہبری کرنی چاہیئے۔ یہاں پر سماج کو اسلام کے دستورات کے مطابق ادارہ کرنا مقصود تھا نہ کہ تنہ لوگوں کا انتظام سنبھال لینا۔ بلکہ اصلی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی زندگی عدل کے مطابق ادارہ ہو اور ان کی زندگی کے تمام گوشوں، فردی اور مختلف معاشرتی گوشوں میں اسلامی قوانین کو حاکیت حاصل رہے۔ اور یہ امر اسی وقت پورا ہو سکتا تھا جب اس سماج کا رہبر اپنے اندر اخلاقی اور معنوی لیاقت کو علم و بصیرت باہم ملائے ہوئے ہو اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ایسی ہی خصوصیات کے اتم اور اکمل مصدق تھے۔

مسئلہ یہ ہے کہ کون ایسی رہبری کو سنبھال سکتا ہے اور کون ایسا شخص ہے جسے ایسے رہبر کا جانشین ہونا چاہیئے جو سماج کو بھی چلائے اور لوگوں کی زندگی کے تمام فردی اور معاشرتی پہلوؤں میں اسلامی قوانین کو جاری کر سکے۔ زیادہ واضح عبارت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں اتنی صلاحیت پائی جاتی ہو کہ وہ اسلامی قوانین میں سے کسی بھی قانون کے سلسلہ میں معمولی خطاكے بغیر سماج کی رہبری کرے۔ کیا وہ شخص جو تنہ سماج کے سیاسی امور کو ادارہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ مطلوبہ شرائط کا مالک ہو سکتا ہے؟ اور کیا اس منصب (وصایت اور ولایت) کے لئے کم سے کم شرائط کا حامل ہے؟

اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کو لوگوں کی رہبری کے سلسلہ میں ایک سیاسی رہبر کے مقابلہ میں برتری حاصل تھی تو اس بات کو بھی مانتا پڑے گا کہ ان کے جانشین کو بھی ایک سیاسی رہبر کے مقابلہ میں مخصوص صلاحیتوں اور فضیلتوں کا مالک ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم اس بات کو قبول کر لیں کہ ہر دور میں نہ تنہ ایسے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ

کے دور میں سماج کو قرآنی اور اسلامی قوانین کے مطابق چلانا ایک فریضہ ہے تو اس بات کو بھی مانتا پڑے گا کہ ان کے جانشین اور حرضی کو بھی اپنے فریضہ کی انجام دہی کے لئے علمی قدرت اور لازم دینی بصیرت کے ایسی خصوصیات سے بہرہ مند ہونا ضروری ہے۔ آخر کار اگر ہم نے یہ قبول کر لیا کہ ایک اسلامی سماج کا رہبر جواہکام اسلامی اور اس کے اقدار کو محقق کرنے کی فکر میں ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس میں روحی اور معنوی امتیازات اور خاص تقویٰ پایا جاتا ہو اور خود ایسے فضائل کا مالک ہو جسے سماج میں رواج دینا چاہتا ہے اور مسلمان یہ قاعدہ اس شخص کے بارے میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد قدرت کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے بدرجہ اولیٰ اس میں ان خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔

اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کی خلافت و وصایت یا ایک دوسری تعبیر کے مطابق اصل امامت شیعوں کے نزدیک ایک خاص فضیلت اور مرتبہ کی حامل ہے۔ اس سے پہلے کہ مسئلہ، جانشین کے سلسلہ میں اٹھے اور یہ کہ وہ کون شخص ہے، اصل مسئلہ مفہوم جانشینی کے مختلف گوشوں کا ہے اور یہ کہ کون شخص ایسے منصب کا عہدہ دار اور ان صلاحیتوں کا حامل ہو سکتا ہے اور کون فرد اس عہدہ کو سنبھالے۔

یہ صحیح ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علی کی بلا فصل خلافت کے سلسلہ میں شیعوں کا عقیدہ پہلے مرحلہ میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی جانب سے آپ کی جانشینی کی سفارشیں اور مکروہ صریح تاکیدیں تھیں لیکن اس مقام پر اس نکتہ کو اضافہ کرنا ہو گا کہ امیر المؤمنین حضرت علی اس وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کے بلا فصل خلیفہ تھے کہ وہ ان خصوصیات کے

مالک تھے کہ جو ایسے منصب کے لئے ضروری ہیں اور ہر دوسرے شخص کے مقابلہ میں سب سے زیادہ منصب خلافت کے لئے شائستہ اور اس کی صلاحیت رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ شیعوں کے اعتقاد کے مطابق وہ سب جو اس بات کا باعث بنا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ امام علی کو بلا فصل خلیفہ معین کر دیں، ان میں وہ منحصر ہے فرد خصوصیات موجود تھیں جو کسی دوسرے شخص میں نہیں پائی جاتی تھیں۔ یہی خصوصیات باعث ہوئیں جس کی وجہ سے آپ دوسرے شخص کے مقابلہ میں اس منصب کے لئے زیادہ شائستہ ہوں۔ آپ کا یہ امتیاز شائستگی اور کفایت جو آپ کو اس منصب کے لئے شائستہ بنارہی تھی۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کا آپ کو انتخاب کر کے آپ کے بارے میں سفارش کرنا اس مدعای کی عملی تائید تھی۔

خلاصہ یہ کہ شیعوں کے نزدیک امامت و خلافت کے مسئلہ میں بحث، کسی فرد کے سلسلہ میں ہونے سے پہلے اس کی منزلت اور فضیلت کے سلسلہ میں ہے۔ سب سے پہلے مقام و منزلت کی تعریف اور حد بندی کی جائے اس کے بعد صاحب مقام و منزلت کو منتخب کیا جائے۔ امام وہ ہے جس میں وہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہوں جو منصب امامت کے احراز کے لئے ضروری ہیں اور ایسا ہر گز نہیں ہے کہ امامت و خلافت کی کوئی زاتی شان اور حیثیت ہو جس کے خلاف اور ائمہ حامل رہے ہیں، وہ حاصل ہو جائیں۔ (۵۹)

لیکن اہل سنت کے نظریہ کے مطابق مسئلہ بالکل برعکس ہے۔ ان کے وہاں اس شان کا حامل پہلے معین کیا جاتا ہے پھر اس کی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی شان اور حیثیت تعریف اور اس کی حد بندی کی جاتی ہے۔ وہ پہلے وصی اور خلیفہ کو معین کرتے ہیں اور اس کے

بعد خلافت اور وصایت کی تعریف کرتے ہیں۔ حاکم کے متعلق ان لوگوں کا نظریہ اسی اصل کے زیر اثر ہے۔ جو کچھ واقع ہو جاتا ہے اسے قبول کر لیا جاتا ہے اور پھر حاکم کے اختیارات اور اس کی خصوصیات، حالات کی تعریف اور اس کی حد بندی کی جاتی ہے۔

اب تک جو کچھ بیان کیا جا چکا ہے، اس کو مدنظر رکھتے ہوئے بطور اختصار یہ کہا جاسکتا ہے: اہل سنت اور شیعوں کے نظریات سیاست اور حکومت سے متعلق اور کلی طور پر اسلام کے غیر عبادی قوانین چونکہ ایک ہی منابع اور مصادر کی طرف پڑتے ہیں، لہذا ایک حد تک یہ دونوں ایک جیسے ہی ہیں اور اگر ان دونوں میں کوئی اختلاف بھی ہے تو وہ صرف فروع میں ہے اور اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ بھی ان کی سنت کی تحقیق اور چھان بین کے سلسلہ میں تقید کے معیار کی طرف پڑتا ہے۔ اس لئے کہ سنت نبوی کو پہچاننے میں ان دونوں کے معیار مختلف ہیں۔ حاکم کے حالات اور خصوصیات کے متعلق ان دونوں کے نظریات میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ اس بارے میں اہل سنت کا نظریہ ان حکام کو قانونی حیثیت دینے کی وجہ سے وجود میں آیا تھا جو صدر اسلام (ابتداً صدیوں) میں حکومت کو اپنے اختیار میں لئے ہوئے تھے۔ اسی کو قانونی مان لینے کے سبب اس باب میں ان کے کلامی اور فقہی مباحث وجود میں آئے اور انھیں ترقی ملی لیکن شیعوں نے بنیادی طور پر اس مسئلہ کو ایک دوسرے زاویہ سے دیکھا ہے۔ حاکم کے متعلق ان لوگوں کے نظریات اصل حاکمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے وجود میں آئے۔ حاکمیت جس طرح آنحضر صلی اللہ علیہ وآلہ ت کے ہاتھوں میں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے جانشینوں کے ہاتھ میں پہنچی یا جس طرح ان تک پہنچنا چاہئے تھا۔ ان لوگوں کی

نظر میں حاکمیت نبوت و رسالت کا ایک جزو ہے اور چونکہ امامت ووصایت بھی اسی طرح نبوت کا ایک سلسلہ اور اس کی بقا کا نام ہے اور اس کا مرتبہ اسی کے جیسا ہے، لہذا یہاں بھی اسی حاکمیت سراہیت کرے گی (یہاں پر ادامہ کو استمرار سے تعبیر کیا گیا ہے، جو اصل خاتمیت کے منافی نہیں ہے جو اسلام کے ارکان میں سے ایک ہے) درست یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ان لوگوں کی فکر حاکمیت کے باب میں ان کے حالات و خصوصیات اور اس کے اختیارات وجود میں آجاتے ہیں۔ لہذا اس زاویہ کے مطابق اسلام کی ابتداء میں جو کچھ ہوا وہ سب قانونی حیثیت نہیں رکھتا تھا اور اس کو فطری طور پر حاکم کے شرائط اور خصوصیات کو قانون مندرجہ کرنے کے لئے معیار نہیں بنایا جا سکتا۔

یہاں پر مناسب ہے کہ خوارج کا بھی ذکر کیا جائے۔ ان لوگوں نے نفسیاتی، معاشرتی اور قبیلہ جاتی اسباب کی نیاد پر اہل سنت کے برخلاف پہلے موجودہ حالات کی بالکل اس کی نفی کر دی اور پھر حاکم اور اس کے شرائط کے متعلق اپنا نظریہ پیش کیا۔ شیعوں کی طرف سے موجودہ حالات کی نفی کرنا خاص قسم کے نظریاتی دلائل کی بناء پر ہے اور خوارج کے نظریات موجودہ حالات کی نفی کے ذریعہ ہی وجود میں آئے تھے۔

بہر حال ہماری بحث یہ تھی کہ حاکم کے متعلق اہل سنت کا نظریہ ان کے حکومت کے نظریہ کی بہ نسبت نہیں تھا۔ حکومت کے سلسلہ میں ان لوگوں کی فکر سماج کو اسلام کے قوانین کے مطابق ادارہ ہونا چاہئے یہ قرآن و سنت سے متاثر تھا حاکم اور اس کی خصوصیات کے متعلق ان کا نظریہ تاریخی حقائق سے متاثر تھا۔

## دونظریہ

دو طرح کے زاویہ نگاہ کا آغاز ان دو مسئللوں کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کی رحلت کے بعد والے ایام کی طرف پلتئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی وفات کے بعد کسی کو اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سماج پر اسلامی احکام اور اس کے دینی موازین اور معیار ہی کو معاشرہ پر حاکم ہونا چاہئے۔ یعنی سماج کو کن قوانین کے تحت ادارہ کرنا چاہئے یہ مسئلہ بالکل واضح اور متفق علیہ تھا لیکن اس حاکم کے بارے میں جسے خلافت کے لئے انتخاب ہونا چاہئے، مسئلہ بہت واضح نہیں تھا۔ جو چیز اہمیت کی حامل تھی اور عملی طور پر موجود تھی وہ یہ کہ سماج کو منظم اور ادارہ ہونا چاہئے اور ایک فرد کو اس منصب کے لئے منتخب ہونا چاہئے تھا۔ جب ابو بکر کو لوگوں نے خلیفہ بنادیا، عموماً لوگوں نے اس کی بیعت کر لی۔ اس کی بیعت خاص ان اوصاف کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی یا ابھی خصوصیات کی بنا پر نہیں ہوئی تھی جس کے لئے وہ لوگ اپنے حاکم کے لئے قابل تھے۔ ان لوگوں کی نظر میں یہ مسئلہ کہیں زیادہ عملی اور اسے فوراً انجام پانا تھا، بلکہ ان غور و خوض اور تلقیدوں سے بھی یہ مسئلہ زیادہ سادہ تھا۔ کچھ لوگوں نے اس کی بیعت کر لی اور بقیہ دوسرے لوگوں نے بھی وقت ضائع کئے بغیر ان لوگوں کا اتباع کر لیا۔

ابو بکر کی حاکمیت اور خلافت ایک تاریخی حقیقت کے طور پر قبول کر لی گئی۔ اس زمانہ میں ابو بکر کے علاوہ اگر کسی دوسرے شخص کی بھی بیعت کر لی گئی ہوتی تو اس کی بھی خلافت اور حاکمیت کو قبول کر لی گئی ہوتی۔ جس چیز نے خلیفہ اول کی خلافت کو مستقر اور پاندرا بنادیا، وہ یہ تھی کہ کچھ

لوگوں نے اس کی بیعت کر لی اور بقیہ لوگوں نے یہ کہہ کر بیعت کر لی کہ ہم بھی انھیں کے تابع ہیں۔ اس مقام پر قابل غور بات تو یہ ہے جب اہل مدینہ نے حضرت زہرا☆ کی لگاتار دعوتوں کے جواب میں ان لوگوں سے یہ چاہ رہی تھیں کہ وہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کی وصیت کو فراموش نہ کریں اور حق کو اس کے راستہ سے مخرف نہ کریں تو وہ لوگ کہہ رہے تھے: آپ کو اس سے پہلے اقدام کرنا چاہئے تھا۔ اب تو ہم نے بیعت کر لی ہے اور مسئلہ تمام ہو چکا ہے۔ اور اگر آپ اس سے پہلے آتیں تو ہم ضرور علی کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے۔ (۶۰)

اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کا آخری انجام کیا ہوا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا ایک حاکم اور زمامدار کے عنوان سے ان کا اپنا مقام خود تھا اور یہ خاص مقام بعنوان شارع، سیاستدار اور ایک سیاسی رہبر کے عنوان سے بھی شرعی مقبولیت کے ساتھ تمام لوگوں کے نزدیک قابل قبول تھا۔ آپ کے بعد قدرت ابو بکر کے ہاتھ میں آگئی اس زمانہ کے لوگ اس کے لئے چاہے اس کے قبل ہو یا بعد خاص دینی مقام کے قائل نہ تھے۔ ان لوگوں کی نظر میں وہ بھی دوسرے مہاجرین والنصار کی طرح ایک فرد تھا۔ لیکن اہمیت کا حامل یہ تھا کہ اس کی بیعت آنے والے ادوار میں ایک فکر کی پیش خیمه بنی جو بعد میں حاکم اور اس کے شرائط کے متعلق اہل سنت کی اصلی فکر میں تبدیل ہو گئی۔ اس مطلب کو واضح کرنے کے لئے زیادہ وضاحت کی ضرورت ہے۔

---

جن لوگوں نے سب سے پہلے ابو بکر کی بیعت کی، ان کی تعداد بہت کم اور انگشت شمار تھی۔ ان

لوگوں کی بیعت دوسروں کی بیعت کا اصلی مقصد بن گئی۔ یعنی بعد میں بیعت کرنے والوں نے کہا کہ چونکہ ان لوگوں نے اس کی بیعت کر لی ہے لہذا ہم بھی اس کی بیعت کریں گے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم واقعیت کے سامنے ستر تسلیم خرم ہیں۔ ان کا تسلیم ہو جانا یعنی اس کو قانونی حیثیت دے دینا۔ اس لحاظ سے اس کو قانونی حیثیت سے تسلیم کر لینا ایک حقیقت بن گیا تھا۔ اگرچہ خلیفہ اول و دوم کے سلسلہ میں یہ واقعیت اس حد تک محسوس نہیں تھی لیکن ان دونوں موارد میں بھی حقیقت اس طرح تھی۔ ابو بکر نے عمر کو معین کیا یعنی اس کی خلافت اور جانشینی کو قانونی حیثیت دے دی اور لوگوں نے بھی (اس مسئلہ میں) اس کا اتباع کیا۔ عثمان کو عبد الرحمن نے چھ نفرہ کمٹی کی نیابت میں قانونی حیثیت دے دی، لوگوں نے بھی اسے قبول کر لیا۔ لیکن حضرت علی کے خلیفہ بنے کا واقعہ ایک دوسری منطق کی بنیاد پر استوار تھا۔ آپ کو لوگوں نے وسیع پیانہ پر اپنے بے حد اصرار کے ذریعہ اپنا خلیفہ بنالیا تھا۔

اس مسئلہ میں جو نکتہ اہمیت کا حامل ہے وہ یہ ہے کہ حاکم کی حکومت کے سامنے اپنا ستر تسلیم خرم کر دینے کی فکر کے سبب جو اس کی حکومت کی ایک واقعیت ہے لہذا خلافائے راشدین کے دور میں اس فکر کا نطفہ وجود میں آیا۔ اگرچہ اس تفکر کا نطفہ بعد میں خاص طور سے بنی امیہ کے بر سر کار آنے کے وقت بار آور ہو گیا اور عملی طور خلافائے راشدین کے دور میں اس نے کہیں زیادہ متفاوت اور مختلف مفہومیں اور مطالب پالئے اور ان کے زمانہ سے جو کچھ ہوتا تھا اسے عملی شکل دے دی گئی اور اسی دور کو دینی اور قدسی احترام مل گیا۔ اس تفکر میں بھی سراہیت کر گیا بلکہ اس کی کم و بیش متفق علیہ مشروعیت نے اس کی شایان شان مدد کی۔

جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ اس تنگر کا تانا بانا بنی امیہ کے دور میں بُنا گیا اور اس کو ترقی ملی اور اس مسئلہ میں دوسرے مسائل کی مانند معاویہ کا بہت ہی کلیدی اور بنیادی کردار تھا۔ جب اقتدار اس کے ہاتھوں میں آیا تو اس نے خلافت کو اپنے خاندان کی میراث بنانے کے لئے بہت کوشش صرف کر دی۔ ایک ایسا سلسہ جو اس زمانہ تک بے سابقہ تھا۔ تمام اہمیت کی حامل مخالفتوں کے باوجود آخرا کروہی کامیاب ہوا اور خلافت ان کی موروٹی بن گئی۔ اب اس کے بعد خلیفہ کی تعین ایک خاص سوچے سمجھے انداز سے ہونے لگی اور اس میں مسلمانوں کا کوئی کردار نہیں رہا اور اسے مسلمانوں کے مقابلہ میں استقلال مل گیا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں یا حاکم سے متعلق دینی ضوابط و قوانین کیا ہیں تاکہ ان (قوانین) کے مطابق خلیفہ اور حاکم کو معین کیا جائے۔ اس دور میں پہلے والا خلیفہ اپنے بعد والے خلیفہ کو جو بیٹا اور بھائی ہوا کرتا تھا اسی کو خلیفہ بنادیا کرتا تھا۔ واقعیت یہی تھی اور اسے بدلتی بھی نہیں مشکل امر تھا اس دور کے بہت سے لوگوں کی نظر کے مطابق یہ کام ناممکن تھا۔ وہ لوگ بھی جو اس کو امر ممکن لیکن مشکل جانتے تھے وہ خود اسے پسند نہیں کرتے تھے، اس کی طرف رغبت نہیں رکھتے تھے کیونکہ بہت زیادہ مشقت، ایثار اور فداء کاری کا موجب تھا۔ (۶۱)

اس طرح یہ واقعیت عقیدہ، ارمان اور قانون و ضابطہ کے مقابلہ میں کامیاب ہو گئی۔ اس لئے کہ پہلے ہی سے بنا حقیقت کو قبول کر لینے پر ہی تھی۔ اگرچہ وہ واقعیت جسے بعد میں قانونی مان لیا گیا اس سے بالکل جدا تھی اس حقیقت سے جوابتا میں قبول کر لی گئی تھی۔ خلافتے

راشدین کے دور میں حاکم کے جو شرائط اور حدود و اختیارات تھے، بعد میں یہ شرائط بدل گئے اور آخرون کا نتیجہ یہ ہوا کہ حاکم کو صرف اس اعتبار سے کہ قدرت اس کے ہاتھ میں ہے مشروعت بخشنا تھا اور واجب الاطاعت یہاں تک کہ اگر معمولی اور کم سے کم لازمی شرائط کا مالک بھی نہ ہو یا قہر و غلبہ کے زور پر حکومت کی باغ ڈورا پنے ہاتھ میں لے لی ہو اور یا ظلم و ستم کرے اور وہ حدود شریعت کو بھی پامال کر دے اور فاسق ہو جائے۔ (۶۲)

جیسا کہ معروف قاضی اور فقیر ابن جماعة کہتے ہیں: تیسرا ستہ جس کے ذریعہ جبری بیعت منعقد ہو جاتی ہے وہ کسی فرد کی قدرت اور شان و شوکت اور قہر و غلبہ سے تعبیر کی جاتی ہے اگر کسی زمانہ میں باصلاحیت اور شرائط کا حامل امام نہ ہو اور اس کی عدم موجودگی میں ایسا باصلاحیت شخص ہو جو اس منصب کو سنبھال لے اور فوجی طاقت کی بنیاد پر بغیر اس کے کہ کوئی جامع الشرائط اس کی بیعت کرے وہ اگر اس عہدہ کا احراز کر لے، ایک توی انسان اپنی نظامی قدرت اور طاقت کے ذریعہ بغیر بیعت کے یا اس کا جانشین ہو جائے جس کی بیعت صحیح تھی، اس کو اپنے ماتحت کر لے تو ایسی حالت میں اس کی اطاعت واجب ہو جائے گی... یہاں تک کہ مسلمانوں کے امور پھر سے ادارہ ہونے لگیں اور ان میں اتحاد پیدا کر لیں جہل و فسق اس کے اجر اکرنے سے منع نہ ہوں گے۔ اس کے بعد اضافہ کرتے ہیں: اگر امامت قہر و غلبہ کے ذریعہ کسی پر محقق ہو جائے اور پھر کوئی دوسرا شخص قیام کرے۔ اور پہلے والے شخص کو شکست دے دے تو اس صورت میں شخص اول معزول ہو جائے گا اور بعد والا شخص امام ہو جائے گا، جو کچھ ہم نے یہاں پر مسلمانوں کی وحدت اور ان کی مصلحت کے سلسلہ میں

بیان کیا۔ یہ وہی اسباب ہیں جس میں واقعہ حرہ میں ابن عمر نے کہا: ہم اس کے ساتھ ہیں جو کامیاب ہو جائے۔ (۶۳)

فطری طور پر ان حالات میں حکام بھی خاموش نہیں بلیٹھے اور ان کا بیکار پیٹھنا منطقی بھی نہیں تھا۔ یہ طرز فکر اس حاکم کی رضایت کی موجب تھی بلکہ اس کے لئے اسوہ (نمونہ) تھا وہ اس بات کی کوشش کر رہا تھا کہ قرآن، روایات، فقہ، تاریخ، کلام اور فلسفہ کے ذریعہ اپنے عیوب پر پردہ ڈال دے۔ اور اس نے ایسے ہی کیا بھی اور چونکہ لوگوں کے روحیات اور ان کی، تاریخی اور ثقافتی قدمت اور اس دور کے معاشرتی اور سیاسی بدلاو سے ہماهنگ تھا لہذا فوراً ہی شدت کے ساتھ اس میں جذب ہو گیا۔ اگر ہم یہاں پر اس موضوع کے سلسلہ میں بحث کریں اور اسی طرح احادیث کو جعل کرنے اور ان میں تحریف کاررواج کیسے پیدا ہوا اور اس کا انعام کیا ہوا تو اس بحث کے ذریعہ اصل موضوع سے خارج ہونے کا سبب ہو گا اس کو نظر انداز کرتے ہوئے تنہاد و نکات کے ذکر پر ہی اکتفا کریں گے۔ (۶۴)

### قضايا و مدرس کے مسئلہ

اب یہ دیکھنا ہے کہ اس دور کے قدر تمندوں کے سامنے کون سی مشکل کھڑی تھی؟ ان لوگوں کا ہدف یہ تھا کہ وہ لوگوں کو حکام کی اطاعت کے لئے آمادہ کریں۔ صرف اس لئے کہ ان کی قدرت اور حکومت ایک حقیقت ہے، اس کے مانے پر لوگوں کو مجبور کریں، امویوں کی تنہائی ہی ایک آرزو تھی۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے یاد دہانی کرائی ہے وہ اس قدر مائل نہیں تھے کہ

دینی اعتبار سے اپنے واسطے کسی مقام و منزلت کے قائل ہوں۔ نہ تو وہ اس کے محتاج ہی تھے اور نہ ہی اسے پسند ہی کرتے تھے اور اگر انہوں نے کبھی دینی فکر سے بھی فائدہ اٹھانا چاہا ہے، وہ بھی محض اپنی دنیاوی قدرت کو مستحکم بنانے کے لئے تھا کہ کاپنے کو مسلمانوں کے دینی خلیفہ کے سبب دینی حیثیت اور موقعیت کو مستحکم کرنے کے لئے تھا۔ جبکہ یہ عباسی خلفاء کی سوچ بالکل برخلاف تھا تاکہ وہ اپنے لئے دینی حیثیت فراہم کر لیں اور اس کے سایہ میں اپنے دنیوی اقتدار کو مزید مستحکم کر لیں۔ (۶۵)

کون سا ایسا سبب تھا جو ان کے اہداف کی تکمیل میں ان کا مددگار اور معاون ثابت ہو؟ اور لوگوں کو کسی قید و شرط کے بغیر اطاعت کے لئے مجبور کرے۔ روحی و نفسیاتی، ثقافتی اور تاریخی سابقے کو منظر رکھتے ہوئے قضا و قدر سے تمکہ ہی ایک بہترین ذریعہ تھا۔ دوران جاہلیت کے عرب بے شک و تردید تقدیر اور قسمت کے متعلق راستخ اعتماد کے مالک تھے۔ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ انسان کی زندگی اور قسمت اس کے ارادہ اور اختیار سے خارج ہے اور اس کی زندگی کے نشیب و فراز پہلے ہی سے معین کئے جا چکے ہیں اور ان میں تبدیلی ایجاد کرنا انسانوں کے بس سے باہر ہے۔

یہ تفکر جس حد تک ان بد و اعرب میں پایا جاتا تھا، اسی حد تک قریش اور مکہ میں رہنے والوں کے درمیان بھی کاملاً راستخ اور راستخ تھا۔ بنیادی طور پر ان کی بہت پرستی ایسے ارتباٹ میں قابل درک اور اس کی تحلیل کی جا سکتی ہے۔ ان لوگوں کا متعدد خداوں پر اعتماد اور ان سے تقرب طلب کرنا نیز قربانی کرنا اس وجہ سے تھا کہ وہ اس بات کے معتقد تھے کہ صرف یہی بت ان

کی زندگی میں اثر انداز ہیں۔ وہ لوگ زندگی کے تمام مرامل میں ولادت سے لیکر موت تک بیٹھے یا میٹھے ہونے سے لیکر قحط سالی اور سوکھا میں بیٹھا ہو جانے تک، تجارت اور اس کے منافع سے لیکر جنگ میں کامیابی اور شکست تک، خطرناک اور مہلک بیماریوں زمین گیری سے لیکر فقر و غربت مفلوک الحالی تک غرض کہ زندگی کے تمام گوشوں سے متعلق مسائل میں وہ انھیں بتوں یا ارباب کو دخیل سمجھتے تھے اور اس دوران انسانوں کے کردار کو بے اہمیت سمجھتے تھے۔ (۶۶)

قاعدتاً بت پرستی یا متعدد خداوں کے رجحان اور مختلف آلهہ اور معبدوں پر اعتقاد انسان کی آزادی اور ذمہ داری کے متضاد ہے، ایک ایسی دنیا میں جہاں اس کے مقدرات کا ہر حصہ ایک نامرئی اور مستقل طاقت کے ہاتھ میں ہو، انسان کی آزادی کے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ ایک انسان اسی صورت میں آزاد رہ سکتا ہے جب وہ اپنی تقدیر کا خود بنانے والا (یا کم از کم ایک حد تک) ہو، ورنہ اگر یہ مان لیا جائے کہ انسان کی تقدیر مستقل خداوں کے ہاتھ میں ہے تو پھر آزادی کا کوئی مفہوم باقی نہیں رہے گا۔

بہر حال زمان جاہلیت میں جبرا اور تقدیر کی طرف رجحان معاشرہ کی رانج فکر جاہلیت کے زمانہ کی فکر تھی جو اس لحاظ سے مسخر اور انسان کے باطن کی نابودی کے باعث تھے، وہ لوگ قرآن کے سخت حملات اور تقيید کا نشانہ بنے۔ ایسی تقيیدیں جن کے اهداف مختلف تھے۔ پہلا ہدف یہ تھا کہ ایسے مخرف اور غیر واقعی عقائد کا خاتمه کر دیا جائے۔ یہ جاہلی اور احمقانہ وہم و خیال تھا جو اس دنیا کو متعدد خداوں اور مختلف ارباب کا نتیجہ سمجھتے تھے۔ دوسرا ہدف یہ تھا ان کے

وجدان، ضمیر اور فردی ذمہ داری کی حس کو ایسے انسانوں میں بیدار کرنا جو اپنے آپ کو مسلوب الاختیار اور مجبور سمجھتے تھے۔ اور اسی معیار کے تحت وہ کسی بھی پستی، ذلت اور انحراف و پلیدگی کے مقابلہ میں سرتسلیم خم کر دیتے تھے اور اپنے باطنی دباؤ کے مقابلہ میں کہ فطری طور پر پستی اور پلیدگی سے منہج موڑے ہوئے تھے اس بات کی کوشش کیا کرتے تھے کہ ان متعدد خداوں سے تقرب کے ذریعہ اپنے زعم ناقص میں کامیاب ہو جائیں نہ کہ خود اپنی باطنی اصلاح کے ذریعہ۔ ان کے ذہنوں میں اس حالت کو بد لئے کی طرف کوئی توجہ بھی نہ تھی، جب ایک انسان کی سعادت اور شقاوت اس کے ہاتھ میں نہ ہوا اور وہ اپنے اعمال کا مر ہون منت بھی نہ ہوا اور جو کچھ بھی ہے وہ متعدد آلهہ خداوں اور بتوں کے ہاتھ میں ہے، اس صورت میں یہ امر فطری ہے کہ کوئی فرد بھی اپنی سعادت اور خوش بختی کو حاصل کرنے کے لئے اپنی اس حالت کی اصلاح کی فکر نہیں کر سکتا اور ان بتوں کے علاوہ کسی دوسرے سے توسل نہیں کر سکتا، ان کے کہنے کے مطابق اپنی شفاعت کرنے کے علاوہ کسی اور سے متسل نہیں ہوگا۔ آخر کار یہ چاہتا تھا کہ اعتقادی اور معاشرتی بلندی و فکری سروری کی بنیادوں کو منتخب کرے اور اسی طرح سخت بے رحم اور مادی و پلید حاکم کو ختم کر دے۔ اس دور کے جاہلی معاشرہ میں جو چیز حاکم کی سروری کو ایک خاص موقعیت عطا کرتی تھی نہ تو وہ قدرت شمشیر ہی کے ذریعہ حاصل ہو سکتی تھی جس کے زور بازو پر جبری خرافات رانج تھے۔ اس دور کے جہازی سماج میں قومی تعصب اور اس میں تفرقہ اور مرکز واحد نہ ہونے کی وجہ سے انھیں مطبع بنانے میں تلوار کی طاقت کار ساز نہیں تھی۔ اس دور کے ظالم اور فاسد حاکم کی قدر و منزلت لوگوں کی جہالت اور

ان کے تعصب سے وجود میں آئی تھی نہ کہ ان کی ناتوانی اور کمزوری۔ ٹھیک اسی وجہ سے وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت کینہ توزی کر کے آپ کے سر سخت دشمنوں میں رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تسلیم نہیں ہوئے جب وہ لوگ خوف یا طمع کی بنیاد پر مسلمان ہوئے تو پھر بھی انتقام کے لئے موقع کی تلاش میں لگے رہے اور آخر کار ان لوگوں نے امویوں کے سایہ تک اپنا انتقام لے ہی لیا۔

حقیقت تو یہ ہے کہ توحید پر ایمان لانا اور اس کو ماننا، جس معنی میں ادیان الہی خاص طور سے دین میں اسلام میں وارد ہوا ہے، اگرچہ ایک فطری اور باطنی امر ہے، لیکن اسے سمجھنے کے لئے معمولی عقلی کمال کی ضرورت ہے۔ وہ انسان جس کے پاس اتنی عقل بھی نہ ہو وہ اتنی آسانی سے اس بات کو درک نہیں کر سکتا کہ اس دنیا میں سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے اور جن چیزوں کو انسان موترا سباب میں سے شمار کرتا ہے، وہ سب کے سب خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے، اسی خدا کی مخلوقات میں سے ہیں اسی مادی دنیا کے وسائل اور آلات ہیں اور اس کی طاقت میں ہیں۔ الہذا یہ کہنا چاہئے کہ زمانہ جاہلیت کے اعراب کمترین عقل اور معمولی فہم و درک سے بھی محروم تھے۔ ان لوگوں کی ثقافتی و تاریخی سابقہ اور معاشرتی ماحول ہر قسم کی تبدیلیوں سے دور تھا کہ وہ عقل و رشد کے درک کرنے کا سبب بنے۔

جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ وہ روشنی کے علت و معلوم کے مفہوم کو سمجھنے سے بھی قاصر اور معدود ر تھے۔ اگرچہ روشنی کے مفہوم کو اجمالی طور سے پہچانتے تھے۔ لیکن مختلف اسباب سے باہمی

روابط کو کشف کرنے پر قادر نہ تھے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کے درمیان خرافات، کہانت اور تطیر (فال بد) اپنی ممکنہ حماقت کے ساتھ ان لوگوں کے درمیان رائج تھا۔ البتہ ہر قوم و ملت میں کچھ نہ کچھ خرافات پایا جاتا ہے، لیکن جو چیز ان جاہلیت کے عربوں کے درمیان رائج تھی وہ خرافات سے بھی آگے بڑھ گئی تھی۔ عموماً یہ سب کچھ خرافات پسندی اور اس سے لگاؤ ہی کا نتیجہ نہیں تھا جو روحی اور نفسیاتی ضروریات کے دبادینے یا ان پر فشار نہ دینے کے ذریعہ وجود میں آتے ہیں۔ بلکہ یہ ان کی حماقت، سفاہت اور عقل کو خاموش کر دینے سے وجود میں آتے تھے۔ یہاں پر مناسب ہے کہ ہم دور جاہلیت میں اعراب کی عقلانی زندگی کے سلسلہ میں احمد امین کی باریک اور دقيق توصیف کو نقل کر دیں۔

دوران جاہلیت میں اعراب علت و معلول اور سبب و مسبب کے درمیان رابط کو بخوبی درک کرنے پر قادر نہیں تھے۔ اس زمانہ میں اگر کوئی انسان مریض ہو جاتا اور درد میں مبتلا ہو جاتا تو اس درد کو لا علاج تصور کرتے۔ اگرچہ ایک طرح سے وہ مریض اور دواؤں کے درمیان ارتباط کو سمجھ لیا کرتے تھے۔ لیکن یہ باہمی ارتباط اور قانون مندرجہ ان لوگوں کے لئے پوری طرح روشن نہیں تھا۔ بس انھیں صرف اسی حد تک سمجھتے تھے کہ اس کے قبیلہ والوں کی یہ عادت ہے کہ وہ اس دوا کو فلاں درد میں استعمال کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اتنا ہی جان لینے پر قادر تھے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کے لئے یہ امر تجنب کا باعث نہ تھا جب ان کا عقیدہ یہ ہو کہ رئیس قبیلہ کا خون کتنے کیلئے شفا ہے یا انسان کے مریض ہونے کی علت اس کے بدن میں خبیث روح کے حلول کر جانے کے سبب ہے، لہذا اس کے علاج کے لئے اس روح کو اس

کے بدن سے خارج کرنا چاہئے۔ یا یہ کہ اگر کسی کے دیوانگی میں مبتلا ہونے سے خائف ہوتے تو اسے قاذورات اور مردوں کی ٹڈیوں سے آلوہ کر دیتے اور دوسرا بہت سے خرافات کے نمونے ان کے درمیان رانج تھے یہ تمام خرافات اس وقت تک مورد قبول تھے جب تک اس قبیلہ کے لوگ انھیں انجام دیتے رہتے، اس وقت تک نہ تو ان کے بارے میں کوئی سوال کرتا اور نہ ہی کوئی انکار کرتا تھا۔ اس لئے کہ یہ نظر میں گہرائی اور اسباب و عمل اور مرض میں جستجو کی قدرت کا پایا جانا وہ ہے کہ انسان کو ایسے اعمال کے ارتکاب کے لئے اکساتا ہے جبکہ زمانہ جاہلیت کے اعراب اس وقت تک ترقی کے اس مرحلہ پر نہیں پہنچ چکے تھے۔ یہی سبیت کے رابطہ کو درک نہ کرنے کی ناتوانی باعث ہوئی جس کی وجہ سے ان کے درمیان خرافات اور خیالاتی داستانوں کا دور دورہ اعراب کی جاہلیت کو بیان کرتا ہے تھا اور یہ کہ ادبی کتابیں ایسی داستانوں سے کیوں بھری پڑی ہیں... یہی وہ اسباب ہیں جن کے مذکور یہ نکتہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ گذشتہ و آئندہ حادث کو سمجھنے کے لئے کہانت اور فال بد (تیری) سے توضیح دیتے ہیں۔

یہ حقیقت ہے کہ ہر قوم اور سوسائٹی چاہے جتنی بھی متعدد اور ترقی یافتہ ہوں، اس سوسائٹی میں ایسے لوگ طبیعت کے حامل ہوتے ہیں جو خرافاتی مل جاتے ہیں، لیکن عربی ادب کی کتابیں اس بات کی حکایت کرتی ہیں کہ یہ عقائد، اس زمانہ کے عام لوگوں کے عقائد تھے یہ کسی خاص گروہ سے مخصوص نہ تھا بلکہ ہر قبیلہ ان پر ایمان رکھتا تھا اور نہ یہ کہ استثنائی طور پر مخصوص افراد بلکہ انہیں کے ایسے اس زمانہ کے تمام قبیلے اس کو قبول کرتے ہوئے اس کو قانونی اور آئینی

حیثیت دیتے تھے اگرچہ اس بات کا امکان ضرور ہے کہ ان کی مثالوں یا جاہلی اشعار میں سے ایک شعر یا ان کے قصوں میں بلند افکار کی جھلک یا اسباب و مسببات کی نسبت سبیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہو اور اگر ایسے تفکرات کا وجود ہے بھی تو ان موارد میں بھی گہری فکروں یا تحلیلی شرح کو واضح اور روشن انداز میں تلاش نہیں کر سکتے ہیں۔ (۶۷)

اس کے بعد امین سیرہ ابن ہشام سے ایک داستان کو نقل کرتے ہیں: قبائل ثقیف میں سے ایک قبیلہ کے لوگ ستاروں کے ٹوٹنے (مراد شہاب آسمانی ہے) کو دیکھ کر خوفزدہ ہوئے اور اپنے ہی قبیلہ کے ایک فرد عمر و ابن امیہ جو بنی علاج سے تھا اس کے پاس گئے اور وہ عربوں کے درمیان ہوش و ذکاوت میں معروف بھی تھا، اس سے کہا: اے عمر! کیا نہیں دیکھا کہ آسمانوں میں ستاروں کے ٹوٹنے سے کیا اتفاق اور حادثہ پیش آیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں میں نے بھی دیکھا اور اس کے بعد یہ کہنے لگا: دیکھوا گر ٹوٹنے والے ستارے ان میں سے ہیں جن کی مدد سے نشکنی اور دریاؤں میں راستے معلوم کئے جاتے ہیں، موسم سرما اور گرما کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور لوگوں کی معیشت ان سے وابستہ ہے، یہ آسمان سے ٹوٹ گئے ہیں، تو خدا کی قسم یہ اس دنیا کے تمام ہونے اور مخلوقات کی نابودی کی علامت ہے اور اگر ٹوٹنے والے ستارے یہ نہیں ہیں بلکہ وہ آسمان پر ثابت ہیں، تو یہ مخلوقات کی تقدیر کی علامت ہے جسے خداوند عالم نے خلائق کے لئے مقدر فرمایا ہے۔ اب تمہیں بتاؤ ٹوٹنے والے ستارے ان دونوں دستوں میں سے کون سے تھے؟ (۶۸)

عجیب بات تو یہ ہے کہ بھی بھی ان عربوں کے درمیان ایسے عقائد پائے جاتے ہیں، البتہ وہ

لوگ جھوں نے قدیم دراثت کو بھی تک بچائے رکھا ہے اور اس کے مطابق پلے بڑھے اور پروان چٹھے ہیں، ایسے لوگوں کے درمیان اب بھی ایسے مسائل پائے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی بھی زندہ ہیں۔ کچھ ہی دن پہلے اخباروں میں شائع ہوا تھا کہ سعودی عرب کے عظیم مفتی شیخ عبدالعزیز بن بازنے ایک عرب کے بدن سے ایک شیطان کو خارج کیا اور پھر وہ شیطان ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہو گیا! (۶۹)

اس مقام پر جو بات قبل تو جہا اور غور طلب ہے وہ یہ کہ ایک ملک کی ایک عظیم مذہبی شخصیت بلکہ مكتب وہابیت کی پہلی شخصیت جس کا عقیدہ ہے کہ اس کا اسلام سلف صالح کے اسلام کے مانند خالص اور اصیل ہے شک و شمہ خرافات اور جعلیات (جعلی چیزوں) سے دور ہے، وہ خود اس دور میں ایسے تفکرات کا مالک ہے۔ وہ خود ایک شیطان کو بھگانے کے لئے خود ایسا اقدام کرتا ہے اور پھر اس شیطان کو اسلام کی دعوت دیتا ہے اور وہ بھی اسلام قبول کر لیتا ہے۔ زیادہ اہمیت کا حامل یہ ہے کہ سعودی عرب کے اخباروں نے خود اس واقعہ کو کسی تردید کے بغیر درج کر دیا گویا وہ ان چیزوں کے متعلق ایسے عقائد کے حامل ہیں جن کے مقابلہ میں دوسروں کے طعنوں اور تمثیل سے نہیں ڈرتے ہیں۔

بہر حال زمانہ جاہلیت کے اعراب کی صحیح اور ہمدردانہ درک کے لئے ان کی فکری اور ذہنی خصوصیات کا جانا اس بحث اور بہت ساری پیش کی ہوئی بحثیں کلیدی حیثیت کی حامل ہیں۔ لہذا امین کی توصیفات کے طولانی ہونے کے باوجود بہتر ہے کہ اس کی کتاب کے دوسرے حصے کو بھی یہاں پر نقل کریں۔

## قدیم ایام میں اعراب کی خداشناسی

اس دنیا کے متعلق ایک عرب کی نگاہیں ایک یونانی باشندہ کی طرح کلی اور وسیع انظر نہیں ہو سکتیں ہیں۔ اس لئے کہ یونانی اپنی فلسفیائیہ کوشش کے پہلے ہی مرحلہ میں اس جہان پر نظر دوڑاتا ہے اور پھر اپنے آپ سے سوال کرتا ہے، یہ دنیا کیسے وجود میں آئی ہے؟ میری نظر میں یہ دنیا تبدیلیوں اور انقلابات کا ایک مجموعہ ہے۔ کیا ان تغیرات اور تبدیلیوں کے پس پشت کوئی واحد اور ثابت تحقیقت نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ پانی ہے یا ہوا ہے یا آتش؟ میرے احساسات کے مطابق یہ تمامی اجزاء ایک شے واحد کی طرح ایک دوسرے سے مرتب اور معین اور ثابت قوانین کے تابع ہے۔ یہ نظام کیا ہے اور کیسے وجود میں آیا اور کس نے انھیں وجود بخشا ہے؟

یہ سوالات اور اسی قسم کے دوسرے بہت سارے سوالات ایک یونانی اپنے آپ سے کر رہا تھا اور یہی اس کے فلسفہ کی بنیاد اور یہ سب اس کی عمومی اور کلی نظریہ کا نتیجہ تھا۔ لیکن ایک عرب نہ اسلام سے پہلے اور نہ ہی اس کے بعد دنیا کو اس فکر اور زاویہ نگاہ سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ جب بھی اس کی نظریں کسی خاص چیزوں کی طرف جذب ہوتیں تو اس کی طرف لپک کر بڑھتا اور اس کے وصف میں اپنے سینہ کو حکمت و شعر اور مشل سے مالا مال کر لیتا اور اس کی توصیف میں اپنی زبان کھول دیتا یعنی اس کی تعریف میں رطب اللسان ہو جاتا۔

اس کی نگاہیں وسیع انظر اور کامل نہیں تھیں۔ اس اسباب اور عوامل کے بارے میں تحلیل و تجزیہ

نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے زیادہ اہمیت کا حامل یہ ہے کہ جب وہ کسی شے سے پیش آتا تھا تو کبھی بھی اس شے کی کلیت کے بارے میں غور و خوض نہ کرتا بلکہ جو پہلو اس کی نظروں کو اپنی طرف جذب کر لیتا اس کی طرف متوجہ ہو کر غور سے دیکھتا تھا۔ جیسے جب وہ کسی درخت کے سامنے کھڑا ہو جاتا تو وہ اس کامل وجود کے سلسلہ میں کبھی بھی غور و فکر نہ کرتا۔ بلکہ اس کے بعض اجزاء اس کی نظر کو اپنی طرف جذب کر لیتے اس کے تینے اور اس کی شاخوں کے مانند کہ وہ ان کی خوبصورتیوں کی طرف متوجہ ہو جاتا اور اس کی توصیف میں اپنا سرد ہٹنے لگتا۔ پورے باغ کو وہ اپنی نظروں میں نہیں سمو پاتا تھا اور اس کا ذہن ایک دور بین کی تصویر کی طرح صورتوں کو محفوظ نہیں رکھ پاتا تھا۔ اس کی مثال شہد کی مکھی کے ایسی ہے جو ایک پھول سے دوسرے پھول کی طرف پرواز کرتی ہے اور تمام پھولوں سے اس کے رس کو چوس لیتی ہے۔ ایک عربی شخص کی ذہنی و عقلی خصوصیت یہی ہے جو نقاصل کی توجیہ کرنے والی ہے اور عربی ادب کی خوبصورتی بھی ہے یہاں تک کہ اسلامی ادوار میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ (۷۰)

شہرستانی اسی مسئلہ کو ایک دوسرے انداز میں وضاحت کرتے ہیں: عرب میں حکما بہت کم تھے اور ان کی حکمت بھی اکثر دفعی اور ناگہانی فکریں اور خود جوش تھیں... عربوں اور ہندیوں کی فکری فعالیتیں تقریباً ایک جیسی رہی ہیں۔ ان کا مقصد اشیا کے خواص کو معلوم کرنا تھا۔ ان کے افکار میں غالباً فطرت و طبع کا غالبہ تھا۔ ایرانی اور رومی لوگ اپنی فکری فعالیت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بہت نزدیک تھے۔ ان کا ہدف اشیا کی کیفیت معلوم کرنا اور ان کے افکار میں وجہ غالب الکتساب اور سمجھی و تلاش کرنا رہا ہے۔ (۷۱) امیں مندرجہ بالا عبارت کو نقل کرنے

کے بعد اضافہ کرتے ہیں: شہرستانی کی طرح بہت سے مستشرقین کا نظریہ یہ تھا کہ اس دنیا کے متعلق اعراب کا زاویہ نگاہ و سیع اور سب پرشامن نہیں ہے اور اصولاً اس دنیا کے متعلق اس طرح غور و خوض بھی نہیں کر سکتے تھے۔

فطری طور پر جبر کے رجحان نے ایسے ماحول میں ترقی کی اور اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا۔ اسے وسعت بخششے کے لئے کسی شخص کی تبلیغ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے کہ ایسے حالات میں اصولاً کوئی فکر کامیاب نہیں ہو سکتی جز جبر کے رجحان کے افکار کو مزید آگے بڑھانے اور نفوذ کے لئے کسی اور کو ایسا موقع ملنے والا نہیں ہے۔ لوگوں کی طبیعت (ذہنیت) اور روحی اور نفسیاتی عمارت کا حال یہ ہے کہ وہ جزو دلیل و برہان ہر شے کو مانے کے لئے آمادہ ہیں اس لئے کہ عملًا ان کی عقلی فعالیتیں تحلیل کے لحاظ سے معطل ہو چکی ہیں۔ یہی وہ سبب ہے جو اشاعرہ، اہل حدیث، جبر کے طرفداروں اور عقل کو خطاجانے والوں کی آخری کامیابی ہے۔ اس مسئلہ کے سیاسی اسباب کے حامل ہونے سے زیادہ، معاشرتی، نفسیاتی، ثقافتی اور تربیتی اسباب کا حامل تھا۔ انھیں اس دور میں یقینی کامیابی ملی جب موجودہ سیاسی حاکمیت ضعیف اور اس میں اختلاف ایجاد ہو چکا تھا اور حکومت افراتفری کا شکار تھی۔ ان کی کامل کامیابی کے حصول میں حکام کے اقتدار کی پشت پناہی یا تبلیغی اور دینی تسلط کے تحت ایسا اقتدار حاصل نہیں ہوا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ سماج خود جبری فکر کا مالک اور جبر پسند تھا جس کی وجہ سے وہ عقل و ارادہ اور آزادی کے طرفداروں پر غالب آگئے اور اس میں جبر کی ترویج کرنے والے حکام کا کوئی دخل نہیں تھا۔

لیکن عین اس عالم میں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دوران جاہلیت میں جب رجحان کے قوانین اور اصول تدوین ہو کر راجح رہے ہوں یا ایک فلسفی اور کلامی مکتب کی شکل میں موجود رہا ہوں جیسا کہ ہم نے بعد کی صدیوں میں اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ وہ موجود تھا۔ وہ ایک عمومی اور ایسا وسیع اور بالفوذ عقیدہ تھا۔ اس طرح سے اس نے عربوں کی نفسانی اور عقیدتی یہاں تک کہ ان کی معاشرتی اور سیاسی عمارت کو اثر انداز کر دیا تھا اور اسی ماحول میں وہ لوگ پھلے پھولے اور پروان چڑھے تھے۔ البتہ یہ بھی اضافہ کرنا چاہئے کہ یہ عقیدہ اور طرز فکر ایک مدت کے لئے اس وقت کے سیاسی اور معاشرتی حالات کی وجہ سے تخت الشعاع میں قرار پا کر بے چینی اور امیدوار کرنے والے ایام بھی تھے جس زمانے میں اسلام قدرت پا کر تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا اس وقت پنا سکہ جمالیا۔ لیکن جب اسلام کی توسعی آہستہ آہستہ کم ہو گئی اور مائل بے زوال ہو گیا اور دوسری قویں اور ملتیں جدید بادشاہت میں اپنی جگہ بنالی تو اس فکر اور عقیدہ کو دوبارہ سراٹھانے کا موقع ملا اور دوبارہ اس کے لئے حالات فراہم ہو گئے۔ مخصوصاً یہ تازہ مسلمان اس کے میدان میں ایک خاص مہارت اور تجربہ اور منظم و مدون افکار و عقائد کے حامل تھے۔ اور یہ سب کچھ معاویہ کے بر سر اقتدار آتے ہی اور اس کی حکومت کے جڑ پکڑتے ہی شروع ہو گیا اور اسی مقام سے داستان کا سنجدگی سے آغاز ہو جاتا ہے اس لئے کہ ایسی شروعات کے حالات مہیا ہو چکے تھے۔ (۷۲)

حالات بھی پر سکون ہو چکے تھے اور فتوحات کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا تھا اور عثمان اور حضرت علی کے زمانہ کا ناقابل ہضم اور سنگین تجربہ اور مسلمانوں کے درمیان کی جھٹپیں اور آپسی جنگیں

موجود تھیں۔ یہی وہ دور ہے جس میں اہل کتاب اور دوسرے مذاہب کو موقع مل گیا، تاکہ وہ لوگ اسلام کے اس جدید نظام میں اپنی حیثیت کو پھر سے پالیں اور اپنے عقائد کی تبلیغ و ترویج کا آغاز کر دیں۔ زیادہ اہمیت کا حامل تو یہ ہے کہ معاویہ اور بنی امیہ کے بصر اقتدار آتے ہی زمانہ جاہلیت کی میراث کو امکانی صورت میں دوبارہ احیا کرنے کا موقع مل گیا۔ اس لئے کہ عربوں کی بدوسی اور جاہلی طبیعتیں بھی ایام جاہلی سے عینیت اور گہرا تعلق رکھتی تھیں اور وہ خود بھی اپنے تسلط کو برقرار رکھنے کے لئے اس کو زندہ کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ پیشتر عرب کے عوام الناس کے دلوں میں ان ایام سے محبت کی کچھ چنگاریاں باقی رہ گئیں تھیں اس حد تک کہ وہ زمانہ جاہلیت سے عشق کرتے تھے۔ (۷۳)

## جبر کے رجحان کی تبلیغ

گویا اس دور میں جاہلیت کی میراث کے زندہ ہونے کے لئے تمام جہات سے حالات فراہم تھے مخصوصاً جبر و تقدیر کی طرف رجحان کو دوبارہ زندہ ہونے کا موقع فراہم ہو گیا اور عملی طور پر ایسا ہی ہوا۔ اس فکر نے فاتحانہ شان سے اپنے قدم آگے بڑھا دیئے اور آہستہ آہستہ اس نے پورے سماج کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، البتہ اسے حکام کی جانب سے سرکاری طور پر حمایت بھی حاصل تھی۔ اگر اتفاق سے معاویہ اور بنی امیہ کی جانب سے منظم طور پر پشت پناہی بھی نہ ہوتی تب بھی اس دور کے مجموعی حالات پر توجہ کرتے ہوئے اسے اپنا راستہ بنائی لینا تھا۔ لیکن جب اسے حمایت اور پشت پناہی بھی مل گئی اور اس کے ساتھ ضمیمہ ہو گئی تو اس کا چوڑرفہ

قاہر انہ تسلط چھا گیا۔ اور سب سے بدتر تو یہ تھا کہ اس نے دینی اور قرآنی لباس پہن لیا اور اس لئے کہ یہ لباس ہر قسم کے عیب و نقص سے محفوظ ہو جائے، جعل و تحریف اور تاویل و تفسیر کا سلسلہ شروع ہو گیا اور جبڑی رجحان کی اصل کے مطابق اسلام اور قرآن کی ہماہنگ تصویر بنالی۔ اب اس کے بعد کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا تھا کہ یہ تفکر قرآن کی تائید کے مطابق ہے، بلکہ زیادہ اہم یہ تھا کہ یہ کہہ دیا کہ بنیادی طور پر اسلام اور قرآن، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ (۷۴)

اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنے اس عمل کے ذریعہ کس مقصود کو حاصل کرنا چاہتے تھے اور وہ لوگ اس طرح سے پوری شدت کے ساتھ اس کی حمایت کیوں کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی اس بات کو بیان کرچکے ہیں کہ وہ لوگ اس فکر کے مقابلہ میں، لوگوں سے سکوت اور اپنی اطاعت چاہتے تھیا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ ان کے تابع رہیں اور ان کے سامنے تنقید و اعتراض میں اپنی زبانیں نہ کھولیں۔ یہ نہ کہیں کہ ایسا کیوں کیا ہے اور ایسا کیوں نہیں کیا ہے؟ یہ نہ کہیں کہ ظلم کیوں کر رہے ہو اور دین کو کیوں پانچال کر رہے ہو؟ یہ نہ کہیں کہ کیوں حدودِ الٰہی کو پانچال کر رہے ہو؟ اس کی حرمت پانچال کرنے والوں کو کیوں سزا نہیں دے جارہے ہو؟ یہ اعتراض نہیں ہونا چاہئے کہ کیوں بیت المال کو تاراج کیا جا رہا ہے؟ اور اسے اپنی بلوہوئی اور افسانوی عیش و نوش میں صرف کر رہے ہو؟ اپنے حکام اور والیوں کے ظلم و ستم اور تجاوز و لاابالی گری سے ان کی روک تھام کیوں نہیں کر رہے ہو؟ وہ مطلق العنان رہنا چاہتے تھے کہ بغیر کسی مانع اور رکاوٹ کے حکومت کریں۔ دیہاتی طبیعت، زمانہ جاہلیت کی

خلاصتیں، بے حد ثروت و تاور بے شمار رفاه و آسائش لامحود و قدرت، بے پناہ شہو ترانی کم ظرفیتی اور نفس کی حقارت نیز تمام سیر حاصل چو طرف نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی حس نے ان لوگوں کو اس حد تک مست کر دیا تھا کہ ہوسرا نی اور عیش و عشرت کے اساباب فراہم کرنے کے علاوہ وہ کچھ اور سونج نہیں سکتے تھے۔ ایسے لوگ جن کے باپ دادا کی نظروں کو چند اونٹوں کے باہر خیرہ کر دیتے تھے اور یہی بات ان کو حسد کرنے پر آمادہ کر دیتی تھی، آج وہی لوگ بزرگترین شہنشاہیت کے اہم لوگوں میں ہو گئے ہیں اور حکومت کے اہم عہدوں پر فائز ہو گئے ہیں فطری طور پر ان لوگوں کے اعمال، کردار اور ان کی غیر فطری اور یہجا تو قعات، توقع کے خلاف نہیں تھیں۔ (۷۵)

وہ لوگ حاکم، خلیفہ یا گورنرزوں اور سرداروں سمیت کسی قید و بند کے بغیر کیسے آزادانہ حکمرانی کریں۔ اس لئے کہ اس کو ایک طرف شرعی قوانین رکاوٹ ڈال رہے تھے اور دوسری طرف سے عوام بھی انھیں احکام شرعی پر پابند رہنے کے لئے مجبور کرتی تھی۔ اس سے مقابلہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسلامی معاشرہ ایک جاہلی سماج نہیں تھا جو ہر قسم کے قانون اور ضابطہ سے بے نیاز ہو۔ بلکہ اس سماج میں اسلام موجود تھا جس کا وہ لوگ علاویہ طور پر انکار نہیں کر سکتے تھے۔ کیونکہ اسلامی قوانین کا انکار خود انھیں کے انکار کا باعث تھے۔ ہاں وہ لوگ قوانین کو پانچ ماں کر سکتے تھے لیکن وہ لوگ اس کے اصل قوانین کا انکار نہیں کر سکتے تھے۔

ان کی نظر میں بہترین راہ حل جونہ اسلام کے انکار کا سبب بنے اور نہ ہی ان کی آزادی، قدرت اور شہو ترانی میں رکاوٹ کا باعث ہو، یہی سبب تھا جس کی وجہ سے جبر کے رجحان کی

تبلیغ کی جائے اور وہ یہ کہیں کہ انسان کے پاس اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے وہ مجبور مخلوق ہے اور وہ اپنی تقدیر بنانے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا ہے اور اس میں کوئی دخالت کا حق نہیں رکھتا ہے۔ اس کی تقدیر خدا کے اختیار میں ہے اور انسان کو اس کی زندگی میں جو کچھ بھی کوملتا ہے وہ اسی کی جانب سے ہے اور اس کی مشیت کے تحت ہے۔ اس طرح اسی زمانہ جاہلیت کے جرکے رجحان کی فکر کی کامستلہ بُجرا اسلامی کے رنگ میں ڈھال کر اس کی ترویج کی جا رہی تھی بُس فرق اتنا تھا کہ متعدد خداوَل کے مقام پر خدائے واحد یہ کردار ادا کر رہا تھا۔ (۷۶)

اس تفسیر کے مطابق جو کچھ بھی انسان کو ملتا ہے وہ سب کچھ اس کے ارادہ سے خارج اور مشیت خداوند عالم اور قادر مطلق کی مشیت کے مطابق ہے۔ وہ خواہ فطرت اور فطری حوادث سے ہو یا یہ چاہے حاکم یا خلیفہ یا کسی دوسرے انسان کی طرف سے ہوا ہمیت کا حامل یہی آخری نکتہ ہے۔ یعنی جو کچھ حاکم کی جانب سے انجام پائے وہ تقدیرِ الٰہی ہے جو اس کے ذریعہ سے اپنا وجود پاتا ہے لہذا اس میں تغییر اور اعتراض کے لئے زبان کھولنا ممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ خود حاکم کا وجود بھی ایک تقدیرِ الٰہی ہے جس کو بدلا نہیں جاسکتا اور اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں لائی جاسکتی۔ وہ موجود ہے کیونکہ خداوند عالم نے ارادہ کیا ہے اور وہ قادر ہے اس لئے کہ خود خداوند عالم نے ایسا چاہا ہے۔ (۷۷) بطور نمونہ عباسی خلفاء میں سے دوسرے خلیفہ منصور کی تقریر کی طرف توجہ دیں۔ جسے اس نے اپنے مکہ کی مسافرتوں میں سے ایک مسافرت میں عوام سے اس طرح خطاب کیا: اے لوگو! میں روئے زمین پر خدا کی طرف سے سلطان ہوں۔ جو اس کی بصیرت اور تائید و حمایت کے ذریعہ تم پر حکومت کر رہا ہوں۔ اس کا خزانہ دار

ہوں اور اسی کی مشیت کے مطابق عمل کرتا ہوں اور اسی کے ارادہ کے مطابق تقسیم کرتا ہوں اور اسی کی اجازت سے عطا کرتا ہوں۔ خدا نے مجھے اپنے خزانہ کا قفل بنایا ہے۔ لہذا جب تم پر بخشش کرنا چاہتا ہے تو مجھے کھول دیتا ہے اور جب روک دینا چاہتا ہے تو مجھے قفل کر دیتا ہے۔ لہذا خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس مبارک دن کے صدقہ میں وہ تمسیح نعمتیں عطا کرے گا، جس کی اس نے اپنی کتاب میں خبر دی ہے جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے: آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں اور تمہارے لئے دین اسلام کو انتخاب کر لیا۔ اس سے چاہو کہ وہ مجھے صواب اور راہ ہدایت کی توفیق دے اور تم پر احسان و مہربانی کیلئے میرے دل میں الہام کرے اور مجھے عدل کے مطابق تمہارے درمیان روزی کی تقسیم کی توفیق عنایت کرے۔ (۷۸)

اس کا ایک دوسرا نمونہ معاویہ کی بات ہے۔ اغراض السياسة في اعراض الرئاسة، نامی کتاب میں موجود ہے جو ایسے ہی مطالب سے پٹی پڑی ہے، اس (معاویہ) کے قول سے اس طرح نقل کرتا ہے: ہم بادشاہ لوگ زمانہ کی طرح ہیں۔ لہذا جسے چاہتے ہیں اسے سر بلند کر دیتے ہیں اور جسے نیچا کرنا چاہتے ہیں وہ پست ہو جاتا ہے۔ اس وقت مؤلف معاویہ کے اس کلام کی تائید اور توضیح کیلئے اضافہ کرتے ہیں: معاویہ کے یہ کلمات اس کی بلند ہمتی اور کمال بزرگواری کی حکایت کرتے ہیں کہ بادشاہی کے عالم میں کامل الہی حمایت کی حامل ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ بادشاہ لوگ خداوند عالم کے نائب اور اس کے خلیفہ ہوتے ہیں، ان کے فرمان لوگوں کے اموال، خروج، کسی کی آزادی اور غلامی اور ان کے خون (قصاص و دیات) پر

نافذ ہیں اور جو بھی عظیم مرتبہ اور شریف رتبہ کا خواہاں ہو تو اس پر لازم ہے کہ بادشاہ کی اطاعت کرے اور اس کو قلبًا بھی تسلیم کرے۔ (۷۹)

اسی سلسلہ میں محمود صaggi اپنی کتاب نظریۃ الامامة، میں معاویہ کی سیاست کے متعلق اس طرح تحریر کرتے ہیں: معاویہ نے اپنی حکومت کے ارکان کو تنہا مادی قدرتوں کے سہارے مستحکم نہیں کیا، بلکہ اس نے اس راہ میں دینی عقاائد کا بھی سہارالیا ہے۔ وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ اس میں اور علی میں خلافت کے سلسلہ میں اختلاف تھا لہذا حکومت کو خدا کے سپرد کر دیا گیا اور خدا نے اسے علی پر برتری عطا کر دی اور علی کو خلافت سے معزول کر دیا اور مجھے خلیفہ بنادیا، اسی طرح جب اس نے اہل حجاز سے اپنے بیٹھے یزید کے لئے بیعت لینا چاہی تو ان سے کہا کہ خلافت کے لئے یزید کا انتخاب قضاۓ الہی میں سے ایک ہے اور اس کے بندوں کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح نزد یک تھا کہ مسلمانوں کے اذہان میں یہ بات بیٹھ جائے کہ خلیفہ جو چاہے اور جس امر کا حکم دے اگرچہ خدا کے دستور کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، وہ خدا کی جانب سے اس کے بندوں کے حق میں قضا اور حتمی فیصلہ ہے جسے اس نے اپنے بندوں کے لئے مقرر کر دیا ہے۔

عثمان کے دور میں اپنی گورنری کے زمانہ میں معاویہ یہ بات صریحی طور پر کہتا تھا کہ بیت المال میں موجودہ مال و دولت خداوند عالم کا مال ہے اور مسلمانوں کا مال نہیں ہے۔ اور یہ اس وجہ سے تھا تاکہ انھیں خود اپنے لئے محفوظ کر سکے۔ بالکل اسی طرح جب اس نے اپنی حکومت کو قائم کرنے اور مستحکم بنانے کے لئے اور تقویض الہی کی فکر نیز بادشاہوں کے دینی حق

ہونے کے ذریعہ مدد حاصل کی اور یہ مسلمانوں کی سیاست شرعی کی بہ نسبت بری طرح مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا تھا۔ اس لئے کہ وہ چاہتا تھا دین کے نام پر جتنا ہو سکے اپنی ذاتی قدرت کو بڑھانے کے لئے فائدہ اٹھائے اور دینی عقائد کو حکام کے ہوا وہوں کے تابع بنا دے۔ (۸۰)

معاویہ اور اس کے جانشینوں کی بہت سے اسباب کے تحت کہ یقیناً ان میں سے متعدد اسباب معاشرتی اور فکری حالات اور تاریخی سابقہ اور اس زمانہ کے لوگوں کی روحی عمارت کی طرف پلٹی ہے۔ ان کی کامیابی تہذاں کے پر پیگنڈہ اور اقدام سے نہیں تھی بلکہ معاویہ اور اس کے ہم عقیدہ جس ہدف کو حاصل کرنا چاہتے تھے اس وقت کے عرب عوام بھی واقعات اور مسائل بالکل ویسے ہی دیکھتے اور نتیجہ گیری کرتے تھے۔ ایسی طرز فکر کے نمونہ کو اس نظریہ میں جس کو حسن بصری نے حاج بن یوسف کے متعلق اظہار کیا، اس کو بخوبی دیکھا جاسکتا ہے۔ اہمیت کی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے معاصر فقہا اور محدثین کی بہ نسبت ان لوگوں میں سے کہیں زیادہ گستاخ اور آزادی خواہ تھا۔ یہاں تک کہ معتزلی لوگ اسے اپنا سمجھتے ہیں۔ اس لئے کہ اس نے اپنے دور کے حاکم کے جبری رجحان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور اسی سلسلہ میں عبد الملک اور حجاج سے مکاتبات برقرار رکھا اور دلیل پیش کرنے کے ضمن میں ان لوگوں کی طرف سے پیش کی گئی، بعض قرآنی آیات کو اپنے مدعی کے شاہد کے طور پر پیش کر کے جبراً کو ثابت کرنے کے لئے مدلی جاری تھی ان کی دلیلوں کو رد کیا ہے۔ (۸۱)

یہاں تک کہ ایسا شخص ہے جس نے بارہ معاویہ پر اس کے برے اعمال کی وجہ سے، تلقید

کی ہے۔ (۸۲) لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود لوگوں کو حاج جو ہر طرح کی جنایت کرنے سے اس کو کوئی باک نہیں ہوتا تھا، کے خلاف جنگ کرنے سے یہ کہہ کر روک دیا: اور اس کی توجیہ اس طرح کرتا: اس سے جنگ نہ کرو اس لئے کہ اگر وہ عذاب الٰہی ہے تو عذاب الٰہی کو تم اپنی تواروں سے دفع نہیں کر سکتے اور اگر خدا کی مصیبت ہے تو اس پر صبر کروتا کہ خدا تمہارے اور اس کے درمیان حکومت کرے اس لئے کہ وہ بہترین حکم کرنے والا ہے۔ (۸۳) جب کہ وہ حاج کو بدترین خلق خدا شمار کرتا تھا اور اس کے بارے میں اس طرح اظہار نظر کیا کرتا تھا: اگر ہرامت اپنے اشرا اور پست لوگوں کو ایک میدان میں لا سکیں اور ہم بھی حاج کو اس میدان میں لا سکیں تو ہم اس رقبت میں جیت جائیں گے۔ (۸۴)

### تامریخی شواہد (نمونے)

اس مقام پر مناسب ہے کہ ہم بطور مثال چند تاریخی نمونے ذکر کریں۔

عاشورا کے خونیں واقعہ کے بعد جب اہل بیت حرم کو ابن زیاد کے دربار میں اسیر بن کر لے جایا گیا، اس دربار میں جناب زینب اور امام سجاد اور ابن زیاد کے درمیان کچھ باقیں رزو بدلتے ہوئے جو ہماری اس بحث سے متعلق اور قابل تأمل اور قابل غور و خوض ہیں۔ ابن زیاد نے اشارہ سے امام سجاد کے سلسلہ میں سوال کیا کہ وہ کون ہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ علی ابن الحسین ہیں۔ اس (ابن زیاد) نے کہا کہ کیا وہ علی ابن الحسین نہیں تھے کہ جسے خدا نے قتل کر دیا؟ امام نے فرمایا کہ میرا ایک بھائی تھا جس کا نام بھی علی ابن الحسین تھا جسے تیرے

لشکریوں نے اسے قتل کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا بلکہ اسے خدا نے قتل کیا ہے۔ یہ سن کر امام نے یہ آیت پڑھی۔ (اللَّهُ يَقُولُ إِنَّ الْأَنْفُسَ حِلٌّ لِمَنْ تَحْبَبُ) یعنی خداوند عالم انسان کو جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اسے موت دے دیتا ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد غضبناک ہو گیا اور کہا کہ تم میں اتنی جرأت کہ میرا جواب دو اور میری بات رد کرو، (جلاد کو حکم دیا کہ) اس کی گردن مار دو۔ البتہ اس کے بعد کچھ ناخوش گوار واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے اس کے فرمان پر عمل نہیں کیا گیا۔ (۸۵)

اسی قسم کی ایک بحث یزید کے دربار میں پیش آئی۔ یزید نے امام کو مناطب کر کے کہا، اس خدا کی حمد کرتا ہوں جس نے تمھارے باپ کو قتل کر دا۔ امام نے فرمایا کہ اس شخص پر خدا کی لعنت ہو جس نے میرے باپ کو قتل کیا۔ یزید نے جیسے ہی یہ جملہ سنا تو آپ کے قتل کا حکم جاری کر دیا لیکن بعض اسباب کی بنا پر آپ کو قتل نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد اس نے آپ کو اپنے نزدیک بلا نے کا حکم دیا۔ جب آپ اس کے نزدیک پہنچ تو اس نے اس زنجیر کو کامنًا شروع کر دیا جو آپ کی گردن میں پڑی ہوئی تھی اور اس کے ضمن میں یہ آیت پڑھی (ما اصا بکم من مصیبۃ فہما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر) لوگوں پر جو مصیبیتیں وارد ہوتی ہیں وہ سب انھیں کے اعمال کا نتیجہ ہیں اور خدا تو بہت سی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس آیت کو سن کر امام نے فرمایا: نہیں، ایسا نہیں ہے یہ آیت ہمارے بارے میں نہیں ہے جیسا کہ تو نے سوچ رکھا ہے بلکہ جو ہمارے سلسلہ میں ہے وہ یہ ہے: (ما اصا بکم من مصیبۃ فی الارض ولا فی نفسکم الا فی کتاب من قبل نبراً حاکمیلا تأسیا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتا کم) تم پر کوئی مصیبیت وارد نہیں

ہونے والی ہے، چاہے وہ مصیبت تم سے اور تمہاری جان سے متعلق ہو؛ ایسے حادث جو باہر سے تم تک پہنچتے ہیں، مگر وہ چیزیں جلوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں جو نعمت تم سے اٹھ گئی ہے اس کے بارے میں افسوس نہ کرو اور جو چیز تمہیں حاصل ہو گئی ہے اس پر شاد و خرم نہ ہو۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ ہم ہیں وہ لوگ جو ایسی صفات کے مالک ہیں۔ (۸۶)

کیا اس کے علاوہ تھا جو یہ دونوں کہنا چاہتے تھے: امام حسین اور آپ کے اصحاب پر جو مصیبتوں بھی نازل ہوئیں وہ سب خدا کی طرف سے تھیں اس میں حاکم کی کوئی دخلالت نہیں تھی؟ اور حاکم تو صرف خداوند عالم کے ارادہ کو وجود میں لانے کا سبب رہا ہے۔ یہ ابن زیاد، یزید اور اس کے فوجیوں نے امام کو شہید نہیں کیا فقط خداوند عالم نے انھیں قتل کیا ہے اور خدا نے ایسا کیوں کیا؟ یہ بھی انھیں کے اقدامات کا نتیجہ تھا اور وہ لوگ انھیں سزاوں کے مستحق تھے۔ یہاں پر اہمیت کا حامل یہ تھا کہ حاکم پوری طرح اس جرم سے بری نظر آ رہا تھا، ساری ذمہ داریاں خدا کے دوش پر پلٹ رہی تھیں اور اس میں حاکم کا کوئی اپنا کردار اور اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔

اور اس طرح سے حاکم اختیار، قدرت اور اپنے آپ کو بالکل محفوظ پار رہا تھا اس لئے کہ اس کے تمام اعمال و کردار اور اسوہ اور اقدامات خداوند عالم کے ارادہ کی تجلی اور اس کے مظاہر تھے لہذا انہیں نہ بدلا جا سکتا تھا اور نہ ہی اس پر اعتراض کیا جا سکتا تھا۔ یہ امویوں کے نظریات کی تفسیر تھی۔ اس لئے کہ نہ تو وہ دین کا انکار کر سکتے تھے اور نہ ہی ان کا یہ انکار نہ کرنا ان کی آزادی کو سلب کرتا تھا۔ انھیں قدرت، آزادی عمل اور نامحدود اختیار چاہیئے تھا انھیں دینی

شان و حیثیت اور احترام وغیرہ سب کچھ اس تفسیر کے سایہ میں حاصل ہو رہا تھا۔ اموی لوگ قاعدتاً اسی فکر کی بنیاد پر سوچتے، اپنی زندگی، حکومت اور اس کی تبلیغ کرتے تھے۔ ان کی پوری خلافت کا زمانہ اسی قسم کے حوادث اور نمونوں سے بھرا پڑا ہے۔ جب معاویہ مر گیا تو یزید نے مدینہ کے گورنر (حاکم) کو لکھا: معاویہ خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ خداوند عالم نے اسے کرامت عطا کی اور اپنا جانشین بنادیا اور لوگوں کے امور کو اس کے حوالہ کر دیا اور اسے قدرت و مقام اور سیادت بخشی۔ (۸۷) اسی طرح سے خود معاویہ بھی ان لوگوں کے اعتراض کے جواب میں جو لوگ یزید کی جانشینی کے مخالف تھے ان سے کہا: یہ خدا کا ملک اور اس کی سلطنت ہے اور وہ جسے چاہے عطا کرے۔ یزید کی ولایت عہدی کو کوڈھ کر کے اسی روشن کے مطابق خطبہ دیتے اور تبلیغ کرتے تھے۔ ایک روز ابن زیاد نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا: ائے لوگو! ہم تو تمھارے روسا ہیں اور ہم ہی تم سے بلا ویں کو دفع کرتے ہیں۔ ہم خدا کی دی ہوئی قدرت سے حکومت کرتے ہیں اور اس کی دی ہوئی عطا جو اس نے ہمارے اختیار میں قرار دی ہے اس سے تمہارے لئے بخشش کرتے ہیں۔ ہماری اطاعت تم لوگوں پر واجب ہے اور جو ہم پسند کرتے ہیں ویسے ہی تم عمل کرو، ہم تمھارے ساتھ عدل کے مطابق حکم کریں گے۔ پس اپنی اطاعت و نصیحت اور ہمکاری کے ذریعہ کوشش کرو کہ اپنے آپ کو ہماری عدالت کے مشمول اور مستحق بناؤ۔ (۸۹) اسی طرز فکر

---

کے ترقی یافتہ نمونہ کو قرآن و حدیث کے بہت سے عناصر کو اپنے اندر سمونے ہوئے مطالب کو جسے یزید ابن عبد الملک کے تفصیلی وصیت نامہ میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے جسے اس نے اپنے دو پیشوں کی ولایت عہدی کے سلسلہ میں لکھا تھا۔ (۹۰)

### جعل حدیث

اسی طرز فکر کی بنیاد پر یعنی جو کچھ بھی حاکم انجام دیتا ہے، وہی خداوند عالم کی جانب سے تقدیر ہے بہت زیادہ مقدار میں حدیثیں گڑھی گئیں۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے کہ اگر اس نے صحیح عمل کیا تو اسے اجر ملے گا اور تحسین شنگر گزار رہنا چاہیئے اور اگر اس نے صحیح عمل نہیں کیا تو اس کے گناہوں کا بوجھا اسی کے سر پر ہے اور تجھے صبر کرنا ہو گا یا اگر یہ کہ حاکم کی جانب سے تمہیں کوئی اذیت پہنچ تو اس کے مقابل میں صبر کرو اور اس کی بیعت نہ توڑو اس لئے کہ جو بھی ایسا کرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ یہاں تک کہ پیغمبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی طرف نسبت دے ڈالی کہ آپ نے فرمایا: میرے بعد ایسے حکام آئیں گے جو میری ہدایت پر نہ ہوں گے اور میرے طریقہ پر نہیں چلیں گے یعنی میری سنت کو نہیں اپنا سکیں گے، وہ اپنے سینوں میں شیطانوں کے ایسے دلوں کو انسانی جسم میں حمل کرتے ہوں گے لیکن وہ شیاطین کے قلوب جسے ہوں گے۔ کسی نے سوال کیا کہ ہم ان کے مقابلہ میں کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا: نہیں، ان کے فرائیں کو کان دھر کے سنوا اور ان کی اطاعت کرو اس لئے کہ ان کی اطاعت میری اطاعت ہے اگرچہ وہ تم پر تازیانہ ہی کیوں نہ برسائیں اور تھمارے

اموال کو غصب ہی کیوں نہ کر لیں۔ آخر کار یہ کہیں گے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ ہر حاکم کی اطاعت کرنا اس لئے کہ اس کی اطاعت میری اطاعت ہے آپ بطور نمونہ کتاب الامارة، کنز العمال، میں رجوع کر سکتے ہیں قابل توجہ بات تو یہ ہے کہ اس باب میں جتنی احادیث بھی مذکور ہیں وہ سب کے سب ایسے مطالب پر مشتمل ہیں۔ (۹۱)

جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ وہ اصلی محرک جو اس بات کا موجب ہوا کہ ایسی بے شمار احادیث گڑھی جائیں وہ مبہی جبڑی رجحان کے متعلق تفکر تھا اور یہ کہ خود حاکم اور اس کے اعمال و کردار خدا کی تقدیر ہیں۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صاحبان اقتدار اتنے پر بھی قانع نہ تھے اور اسے اپنی حاکیت کو مستحکم بنانے کے لئے کافی نہیں سمجھتے تھے۔ لہذا بہت ساری جھوٹی احادیث گڑھ ڈالیں اور یہ حدیثیں وجود میں آئیں کہ کسی بھی صورت میں بیعت کا توڑنا جائز نہیں ہے۔ جو اپنے امیر کے ہاتھوں پر بیعت نہ کرے وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ وہ جیسا بھی ہو خواہ اچھا ہو یا برا، عادل ہو یا فاجر، اس کے پیچھے نماز ادا کرو اور اس کے دستور کے سامنے گردن جھکا دو۔ انھیں برا بھلانہ کہو کہ انھیں برا کہنا مجھے برا کہنے کے برابر ہے۔ ان لوگوں نے نماز کو اس کے وقت سے تاخیر کر دی تو کسی اعتراض کے بغیر نماز میں ان کی اقتدا کرو، حاکم کے خلاف خروج کرنے کی فکر کوڈہن سے نکال دینا اور جو بھی ایسا کرے گا وہ دین سے خارج ہو جائے گا۔ اور جو بھی حاکم کے خلاف قیام کرے گا اس کی گردن مار دو۔ جو بھی مسلمانوں میں اختلاف کا باعث بنے اسے قتل کر دو۔ ہر صورت میں، خواہ رضایت کے ساتھ ہو یا اکراہ کے ساتھ، اپنے حاکم کی اطاعت کرو۔ اقتدار کی خاطران سے مقابلہ کے لئے قیام

نہ کرو۔ ہر وہ قوم جو سلطان کو ذلیل کرنا چاہے تو خداوند عالم اس کو اس دنیا میں ذلیل کرے گا اور ہر وہ شخص جو کسی امیر کے ہوتے ہوئے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے تو اس پر خدا، ملائکہ اور لوگوں کی لعنت ہو اور ایسے شخص کی گردان مار دو۔ (۹۲)

یہ بھی جبری کے رواج دینے کی امویوں کی ایک داستان تھی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ حاکم کو ایک ایسی موقعیت عطا کر دیں جہاں پر وہ ہر قسم کی تنقیدوں سے محفوظ رہے، واقعیت تو یہ ہے کہ وہ اپنے اس ہدف میں کامیاب بھی ہو گئے ان لوگوں نے اس راہ میں اس قدر سعی و تلاش کی کہ بعد میں اس طرح معروف ہو گیا الجبرا والتشبیہ امویان والعدل والتوحید علویان یعنی اموی وہ لوگ ہیں جبر و تشبیہ کے مروج، طرفدار اور اس کی تبلیغ کرنے والے ہیں اور علوی وہ لوگ ہیں جو عدل و توحید کے دائی ہیں۔ درحد امکان ائمہ (ع) انہا مفلوج، بے حرکت اور بے حس بنا دینے والے جبری رجحان کے مقابلہ میں کھڑے ہوئے اور اس سے مقابلہ کیا لیکن متعدد اسباب کے تحت جن میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے اس کو وسعت میں اس فکر نے اپنی جگہ بنالی اور حاکم کے متعلق اہل سنت کے نقلوں کو بنانے میں بنیادی حصہ حاصل کر لیا لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اہل سنت نے بعد میں جبرا کے متعلق ان مبلغین کی تفسیر کو مان لیا۔ پھر بھی یہ بات ان کے حق میں ایک حد تک صحیح ہے لیکن اس مقام پر یہ نکتہ تھا کہ حاکم کے متعلق اہل سنت کا نظریہ ایسی فکر سے متاثر ہو کر پھلا پھولا اور یہ موردن قبول قرار پایا۔ (۹۳)

یہ احادیث اگرچہ جبری رجحان کے موضوع کے ساتھ امویوں کی مستقیماً تبلیغ و ترویج اور حمایت حاصل نہیں تھی لیکن اس کے برے اثرات کا نتیجہ ضرور تھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ

قوی اور اسے مستحکم بنانے کی خاطر گڑھی گئی تھیں۔ یہ احادیث حاکم کے اقدامات اور اس کے اوامر کے متعلق تھیں جو الہی مشیت اور اس کے ارادہ کے متعلق ہونے پر دلالت کرتی تھیں، درحقیقت یہ احادیث حاکم کو ایک ایسے مقام پر پہنچانا چاہتی تھیں جس کے بعد وہ ہر قسم کے نقصان اور تنقید سے محفوظ کر رہا تھا، اس کے بغیر کہ اس کے لئے دینی شان اور منزلت کو بتانے کی کوئی ضرورت پڑے تا کہ اس طرح اس کے سایہ میں اس کو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رکھا جاسکے۔ اور وہ احادیث جو حاکم کی اطاعت کے وجوب اور اس کے خلاف قیام یا بیعت کے توڑنے کی حرمت پر دلالت کرتی تھیں درحقیقت وہ بھی اس خدشہ ناپذیر حیثیت کو باقی رکھنے اور ہر قسم کی تنقید سے بری اور محفوظ تھیں۔

اہل سنت کے تمام فقہاء اور محدثین اور متكلّمین، علام حاکم کے متعلق اسی زاویہ سے فکر کیا کرتے تھے اور اسی کی بنیاد پر ان لوگوں نے اس کی اطاعت کے وجوب اور اس کی مخالفت کی حرمت اور اس کے حدود و اختیارات کے متعلق تعریف اور تحلیل و تجزیہ کیا۔ ان لوگوں کے کلام کا لب لباب یہ تھا کہ خود حاکم، ہونے کے عنوان سے کہ وہ کون ہے اور کیسے قدرت کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے عقائد کیا ہیں اور وہ عمل کیسے کرتا ہے؟ وہ بھی مشروعیت رکھتا اور اس کی اطاعت واجب ہے۔ اس لئے کہ اس کا حضور اور اس کی قدرت ایک واقعیت ہے اور یہ خدا کی مشیت اور اس کا ارادہ ہے جس نے اسے ایک واقعیت میں متجملی کر دیا ہے۔ (۹۴)

اگرچہ اہل سنت کے متكلّمین اور ان کے بزرگ فقہاء اور علماء کے درمیان ایسے لوگ بھی پائے جاتے تھے، جن کے نظریات حاکم کے متعلق ایسے نہ تھے یعنی مثال کے طور پر حاکم میں

عدالت، دینداری، شجاعت، سیاست، ذہانت، قرشی ہونا، یہاں تک کہ مجتہد ہونے کی شرط کو بھی ضروری سمجھتے تھے۔ لیکن اولاً ایسے لوگ اقلیت میں تھے اور دوسرا یہ کہ وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ ان کے نظریات فراموشی کے حوالہ کر دیئے گئے اسی طرح کہ جیسے معتزلہ کا کوئی نام نہیں بچا اور ان کے عقائد اور افکار اشعریوں اور سلفیوں کے خشک عقائد کے تحت الشعاع قرار پا گئے۔ ایسے متكلمین اور فقہہ کا ایک گروہ ان کے ہم فکر آزاد فکر معتزلیوں کی طرح ابتدائی صدیوں کے شکوفائی اور ترقی کے زمانہ اور تمدن اسلامی کے عقلانی دور میں معروف ہو گئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ناپید ہو گئے۔ اہمیت کا حامل یہ ہے کہ ان کے افکار نہ تو خود انھیں کے دور میں اور نہ ان کے بعد والے ادوار میں بدرجہ اولیٰ بے توجہی کا شکار ہو گئے، نہ ہی ان کے افکار کو فقہی و کلامی یا سیاسی و معاشرتی حیثیت مل سکی اور نہ ہی اہل سنت کے دینی (سیاسی) عقائد کا حصہ نہ بن سکے۔ بلکہ جس چیز کو حاکیت حاصل تھی اور کلیدی حیثیت کی حامل تھی وہ وہی عمومی فکر تھی جس نے تاریخ اسلام کو وجود بخشنا اور اب بھی تمام تغیرات کے باوجود قائم ہے اور فعالانہ طور پر عمل کر رہا ہے۔

### مرجہ کی فکر

اس مقام پر دوسرا عامل ایک ایسی فکر تھی جو امویوں کی حکومت کے وسط میں ظاہر ہوئی اور بڑی ہی تیزی سے ترقی پا کر پھیلی چلی گئی اور وہ مر جہ کی فکر تھی۔ یہ کہ تفکر کیوں وجود میں آیا اور کیسے پھیل گیا، یہ خود ایک مستقل بحث ہے۔ لیکن جو چیز مسلم ہے وہ یہ ہے کہ امویوں نے بڑی بے

صبری سے اس (تفکر) کا استقبال کیا اور وسعت اور رواج دینے کی سعی و تلاش کی اور اس سے بہت زیادہ فائدے اٹھائے۔ (۹۵)

مرجحہ کی فکر دراصل خوارج کے شدت پسند طرز فکر کے مقابلہ میں عکس العمل کے طور پر وجود میں آئی جو اس بات کے قائل تھے کہ گناہ صغیرہ کا مرتكب بھی کافر ہے اور اس کا قتل بھی واجب ہے۔ خوارج کی یہ شدت پسندی ایک طرح کی اباحتگری کا موجب بنی جو اس بات کا عقیدہ رکھتی تھی کہ ایسا عمل ایمان کو نقصان نہیں پہونچا سکتا۔ (۹۶) لوگوں کی نیکیوں یا برا یوں کو ان کے اعمال و کردار کی بنیاد پر اس کے سلسلہ میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اہمیت کا حامل یہ ہے کہ وہ شخص با ایمان ہو۔ لیکن یہ کہ اس کے اعمال کیسے ہیں؟ نہ تو اہمیت کے حامل ہیں اور نہ ہی اس دنیا میں افراد کو اس معیار پر پر کھنے کے قابل ہیں۔ نہ ہی ان کا موافقہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ عقیدہ ایک طرح سے اعتقادی اور دینی توجیہ اور پناہ کی حیثیت رکھتا تھا تاکہ اس کے ذریعہ ہر قسم کی معصیت اور بے بندوباری سے توجیہ کے ذریعہ اپنے آپ کو ان سے بچایا جاسکے۔ لہذا یہ لا ابالی لوگوں کے لئے مطلوب ہے اور اس دور کے معصیت کاروں کے حق میں تھا جو اس زمانہ کی اکثریت میں تھے؛ یہی دوران جاہلیت کی میراث کے مطابق اور اس کے موافق بھی تھا۔ ایسی میراث اب بھی اپنی قدرت اور پورے تسلط کے ساتھ پا بر جا اور باقی تھی۔ (۹۷) دوران جاہلیت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اس دور کے لوگ ہر قسم کی قید و بند اور قانون و ضوابط سے دور بھاگ رہے تھے۔ دور جاہلیت کی ثقافت آزاد ثقافت اور ہر قسم کے قانون اور ضوابط سے دور تھی۔ زیادہ اہمیت کی حامل بات یہ ہے کہ ہر چیز کو مباح اور

ہر قید و بند سے آزادی کی ثقافت خاص طور پر شہوت کی ثقافت حاکم تھی۔ اس دور کے حالات بھی اسی قسم کی خصوصیات کو پسند کرتے تھے اور موجودہ شواہد بھی اسی امر پر دلالت کرتے ہیں اور اسلام ان خصوصیات کا چوڑھر فرمان مخالف اور اس کا مخالف تھا۔ اگرچہ دین اسلام نے اہم تبدیلیاں پیدا کیں، لیکن وہ ثقافت جنہوں نے اپنی اولاد کو انھیں خصوصیات اور ان کے پسندیدہ نظام کے مطابق ان کو پروان چڑھایا تھا اتنا ہی طاقتور، زیادہ اثر انداز اور اس کے کہیں زیادہ دیر پا اثرات تھے اور اتنی جلدی آسانی سے ممکن نہ تھا کہ اپنے مخالف کے حق میں میدان چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتے۔ اگرچہ وہ اس قدر قوی بھی نہ تھے کہ دین کا انکار کر دیتے اور خود دوبارہ حاکم بن بیٹھتے۔ لیکن کم سے کم اتنا ضرور تھا کہ وہ دین کے لباس کو اتنا رکر پہلے ہی کے مانند اپنی (اسی جاہلیت کے اصول پر) زندگی گزارے اور ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ (۹۸)

شہوت پرست اعراب کی شہوانی فطرت، حدود و قیود اور پابندی سے گریزاں رہنا، وسیع پیمانہ پر رفاه جیتی ہوئی زمینوں کی بے انہتا دولت و ثروت، اس کی خوبصورت کیزیں اور بڑی تعداد میں اسیر بنائے ہوئے غلام عیاشی کے نئے نئے آلات جو اس سے پہلے قابل تصور بھی نہ تھے، مجموعی طور سے حالات ایسے بنادیئے گئے تھے، (۹۹) خود وہ لوگ کسی ایسے سہارے کی تلاش میں تھے تاکہ اس کی مدد کے ذریعہ اپنے باطنی اور وجدانی دباؤ کو کم کر دیں اور کوئی عندر شرعی تلاش لیں اور وہ اپنی عیاشی میں مشغول ہو جائیں۔ اور واقعیت تو یہ ہے کہ لوگوں کا لا ابالی گری اور ہر قسم کی قید سے آزادی اور عیاشی امویوں کے دور میں خود امویوں سے کم نہ

تھی۔ نمونہ کے لئے آپ کتاب الاغانی میں رجوع کر سکتے ہیں۔ (۱۰۰)

زمانہ جاہلیت کی طبیعت، اس دور کی روحی اور نفسانی تنشیٰ اور اسی طرح معاشرتی اور ثقافتی حالات مر جمہ کی فکر یعنی بے بند باری کی فکر کو طلب کر رہی تھی۔ اسی وجہ سے جب یہ تفکر وجود میں آیا تو لوگ ماہی بے آب کی طرح اس کی طرف ٹوٹ پڑے البتہ خود اموی لوگ بھی انھیں حالات کو دو اسباب کے تحت پسند کرتے تھے۔ اس لئے کہ اولاً: یہ تفکر شہوت انی اور خواہشات نفسانی کے مطابق تھا اور جب عوام حلال طیٰ اور عیش و نوش کی بدولت دینی اور اخلاقی پابندیوں سے منہ موز کر اپنی انتخاب کی ہوئی ڈگر میں چل پڑے تو اس صورت میں کوئی بھی دوسرا شخص ان پر تنقید نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرا: اس اصل کے مطابق جو کہتا ہے کہ عمل اور کردار ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ اصل انھیں بچالیتی تھی، اس لئے کہ اس کی مدد سے وہ لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر حاکم یا اس کے والی خود حاکم سے عیاشی میں ان کے آدھا بھی نہیں تھے۔ ان کے حکام ان لوگوں سے زیادہ لاابالی اور بے بند بار تھے اور فسق و فجور میں بنتا ہوں، شراب پیتے ہوں، ظلم و ستم کرتے ہوں، تعدی و تجاوز کرتے ہوں تو اس کے لئے یہ اعمال اتنے اہم نہیں ہیں اہمیت کا حامل توصیر ایمان ہے اور اس کے اعمال اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اسے یہ اعمال نہ تہا دین سے خارج نہیں کرتے بلکہ اس کے ایمان و معنویت کے مرتبہ کو بھی کم نہیں کر سکتے۔ اس طرح بڑی ہی آسانی سے اپنے تنقید کرنے والوں کو افکار عمومی کے مقابلہ میں نہ تھا کر دیں گے۔ اس لئے کہ آخرش ان کے کلام کا لب لباب یہ تھا کہ یہ لوگ ایسے اعمال کے ارتکاب سے اپنے ایمان و تقویٰ کو کھو بیٹھتے ہیں اور اس

طرح حاکمیت کی صلاحیت اور شانستگی کو بھی کھو بیٹھیں گے۔ (۱۰۱)

بہر حال یہ مسلم ہے کہ اس طرز فکر کو امویوں کی طرف سے حمایت اور تشویق حاصل رہی ہے اور حاکم کو شرعی اور قانونی حیثیت دینے اور اس کو محفوظ کرنے، جو حاکم کو مستحکم بنانے اور ہر قسم کی تنقید سے روک دیتا ہے، کم از کم امویوں کے دوسرے دور میں حائز اہمیت کردار ادا کیا ہے۔ البتہ جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ اس درمیان دوسرے عوامل بھی دخیل رہے ہیں کہ ہم ان کے بیان سے صرف نظر کرتے ہیں۔

### تیسرا فصل کے حوالے

(۱) ابن ابی الحدید نقل کرتے ہیں کہ بنی امیہ کے کچھ لوگ ایک ساتھ ہو کر معاویہ کے پاس گئے اور اس سے کہا: اے امیر المؤمنین! تمہیں جو چاہیئے تھا وہ حاصل کر لیا۔ لیکن ابھی تک کیوں اس مرد (حضرت امام علی ابن ابی طالب) پر لعنت کرنے سے باز نہیں آتے؟ معاویہ نے جواب میں کہا: خدا کی قسم میں اس وقت تک اپنے اس عمل سے دست بردار نہیں ہوں گا جب تک کہ بچے اسی لعنت پر بزرگ نہ ہو جائیں اور بزرگ لوگ اسی پر بوڑھے نہ ہو جائیں اور کوئی بھی ذا کر اس کی ایک بھی فضیلت کو بھی نقل نہ کرے۔ الحص والا جihad، کے ص ۹۹ پر جو شرح ابن ابی الحدید، کی ج ۱، ص ۴۶۳ سے منقول ہے۔ اسی مطلب کو ابو جعفر اسکافی کے کلام سے مقابسہ کریں کہ اس نے کہا: اگر خدا کی خاص توجہ اس مرد (حضرت امام علی) کے ساتھ نہ ہوتی تو جو کچھ بنی امیہ اور بنی مروان نے اس کے خلاف انجام دیا ہے، ان کی فضیلت میں ایک حدیث بھی باقی نہیں بچتی۔ دوسرے نمونوں کو حاصل کرنے کے لئے شرح ابن ابی الحدید، کی ج ۴، ص ۵۶-۱۱۶، پر رجوع کریں۔

(۲) گولڈز یہر نقل کرتا ہے: اموی لوگ نماز عید کے خطبے کو نماز پر مقدم کرتے تھے تاکہ لوگوں کے متفق ہونے سے پہلے ان کے کلام کو سن لیں اور اس کے بعد مزید اضافہ کرتا ہے وہ لوگ نماز پڑھ کر مسجد کو ترک کر دیتے تھے تاکہ وہ خطبے جو حب اور حضرت امام علی کی لعنت کے سلسلہ میں ہوتا تھا اسے نہ سنیں۔

. P.51, Vol.2nd, Muslim Studies, Goldziher

(۳) اس سلسلہ میں مخصوصاً آپ الاسلام و اصول الحکم، نامی کتاب کی طرف رجوع کریں۔ جس میں اس واقعہ کی بخوبی تحلیل و تجزیہ اور تنقید بھی کی گئی ہے۔ ص ۱۱۳، ۱۳۶، ۱۸۰، ۱۸۲۔

- ۱۸۲

(۴) اموی لوگ عباسیوں کے برخلاف نہ تودین کے ضرورت مند تھے اور نہ تو اس کا تظاہر ہی کرتے تھے۔ تربیت اور ان کے نفسیات، عادات اور ان کے اخلاقیات زیادہ تر جاہلیت اور بدويت سے تال میل کھاتے تھے، ان کا کردار بھی اسی کے مطابق تھا۔ ان لوگوں کی سیاست پیشتر ایک قبیلہ کے سردار سے میل کھاتی تھی نہ کہ خلیفہ اور ایک بڑی سلطنت کے بادشاہ سے۔ یہی وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے بہت ہی تیزی سے ان کی حکومت کا خاتمه ہو گیا۔ معاویہ جود و سروں سے زیادہ حفظ ظاہر کی رعایت کرتا تھا وہ خود کو فیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے: میرا ہدف تم لوگوں پر حکومت کرنا ہے اور مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ تم تمحیں نماز کے لئے آمادہ کروں اور زکاۃ کے لئے ابھاروں اس لئے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ ایسا ہی کرتے ہو۔ الامویون والخلافۃ، کے ص ۱۳، یا یہ کہ عبد الملک آشکارا کہا کرتا تھا: اے لوگو! راہ مستقیم پر آ جاؤ اور اپنی ہوا و ہوس کو چھوڑ دو اور ترقہ سے پر ہیز کرو اور ہمیں مسلسل مہاجرین اولین کی طرح اعمال انجام دینے کے لئے نہ کہو اور تم ان لوگوں کو نہیں جانتے ہو کہ ان لوگوں کی روشن اور کردار کیا تھا... الامویون والخلافۃ، کے ص ۱۲۲۔

لیکن عباسی (خلافاً) لوگ ایسے نہ تھے ان کی ہمیشہ یہی کوشش تھی کہ جہاں تک ہو سکے دین

کے احکامات پر پابند رہنے کا دکھاوا کریں، عباسیوں کے دور خلافت کا ابتدائی حصہ دینی رنگ لئے ہوئے تھا، تاکہ اس طرح وہ لوگوں کے درمیان ان کی دینی عظمت میں اضافہ ہو جائے۔ یہ روشن منصور کے زمانہ میں شدید ہو گئی تھی، اس لئے کہ اس دور میں ان لوگوں کی کمی نہیں تھی جن لوگوں نے اس کے خلاف قیام کیا... مبادی نظام الحکم فی الاسلام، ص ۵۸۔ امویوں کی جاہلی تعصّب کا ایک نمونہ یہ ہے: اموی خلفاء اس شخص کی بیعت کو پسند نہیں کرتے تھے جس کی ماں کنیز رہ چکی ہو۔ تاریخ ابن عساکر، ج ۵، ص ۲۰۶۔ یا یہ کہ ابن ابی الحدید یہ کہتا ہے: امویوں کے یہاں یہ مشہور تھا کہ ان کا آخری خلیفہ وہ ہے جس کی ماں کنیز ہو۔ اسی وجہ سے خلافت کو ایسے شخص کے حوالہ نہیں کرتے تھے۔ اس لئے کہ اگر قرار یہی ہوتا تو پھر مسلمۃ بن عبد الملک ان میں سے سب سے بہتر ہوتا۔ شرح ابن ابی الحدید، کی ج ۷، ص ۱۵۷، پر رجوع کریں۔ اور اسی طرح الامویون والخلافۃ، نامی کتاب کے ص ۴۵، پر رجوع کریں۔ فخر الاسلام، ص ۹۱۔

عباسیوں کی روشن بالکل اس کے برعکس تھی اور عباسی لوگ صرف مواليوں (کنیزوں) سے شادی کرتے تھے۔ ۸۰۰ میں کے بعد کوئی ایسا خلیفہ ہوا، ہی نہیں جو کسی آزاد عورت سے پیدا ہوا ہو۔

, Goldziher. P.80, Classical Islam, Grunebaum. F.G

.88- Vol 2nd PP.38, Muslim Studies

عباسیوں اور امویوں کی سیاست اور ان کی روشن کے اختلاف کے بارے میں معلوم کرنے

- کے لئے آپ مذکورہ کتاب کے ص ۸۹۔۸۰، پر خاص طور سے رجوع کریں:
- (۵) البیان والتبیین، ج ۲، ص ۱۰۲۔۱۰۳۔
- (۶) صدر اسلام کے متعلق شیعوں کے تنقیدی نظریات کی مخلوقیت کو معلوم کرنے کے لئے آپ کتاب السنۃ مؤلفہ بر بہاری، طبقات الحنابلہ، کی ج ۲، ص ۱۸۔۴۵ پر رجوع کریں۔
- (۷) تحول و ثبات، ص ۸۷۔۱۰۰۔
- (۸) نظریۃ الامامۃ لدری الشیعیۃ الامامیۃ، ص ۳۱۹ اور ۳۲۰۔
- (۹) سابق حوالہ، ص ۳۲۱۔
- (۱۰) مثلاً مقریزی جو صدر اسلام اور اس کے بعد ولی صدیوں کے حوادث کی تاریخ اور اس ثقافت کے متعلق مطلع ترین افراد میں سے شمار کئے جاتے ہیں وہ ہر اس عبارت کو رد کرتے ہیں جس میں صحابہ کرام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ سے قضا و قدر، صفات خدا یا آیات مشابہ کے سلسلہ میں سوال کیا گیا ہے، ان کی نظر میں وہ سب روایات جعلی اور وضع کی گئی ہیں اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے صرف عبادات اور اس کی کیفیات کے سلسلہ میں سوال کیا جاتا تھا۔ خطط مقریزی، ج ۴، ص ۱۸۔۰، پر رجوع کریں۔ اسی نظریہ کے نقد کو معلوم کرنے کے لئے کتابنظم الاسلامیۃ، کے ص ۷۴۔۷۷، پر ملاحظہ کریں۔
- (۱۱) اعلام الموقعين، ج ۴، ص ۱۱۸۔۱۵۶ جس میں اصحاب اور تابعین کی اتباع کے وجوہ کے سلسلہ میں سیر حاصل بحث کی گئی ہے اور آپ اسی طرح کتاب ترااث الخلافۃ الراشدین کے ص ۱۴ اور ۱۵، پر بھی رجوع کر سکتے بر بہاری اپنی کتاب السنۃ ابن حنبل کی شرح میں صحابہ

کے اتباع کے وجوہ کے باب میں بیان کرتے ہیں: جان لو کہ دین تقلید ہے۔ تقلید بھی اصحاب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی... پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے اصحاب سے خطاب کر کے فرمایا: تم میں سے وہ لوگ جو میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت زیادہ اختلافات کا مشاہدہ کریں گے لہذا خبردار! کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی انھیں جدید اور حادث امور میں گرفتار ہو جاؤ کہ اس میں گرفتار ہونا ضلالت ہے۔ تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی اطاعت کرو۔ جو کتاب طبقات الحنابلۃ، کی ج ۲۹، ص ۲۹ سے منقول ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر کہتے ہیں: خدار! خدار! اپنے نفس کو بچائے رکھنا، صحابہ اور سلف صالح کے آثار کی اتباع تم پر واجب ہے۔ اور ان کی تقلید بھی تم پر لازم ہے، اس لئے کہ دین خود تقلید کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کے صحابہ کی تقلید۔ جو انھیں قبول کر لے گا وہ غلطی میں نہیں پڑے گا اور ان لوگوں کے بعد ان کی تقلید کرنا اور سکون و چین کا سانس لینا اور اس (تقلید) سے تجاوز نہ کرنا۔ سابق حوالہ، ص ۳۹۔ ایک اور مقام پر اس سے زیادہ واضح انداز میں کہتے ہیں: اگر تم نے یہ سنا کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور صحابہ سے جو کچھ ہم تک پہنچا ہے اس پر طعنہ کر رہا ہے اور اسے قبول نہیں کرتا یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی اخبار میں سے کسی خبر کا انکار کر رہا ہے، اس کے اسلام کو تمہم (مشکوک) جانو۔ اس لئے کہ وہ بے دین انسان ہے اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور صحابہ کو برا بھلا کہا اور ان پر طعنہ کئے ہیں۔ کیونکہ ہم نے خدا اور رسول، قرآن، خیر و شر اور دنیا و آخرت کو گذشتگان کے آثار کے ذریعہ ہی پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد اضافہ کرتا ہے: قرآن زیادہ محتاج ہے سنت کا

قرآن کی نسبت احتیاج کے مقابلہ میں، سابق حوالہ، ص ۴۵۔

(۱۲) الفتاوی الحدیثیة، ص ۳۰۵۔ عبد اللہ ابن مبارک کے سلسلہ میں ایسے ہی نظریہ کو بیان کیا گیا ہے اور اس کی شخصیت اور خصوصیات کے لئے آپ، الاسلام بین العلما والحكام، ص ۲۲۸ اور ۲۲۹۔

(۱۳) طبقات الحنابلۃ، ج ۲، ص ۲۱۔

(۱۴) اس نظریہ کی تقدیم کے باب میں کہ اصحاب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے درمیان قطعاً منافق اور فاسق بھی موجود تھے اور یہاں تک کہ بعض ایسے بھی تھے جن پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے لعنت کی تھی، اس سلسلہ میں معلومات کے لئے آپ: الْمُلْلَ وَالْخُلُكَ طرف رجوع کر سکتے ہیں استاد سجاحی، ص ۱۹۱۔ ۲۲۸۔ نیز انص والاجتہاد، ص ۵۱۹۔ ۵۲۵؛ اور مخصوصاً اس سلسلہ میں محمد تجانی کی زندہ بحث کو کتاب ثم اہتمدیت، میں ملاحظہ کر سکتے ہیں ص ۷۷۔ ۱۲۲۔ اضوا على سنته الحمدیۃ، کے ص ۳۲۹، ص ۳۵۶۔ ۳۶۳ پر ملاحظہ کریں۔

(۱۵) خصوصاً کتاب الفضل فی الْمُلْلَ وَالْأَهْوَاءِ وَالْخُلُكَ، کی ج ۴، ص ۹۴ پر مراجعہ فرمائیں؛ نیز کتاب الفضول الْمُحْمَمَة فی تَالِيفِ الْأَمَّةِ، کے ص ۷۔ ۶۰؛ پر بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ کتاب ثم اہتمدیت، کے ص ۴۱۔ ۴۴ کی طرف رکوع کیا جائے۔

(۱۶) الائمة الاربعة، ج ۴، ص ۱۱۷۔

(۱۷) طبقات الحنابلۃ، کی ج ۲، ص ۳۵۔ ۳۷، پر اسے ملاحظہ کریں۔ کتاب العواصم والقواصم فی الذب عن سنته ابی القاسم، کی ج ۳، ص ۲۳۔ ۲۳۰ پر رجوع کریں۔

(۱۸) التوانین الفقهیہ، ص ۱۸۔

(۱۹) العواصم من القواسم، کے ص ۲۳۱ اور ۲۳۲ پر رجوع کریں، محمود صدیقی ابن عربی اور انھیں کے جیسے افراد کی شدید تقدیروں کے سلسلہ میں اس طرح اپنے نظر کرتا ہے: اس کے باوجود کہ امام حسین کی نسبت اہل ظاہر اور سلفیوں کا عقیدہ دینی عقائد کے باعث وجود میں آیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا زاویہ نگاہ خالص دینی نہیں تھا۔ ان میں سے اکثر شام کے باشندے تھے، مانند ابن تیمیہ یا اندرس سے متعلق تھے جیسے ابن حزم اور ابن عربی، ان لوگوں کے نظریات اقلیمی تعصب کے شایبوں اور یا اموی تعصبات سے خالی نہ تھے۔ اور اصولاً ان لوگوں کے نظریات شیعوں کے عقائد کے مخالف تھے... اور چونکہ امام حسین کی شہادت شیعوں کے عقائد کے بنیادی منابع میں سے ایک تھا، شیعوں کے مختلف فرقوں کا وجود اور ان کا باقی رہنا اسی واقعہ کے مرہون منت ہے، لہذا اسے غلط اور کم اہمیت دکھانا اور یا اس جرم کی نسبت کو فیوں کی طرف دینا جو دراصل پوری شیعیت کو نابود کرنے کی ایک کوشش تھی۔ نظریۃ الامامة، کے ص ۳۳۸ پر رجوع کریں۔

(۲۰) امام حسین پر دوسری تقدیروں کے بارے میں جو آپ پر اعتراضات کئے گئے ہیں ان کے متعلق معلومات کے لئے آپ نظریۃ الامامة، نامی کتاب کے ص ۳۳۸ اور ۳۳۹ پر رجوع کر سکتے ہیں۔

(۲۱) تجب کی بات تو اس مقام پر ہے کہ ابن حنبل، ابن عربی کے نقل کے مطابق تھا اس سخن کی وجہ سے کہ وہ خود یزید کی زبان سے مطلب کو نقل کرتا ہے، اسے جلیل القدر اور عظیم

المغز لست مانا ہے اس حد تک کہ اسے انھوں نے اپنی کتاب الزہد، میں اس کا نام زہاد اور صحابہ و تابعین کی صفت میں شمار کیا ہے۔ اس کی تفصیل کے لئے آپ العواصم من القواسم، نامی کتاب کے ص ۲۳۲ اور ۲۳۳، پر تلاش کریں۔ یزید سے دفاع کے باب میں جسے انھوں نے دینی رجحان کے تحت ذکر کیا ہے، اسی طرح اسی کتاب کے حاشیہ میں محب الدین خطیب کے قول کی طرف رجوع کریں، ص ۲۲۷ اور ۲۲۸، اس مقام پر جہاں معاویہ کا یزید کو ولی عہد بنانے کے اقدام کے بارے میں اس کا دفاع کرتے ہیں، نیز اسی شخص کی کتاب کے حاشیہ کے ص ۲۱۵ اور ۴۸۴ پر رجوع کریں۔

(۲۲) نظریۃ الامامة لدری الشیعۃ: الاشتبہ عشریۃ، ص ۳۴۷، ۳۴۸۔

(۲۳) شرح ابن ابی الحدید، ج ۲، ص ۸-۳۵۔

(۲۴) الاقتصار فی الاعتقاد، کے ص ۲۰۳ اور ۲۰۵؛ کتاب شرح ابن ابی الحدید، میں امام الحرمین جوینی کے نظریات کے لئے ج ۲، ص ۱۰-۱۲؛ اس کے نظریات کی تنقید کا بھی جو بہترین اور بے طرف ترین تنقیدوں میں سے ایک ہے اسی مقام پر ص ۱۳-۴ میں تلاش کریں۔

(۲۵) ایہا الولد، فارسی ترجمہ، ص ۰۳؛ جو غزالی نامہ کے ص ۴۱۹-۴۳۶، سے منقول ہے۔ غزالی کا استدلال کہ وہ کہتا ہے: اس لئے کہ احادیث نبوی اور دوسرے صحیح مدارک اور مأخذ کی بنیاد پر کسی بھی مسلمان پر لعنت کرنا حرام ہے۔ اسی مطلب کو اس کے استاد امام الحرمین جوینی کی ایک متدل اور جامع ترین بیان کے ذریعہ وضاحت کرتے ہیں۔ شرح ابن ابی الحدید، کی

ج. ۲۰، ص ۱۱، پر رجوع کریں۔

(۲۶) یزید پر لعنت بھیجنے کے مخالفین اور موافقین کے نظریات اور دونوں طرح کے مطالب پر مشتمل احادیث اور دونوں طرف کے دلائل کو معلوم کرنے کے لئے ابن الجوزی کی کتاب الرد علی المتصب العنید کے عنوان سے مذکور ہے جو بہترین اور مستند ترین کتاب ہے آپ اس پر رجوع کریں۔

(۲۷) اہل سنت اور شیعوں کی تاریخی فہم اور نظریات ابتداء سے ہی جدا رہے ہیں۔ یہ فرق گذشتہ زمانہ میں عموماً صدر اسلام کی تاریخ میں خلاصہ ہو جاتا تھا اور آج کل پوری تاریخ اسلام کو شامل ہے بلکہ تاریخ اپنے عام مفہوم میں بھی تمامی ادوار کو شامل ہے۔ صدر اسلام کے متعلق ان دونوں زاویہ نگاہ اور فہم کے فرق کا مقایسه کریں کتاب العواصم من القواصم اور اس پر محب الدین خطیب کے مقدمہ اور حاشیوں کو انص والاجتہاد اور اسی طرح الغدیر، مخصوصاً اس کی ۴، ۶ اور ۷ ویں جلد کی طرف رجوع کریں۔

لیکن آج کل تبدیلی آچکی ہے۔ اس معنی میں اہل سنت کے روشن فکروں کی تاریخی فہم خاص طور سے صدر اسلام کے متعلق بعض اسباب کے تحت شیعوں کے نظریات سے نزدیک ہو گئی ہیں۔ اس مدعہ کی پہلی دلیل، دینی تھقہات میں کمی آجانا اور دوسری دلیل تاریخی تلقید کے جدید قواعد و ضوابط کی طرف متوجہ ہو جانا ہے۔ شاید اس گروہ کے بہترین نمائندہ طحسین ہیں جنہوں نے اپنی کتاب الفتنۃ الکبریٰ، کی پہلی جلد جس میں ان کے نظریات اور تحلیل و تجزیہ کیا ہے اور دوسری جلد میں بھی بہت سے موقع پر وہ شیعوں کے نظریات سے بہت نزدیک بلکہ

ان سے موافق ہیں۔ اگرچہ علامہ مرحوم امین الغدیر، کی ج ۹، ص ۲۵۱-۲۵۴، پرنیز انور الجندی اپنی کتاب مولفatu فی المیزان، کے ص ۶-۱۹، میں اس کتاب پر تنقید کی ہے لیکن اس کی طرح کے بہت سے نمونے تلاش کئے جاسکتے ہیں۔ بطور نمونہ آپ کتاب اندر یہ سیاسی دراسلام معاصر، نامی کتاب کے ص ۳۰۸-۳۳۲، پر کہ اس مقام پر جہاں دور حاضر کے سنی مصنفین کا واقعہ عاشورا کی بارے میں اس کی چھان بین اور تحلیل و تجزیہ کے طریقہ کو بیان کرتے ہیں۔ اگرچہ ابھی بھی دینی علماء اور روشن فکروں کی کمی نہیں ہے جو گذشتہ متعصّبین کی روش کو اپنائے ہوئے ہیں۔ بطور نمونہ مراجعہ کریں محمد الحامد الفقی کے حاشیہ کی طرف جو کتاب اقتضاء الصراط المستقیم، مؤلفہ ابن تیمیہ انصار السنۃ الحمدیۃ، کی جماعت کے صدر اور مذکورہ کتاب کے مصحح بھی ہیں مخصوصاً ص ۱۶۵ و ۱۶۶؛ التاریخ الاسلامی و فکر القرن العشرین، نامی کتاب میں بھی رجوع کریں خصوصیت کے ساتھ اس کتاب کے مقدمہ اور ص ۸۷-۱۰۶، اس کتاب کے مؤلف فاروق عمر جو روشن فکروں میں سے ایک ہیں۔

Marqiom and The Muslim .Maqime Rodinron (۲۸)

203-194,59- 34. PP,World

?v vfhvc4/dk hfvhidl 34/hg 34/v ifclrhgcsu 3※(۲۹)

.v4/vlwv 34/ hsblx 3.iihxlfhv

(۳۰) معالم فی الطریق، ص ۱۷-۱۹۔

(۳۱) سابق حوالہ، ص ۱۰۵-۱۰۶۔

(۳۲) سابق حوالہ، ص ۱۴۹۔ ۱۵۰۔

(۳۳) سابق حوالہ، ص ۶۰۔ ۶۱۔

(۳۴) الا زہر کی فتوائیمیٹی کے رئیس شیخ بکی، قطب کی کتاب کے سلسلہ میں اس طرح فرمایا: اگرچہ کتاب معالم فی الطریق، پہلی نظر میں ایک ایسی کتاب نظر آئے جسے دیکھ کر ایسا معلوم ہو کہ اس میں اسلام سے توسل کیا گیا ہے لیکن اس کا فتنہ انگیز طریقہ اور اس کے مصیبۃ بار اثرات جوانوں اور قاریوں کا وہ طبقہ جو اسلام کے متعلق کافی معلومات کے حامل نہیں ہیں، ان کے لئے اس کتاب کا مطالعہ اسلام سے بیزاری کا موجب ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے نزدیک زمانہ کے علاوہ دوسرے ادوار کو جاہلی دور کا نام دینا کفر آمیز عمل ہے۔ پیامبر و فرعون، ص ۶۲۔ دوسرے ناقدین کی تقدیموں کے بارے میں اسی مقام پر ص ۶۳۔ ۷۱ پر رجوع کریں اس سلسلہ میں خاص طور سے آپ رائد الفکر الاسلامی المعاصر مؤلفہ یوسف لعظم ص ۳۰۵۔ ۳۰۹، کی طرف رجوع کریں واسی طرح سید قطب کی طرف بھی: خلاصۃ حیاتۃ و مفہومہ فی الحركة، کے ص ۲۱۵۔ ۲۲۰، پر رجوع کریں ان لوگوں کے سلسلہ میں جنہوں نے دینی فریضہ سمجھتے ہوئے سید قطب پر تقدیم یا ان سے دفاع کیا ہے۔ سید قطب کے بارے میں کتاب الادیب الناقد، مؤلفہ عبد اللہ عوض الخباص نامی کتاب کے ص ۳۲۹، ۳۲۵ پر رجوع کریں۔

(۳۵) معالم فی الطریق، ص ۹۔

(۳۶) سید قطب نے اپنی کتاب معالم فی الطریق، میں جس میں انہوں نے حالات کا اجمالی

جاائزہ لینے کے لئے مذکورہ کتاب کو تحریر کیا اور ان کے موافقین و مخالفین کے نظریات کا خلاصہ معلوم کرنے کے لئے الادیب الناقد، مؤلفہ سید قطب، کی کتاب کے ص ۳۲۵-۳۲۹ پر رجوع کریں۔

(۳۷) بطور نمونہ سکی نے قطب پر تنقید کرتے ہوئے اس طرح اظہار خیال کیا: سید قطب نے خوارج کی طرح لَا حَمْدُ لِلّٰهِ مَعْلُومٌ سے استفادہ کیا ہے تاکہ مسلمانوں کو ہر قسم کی دنیاوی حاکمیت سے مخالفت کی دعوت دیں۔ اس کے بعد اضافہ کرتے ہیں: اس کے برخلاف قرآن نے مسلمان حاکم کی اطاعت کی وصیت کی ہے اور حاکم کو بھی چاہئے کہ وہ اپنے اتباع کے ذیل میں اپنی رعیت کے درمیان عدل کے مطابق حکومت کرے۔ اس کے علاوہ غالباً مسلمان ممالک کے پیشوا اور حکام نیک ہیں۔ پیغمبر فرعون، نامی کتاب کے ص ۶۲۔ اور الشیعۃ والحاکمون، نامی کتاب کے ص ۷ پر رجوع کریں؛ الفکر السیاسی الشیعی، کے ص ۲۶۹ پر بھی رجوع کریں۔

(۳۸) متفقہ میں کی تاریخ کے متعلق فکر و فہم کا بہترین نمونہ ابن عربی کی العواصم من القواسم، نامی کتاب ہے اور دور حاضر کا بہترین نمونہ اسی کتاب پر محب الدین خطیب کے حاشیے ہیں۔ قابل توجہ یہ ہے حتیٰ کہ ابن عربی ابن قتیبه، مسعودی جیسے مورخین حتیٰ مبرد حسیا شخص جو ابن عربی کی نظر میں ایک ایسا شخص ہے جس نے تاریخ کی ناگفته بہ باتوں کو بیان کیا ہے، ان پر شدت سے تنقید کرتے ہیں۔ العواصم من القواسم، کے ص ۲۴۸ و ۲۴۹ پر، انہوں نے شدت کے ساتھ ابن قتیبه اور ان کی کتاب الاماۃ والسياسة، پر تنقید کرتے ہیں۔ اور اس کو شیعہ شمار

کرتے ہیں حالانکہ یہ مسلم ہے کہ وہ شیعہ نہیں تھے۔ اس مدعای کی بہترین دلیل ان کی کتاب تاؤیل مختلف الاحادیث، مخصوصاً، اس کا ص ۷۳۔ ۷۰ ہے۔ وہ خود اور انھیں جیسے دوسرے افراد ایک باعظمت اور کسی تضاد اور خلاف کے بغیر تاریخ کو پسند کرتے ہیں اور کسی بھی صورت مائل نہیں ہیں کہ اسے کسی دوسری طرح پیش کریں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تمام مؤرخین میں صرف طبری کو پسند کرتے ہیں اور اسے موثق مانتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے کی بات کو نہیں سننا چاہئے۔ سابق حوالہ، ص ۲۴۸۔

محب الدین خطیب نے بیشتر شدت اور حدت کے ساتھ ابن عربی کے نظریات سے دفاع کرتے ہیں اور یہ فتنتہ ان کے مقدمہ اور اس کے حاشیوں کے مطالعہ کے ذریعہ معلوم ہو جاتا ہے جیسے کہ الامامۃ والسياسة، کو ابن قتیبہ کی کتاب نہیں مانتے اور مسعودی کو شیعہ اور مبرد کو خوارج سے نزدیک مانتے ہیں۔ اس سلسلہ میں کتاب تحول و ثبات، کے ص ۱۲۱، ۱۲۴۔ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔

(۳۹) اہل سنت اصولاً (اسساساً) تاریخ کی بہ نسبت خوش میں زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مخصوصاً اس مقام پر جہاں تاریخ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ ہو۔ یہ لوگ اپنے آپ کو ایسی قیمتی اور باعث افتخار میراث کا وارث سمجھتے ہیں اور ہر اس شخص کے مقابلہ میں جس کا مقصد اس کو بے اہمیت اور انھیں کم اہمیت دکھانا ہو، فوراً عمل ظاہر کرتے ہیں بطور نمونہ آپ مراجعہ کریں کتاب الاسلام و اصول الحکم، کی رو میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، خضر حسین سے لیکر ضیاء الدین الریس تک ہر ایک نے اس کے تنقیدی موقف بلکہ ان کی تعبیر کے مطابق تاریخ کے

متعلق بدبیٰ پر سخت تقيید کی ہے، مخصوصاً اس کے واسطے آپ الاسلام والخلافۃ فی العصر الحدیث، نامی کتاب کے ص ۲۵-۲۹۲ پر رجوع کریں اور کتاب الاسلام و اصول الحکم، پر محمد عمارہ کے مقدمہ کے ص ۷۱-۹۴ کی طرف رجوع کیا جائے۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ تاریخ کے متعلق اس دور جدید میں اہل سنت کی خوش بینی کی فکر کی نسبت بہت زیادہ جدید روشن فکروں کے استقبال کا باعث ہوئی ہے۔ جس کے بہت زیادہ اسباب ہیں جن میں سے اہم ترین یہ ہیں کہ اپنی مستقل حقیقت سے آگاہی اور شعور، غرب کی جانب سے مدام تحقیر، خود غربیوں کی جانب سے میراث اسلامی کی عظمت اور اسے اہمیت کے حامل ہونے کا یقین دلانا، نئی دنیا میں وارد ہونے کے لئے اس مقام (Stage) کے ہونے کی ضرورت اور آخر کار ان مباحث کا صاحبان قدرت کے سیاسی کھیل کے ساتھ متصل ہو جانا، یہ وہی اسباب ہیں جن کی وجہ سے وہ لوگ دوبارہ اپنے گذشتہ تاریخ کی طرف پلٹ آئے۔ بطور نمونہ التاریخ الاسلامی و فکر القرن العشریں، نامی کتاب کی طرف آپ رجوع کریں۔ لیکن اس بار مانند سابق مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اس کو ثابت نگاہوں سے دیکھیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ اسے باعظمت اور با شکوہ دکھائیں دوسروں کو بھی اس بات کا یقین دلائیں اور خود بھی اپنے یقین کو مستحکم کر لیں۔ ان کا ہدف گذشتہ کو کشف کرنا نہیں تھا۔ اس لئے کہ یہ کشف کیا جا چکا تھا۔ اس کا مقصد اس کی عظمت کو ثابت کرنا تھا اور یہ امر متعدد فکری اور عقایدی ہرج و مرنج اور نابر بری کا باعث ہوا اور بہت ساری خواہشات کو اپنے ساتھ لایا۔ اب انھیں یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا تھیا اور اب کیا کیا اور ان کی کیا کیا قدرتیں اور ان کی مشکلات کیا ہیں اور اب وہ کیا

چاہتے ہیں اور انھیں کس چیز کی ضرورت ہے؟

گرونبا姆 نامی شخص نے اس ذہنی اور فکری آشفتگی کو دور حاضر کے بزرگ ترین گب (Gibb) نامی عرب شناسوں میں سے ایک ہے اس سے اس طرح نقل کرتا ہے: میں گب نے نہایت افسوس کے ساتھ کہا: میں نے اب تک یورپ کی کسی بھی زبان میں نہیں دیکھا ہے کہ ایک عرب چاہے وہ کسی بھی گروہ کی جانب سے ہواں نے کوئی ایک کتاب بھی لکھی ہو جو کسی ایک یورپی طالب علم کی مدد کرے جس سے وہ عربی ثقافت کی جڑوں کا پتہ لگا سکے۔ اس سے ہٹ کر بلکہ اب تک میں نے خود عربی زبان میں کوئی ایسی کتاب نہیں دیکھی ہے جو خود اعراب کو عربی ثقافت کے معانی کا تحلیل و تجزیہ کر کے اسے بیان کر سکے۔ وہ اس کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہتا ہے: اس کلام کو غیر اعراب کی اعراب کو اپنے آپ اور مغربی لوگوں پر بھی وہ لوگ اپنی ثقافت کو پہچوانے میں اور اس کی وضاحت اور تفسیر میں بھی ان (اعراب) کی ناکامی میں مزید وسعت دی جاسکتی ہے۔ یہ بات ابھی بھی صحیح ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سالوں تک یہ کلام ایسا ہی رہے... ایسے دینی، سیاسی اور ثقافتی مقاصد اور ایک ایسی تحقیق تک پہونچنے کے لئے بندھ بنائے ہوئے ہیں یا کم سے کم اس راہ میں مانع ہیں جس کا ہدف اسلامی تمدن کی تفسیر اور توضیح ہے۔ جب بھی شرق و سلطی کے مسلمان اپنے سوابق کے متعلق یا غرب کے متعلق بات کریں تو سب سے پہلے ان کا فیصلہ سیاسی ہوتا ہے۔

86- 185.PP, 1949, Islam, Von Grunbaum. E.G

نیز کتاب تحول و ثبات، نامی کتاب کے ص ۱۷۳-۱۹۹ پر بھی آپ رجوع کریں۔

(۴۰) اصولاً شیعوں کے نزدیک اہم ترین، بلکہ جذباتی ترین اور سب سے زیادہ حمایت کرنے والا معیار شیعوں کے دور حاضر کے مذہبی ادبیات کی بنیادیں، کم سے کم ایران میں حکام پر تقید رہی ہے۔ اس حد تک کہ آخری دہائیوں کے مصنفوں اور روشن فکر حضرات تقید کرنے کو اپنا فرض منصبی سمجھتے رہے ہیں۔

(۴۱) بطور نمونہ آخری پانچ صدیوں کے درمیان ایرانیوں اور عثمانیوں کی حکومتوں کے درمیان تاریخی تسلسل کا ایک دوسرے سے مقایہ کریں۔

(۴۲) عصر حاضر میں سیاسی اور معاشرتی تبدیلیوں اور تغیرات سے متعلق عربوں کی فکری تبدیلیوں کو معلوم کرنے کے لئے تحول و ثبات، نامی کتاب کے ص ۳۲-۵۸ اور ۱۷۴ پر رجوع کریں۔ ۱۸۲، نیز مقالہ مدنیزہ کردن اسلام و تصوری بہ عاریت گرفتن فرہنگ، کی طرف رجوع کریں جو کتاب

185.PP, 1949. Islam, E.Von Grunebaum.G  
رجوع کریں۔

(۴۳) بائیکی بازو کی پارٹی اور لاد بینیت کے حامیوں کی طرف سے عبدالرزاق کی کتاب کے استقبال سے متعلق آگاہی کے لئے الاسلام والخلافۃ فی العصر الحدیث، نامی کتاب کے ص ۹-۲۱ کی طرف رجوع کریں۔ ان لوگوں نے اس کتاب کی اس طرح توصیف کی ہے: ایک ایسی کتاب ہے جس نے آگ بھڑکا دی، ایک ایسی آگ جواب تک خاموش نہیں ہوئی ہے، مصر کی سیاسی تاریخ میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل اسلامی کتاب، سب سے زیادہ

اہمیت کی حامل کتاب، عظیم بحران کا آغاز ہوتا ہے، بادشاہ کے مقابلہ میں عالم، کفر سے متهم عالم کا محکمہ، بادشاہ ایک عالم کے خلاف تھا بے ناص و مددگار کھڑا ہو گیا ہے، ان تغیرات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس میں دنیاۓ اسلام اور عربی دنیا نے ۸۰ کی پوری دہائی میں گذارایہ کتاب یا کم سے کم اس کتاب میں موجودہ مطالب مستقبل میں لوگوں کی توجہ اور غور و فکر کا باعث دوبارہ استقبال سے رو برو ہو گی۔ جیسا کہ ان آخری سالوں میں یہ کتاب متعدد بارز یور طبع سے آ راستہ ہو چکی ہے یہ واقعہ ایک کتاب کے لئے بہت بڑی بات ہے۔

(۴) بطور نمونہ نظام الاسلام، نامی کتاب کی طرف رجوع کریں مؤلفہ محمد المبارک کے ص ۵-۲۹ معاجم الخلافۃ الاسلامیۃ، نامی کتاب کے ص ۷۱-۸۳ پر بھی رجوع کریں۔

(۴۵) الاسلام و اصول الحکم، ص ۱۲۹۔

(۴۶) سابق حوالہ، ص ۱۳۲۔

(۴۷) سابق حوالہ، ص ۱۳۶۔

(۴۸) سابق حوالہ، ص ۱۶۸۔

(۴۹) سابق حوالہ، ص ۱۷۵۔

(۵۰) سابق حوالہ، ص ۱۷۸، ابو بکر کا زکات کے معین کرنے میں ان کی جنگ کی حقانیت اس حد تک اہل سنت کے درمیان اجتماعی اور اتفاقی حیثیت کی حامل ہے جس کی وجہ سے بے شمار فقہی احکام ظہور میں آئے اس کے لئے فقہ السنۃ، نامی کتاب مصنفہ السید سابق کی ج ۱، ص ۲۸۷، ۲۹۳ پر رجوع کریں۔

(۵۱) سابق حوالہ، ص ۱۸۱۔ یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو خلافت کے شرعی اور عقلی وجوہ کے قائل نہیں تھے وہ بھی ضرورت کے تحت اجماع مسلمین کے توسط سے اس کے لزوم اور وجوہ کے قائل ہو گئے تھے۔ لفظِ نظم الاسلامیہ، نامی کتاب کے ص ۲۸۰۔ ۲۹۳ پر رجوع کریں۔ جس میں آرنولد کے نظریات پر تقدیم کرتا ہے۔

(۵۲) سابق حوالہ، ص ۱۳۱۔

(۵۳) العقیدۃ والشورۃ، نامی کتاب کی طرف رجوع کریں۔

(۵۴) کنز العمال، ج ۶، ص ۴۔ ۸۹ پر رجوع کریں۔

(۵۵) الاسلام والخلافۃ فی اعصر الحدیث، ص ۳۱ پر رجوع کریں۔

الاسلام واصول الحکم، نامی کتاب نے ہالمحل مجادیے کے باوجود خاص طور سے دینی حلقوں میں شعلہ بھڑکا دیا، لیکن پھر بھی اس کتاب کے مؤلف کے افکار اور مطالب بعض متذمین کے نزد یک مقبول اور مورداستقبال قرار پا گئے۔ ان لوگوں میں سے ایک عبد الحمید متولی تھے۔ وہ بھی عبدالرزاق کی طرح نظام خلافت کی مشروعیت کا انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کو باقی رکھنے سے امت کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور اس امت پر عسر و حرج حاکم ہو جائے گا جبکہ شریعت نے نظام کے معطل ہو جانے سے منع کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس نظام کو قائم کرنا ایک ناممکن اور محال امر ہے۔ یہاں تک کہ یہ کہنا چاہئے کہ اسلام نے کسی خاص انداز کے نظام حکومت کی سفارش نہیں کی ہے۔ وہ آخر میں نتیجہ لیتے ہیں کہ خلافت اسلام سے نہیں ہے اور اس کا اسلام سے کوئی ربط نہیں ہے۔ معالم الخلافۃ فی الاسلام؛ الفکر السیاسی

الاسلامی، کے ص ۷۴ اور ۷۵ جو کتاب متولی سے منقول ہے وہاں پر رجوع کریں، مبادی نظام الحکم فی الاسلام، کے ص ۵۴۸۔ ۵۵۰ پر رجوع کریں۔

(۵۶) چونکہ سیاسی اور حکومتی مفہومیں اور اصولاً (قاعدتاً) وہ تمام مسائل جو خلافت و امامت سے متعلق ہیں اہل سنت کے نزدیک صدر اسلام کے تاریخی حقائق سے وجود میں آئے ہیں بلکہ یہاں تک کہ کہا جاسکتا ہے (کہ یہ مفہوم اور حد بندیوں اور تعریفوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے مگر یہ کہ اس دور کے حوادث کو ضابطہ مند بنانے اور اصولی شکل دینے) جس کے لئے دین و سنت کے برابر اہمیت کے قائل تھے۔ اسی وجہ سے حد سے زیادہ واقع بینی اور اس کی طرفداری کا لبادہ اڑھادیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ گویا موجودہ موقعت کو قبول کئے بغیر نہیں رہا جاسکتا اور اس بات کے لئے بھی مائل نہیں ہے کہ موجودہ موقعت کو اس سے بہتر موقعت کی خاطر ختم کر دیا جائے اور اس امر کے لئے اس حد تک مصر ہے کہ ایسے عمل میں ہاتھ بڑھانے کو حرام اور ناجائز شمار کیا ہے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ موجودہ حالت اگرچہ اسوہ (Ideal) نہیں ہے لیکن ان کی نظر میں نہایت تحلیل اور دنیا شناسی کے مطابق کسی بھی قسم کی تبدیلی اور تغیر سے بہتر ہے اور اس کی حفاظت ہونی چاہئے کہ یہ امر ان کی نظر میں بھی لوگوں کے دین اور دنیا کی مصلحت کے لئے بھی مفید ہے۔ المواقف، نامی کتاب کے ص ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ پر اس جگہ جہاں ان لوگوں کے نظریات کی رد کرتے ہیں جو اس بات کے کوشش ہیں کہ قاعدة لا ضرر کی مدد سے سلطان کی موجودگی اور اس کی اطاعت کے وجوب کے بطلان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس بارے میں صاحب

مواقف کی ردا اہل سنت کے سیاسی افکار کا بہترین اور کوتاه ترین بیان ہے۔ اعلام الموقعن، نامی کتاب کی ج ۳، ص ۳۔ ۷، پر رجوع کریں اور مخصوصاً کتاب السیاست الشرعیۃ، کے ص ۳۔ ۷ پر رجوع کریں۔

اس کے درمیان بعض ایسے لوگ رہے ہیں جو اصل مذکور کی کامل رعایت کرتے ہوئے، معاشرتی اصلاحات کے اقدامات لئے کی سفارش کی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شرط بھی لگادی ہے کہ جبکہ فضا پر سکون اور بغیر کسی حادثہ کے ہو۔ ان سب میں سرفہرست ابن تیمیہ ہے۔ وہ اپنی کتاب میں اس مقام پر جہاں اپنی مذکورہ کتاب کے بعض حصہ میں اس کے بعد کہ وہ کہتا ہے کہ ہدف یہ ہے کہ دین کو حاکمیت کی ضرورت ہے وہاں پر اس بات کا مذکورہ کیا ہے اور اس امر کو آیات و روایات کے ذریعہ ثابت کیا ہے۔ اس کے بعد اس طرح کہتا ہے: پس اگر ہدف یہی ہو تو پھر اقرب فالاقرب کی رعایت ضروری ہے اور یہ دیکھیں کہ حاکمیت کے ان دونوں امیدواروں میں سے کون اس ہدف کو پورا کرنے کے لئے زیادہ مناسب ہے اسے حاکم بنادیں۔ سابق حوالہ، ص ۲۴ پر رجوع کریں۔

البتہ ایسے نظریہ کے بے شمار فوائد میخنے میں آئے ہیں اور اب بھی ہیں۔ جب ہدف یہ بن جائے کہ موجودہ حالات کی حفاظت کی جائے اور اس کی اصلاح اس حد تک کہ عومنی تغیری یا سیاسی تبدیلی کا باعث نہ بنے، فطری طور پر نیک و بد کو پہچاننے کے معیار اور یہ کہ کیا کرنا چاہئے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، بالکل تبدیلی اس صورت میں وجود میں آجائے گی۔ یہاں پر تشخیص کا معیار موجودہ واقعیت بن جائے گا نہ کہ اس سے وسیع تر نظریات مثال کے طور پر اصل دینی

نظریات سے سأت پائے یا کم سے کم دینی افکار کو مشعل راہ بنائے۔ ابن تیمیہ کی روایت کے مطابق ابن حنبل کے اس کلام میں غور و فکر کریں: ابن حنبل سے ایسے لوگوں کے سلسلہ میں سوال کیا گیا۔ جن میں سے ہر دو شکر کے سردار ہیں ان میں سے ایک قوی اور فاسق و فاجر ہے اور دوسرا شخص، ضعیف اور صالح ہے۔ تو ان دونوں میں سے کس کی ہمراہی میں جہاد کے لئے جائے؟ ابن حنبل نے اس طرح جواب دیا: لیکن یہ کہ جو شخص فاسق اور طاقتور ہے اس کی قدرت مسلمانوں کے لئے ہے اور اس کا فتن خود اسی کے لئے ہے لیکن جو شخص صالح اور کمزور ہے، اس کی خوبی خود اسی کے لئے ہے۔ اس کا ضعف مسلمانوں کے لئے ہے۔ لہذا اس صورت میں قوی اور فاجر شخص کی ہمراہی میں جہاد کے لئے جانا چاہیے اور پھر اپنے اس جواب کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے ذریعہ اس کی توجیہ اور تکمیل کرتے ہیں: آپ نے فرمایا: خداوند عالم اس دین کی فاجرا فراد کے ذریعہ کرتا ہے... ص ۱۷۔

ایک دوسرے مقام پر پھر ابن تیمیہ نقل کرتا ہے: ایک بزرگ عالم دین سے سوال کیا گیا اگر قضاوت کے شغل کے لئے کسی فاسق عالم یاد بیندار جاہل کے علاوہ کوئی نہ مل سکے تو ان دونوں میں سے کون مقدم ہوگا؟ تو اس عالم نے جواب دیا: اگر فساد کے غلبہ کی وجہ سے اس دیندار کی زیادہ ضرورت ہو تو وہ مقدم کیا جائے گا اور اگر حقوقی مسائل کی پیچیدگی کی وجہ سے اس عالم کی زیادہ ضرورت ہو تو پھر اسے مقدم کیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ خود (ابن تیمیہ) اپنی عبارت میں کچھ اس طرح اضافہ کرتے ہیں: اس بات پر تو جہ رکھتے ہوئے جن میں کاملاً شرائط نہیں پائے جاتے ہیں جب انھیں ولایت کا عطا کرنا صحیح ہے جب کہ افراد میں وہ دوسرے موجود

افراد بہتر ہوں تو اس مقام پر واجب ہے کہ ان کا تعاون کیا جائے اور حالات میں سدھار لانے کی کوشش کرے تاکہ وہ چیز حاصل ہو جائے جس کے لئے لوگ ناچار ہوں... ص ۲۰ اور ۲۱ پر رجوع کریں۔

ایک دوسرے مقام پر اسی نکتہ کی اس سے زیادہ واضح انداز میں بیان کرتا ہے: تعاون کی دو قسمیں ہیں۔ تقویٰ اور نیکی پر تعاون جیسے جہاد، اقامہ حدود، شرعی حقوق کو لے کر اس کو مستحقین کے حوالہ کرنا۔ یہ تعاون کی وہی قسم ہے جس کے لئے خدا اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اور اگر کوئی اس بات سے ڈر کر کہ کہیں ظالموں کی مدد نہ ہو، ایسے اقدام سے اپنے آپ کو روک لے تو اس نے واجب یعنی یا کافیٰ کوترک کیا ہے اس گمان کے تحت کہ ایک فرد متنی اور پر ہیز گارہ یا اور بسا اوقات تقویٰ کے ساتھ ڈر اور سستی میں اشتباہ ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ دونوں ہی کا امساک اور اپنے آپ کو روک لینا ہے۔ تعاون کی دوسری قسم گناہ و ظلم پر تعاون کرنا ہے جیسے ناحق کسی کے قتل پر مدد کرنا یا کسی شخص کے مال محترم کا غصب کر لینا یا کسی کو ناحق مارنا اور اس کے ایسے دوسرے تعاون۔ تعاون کی ایسی قسم ہے جسے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے حرام قرار دیا ہے اور اس سے منع کیا ہے۔ ص ۴۲۔

ایسی فکر کی بنیاد پر اس کے درک اور تفسیر کی کیفیت ایک دوسرے اعتبار سے معاشرہ میں ایک طرح کی بعد عنوانی اور گڑ بڑی ہے۔ وہ صرف سلطان کو فساد کا باعث نہیں سمجھتا؛ بلکہ اس میں کچھ حصہ میں رعایا کو بھی شریک سمجھتا ہے۔ اس مسئلہ میں اس کا زاویہ نگاہ تھا سیاسی نہیں ہے، بلکہ معاشرتی اور ثقافتی بھی ہے۔ اس کی کتاب *السياسة الشرعية*، کی فصل سوم کا عنوان اس

طرح ہے: والیوں اور رعایا کے ظلم کے باب میں ص ۳۸۔ ۴۲ اور اس کے بعض دوسرے مقام پر کہتے ہیں: والیوں اور رعایا کی طرف سے کثرت سے ظلم سرزد ہوتا ہے یہ لوگ جو چیز حلال نہیں ہے اسے اپنا لیتے ہیں اور جو امر واجب ہوتا ہے اس سے منع کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ کبھی فوجی اور کسان بھی ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ لوگوں میں کے بعض گروہ جہاد سے منہ پھیر لیتے ہیں اور والی لوگ مال خدا کو اکٹھا کرتے ہیں جبکہ ان کا اکٹھا کرنا حرام ہے... میں ص ۳۸ اور ۳۹۔

حقیقت تو یہ ہے کہ یہ طرز فکر ایک طولانی سابقہ کا حامل ہے۔ اس طرح نقل کیا جاتا ہے کہ ایک روز اہل کوفہ کا ایک گروہ عمر کے پاس آیا اور اپنے والی سعد ابن ابی وقاص کے خلاف شکایت کی اس نے کہا: ائے لوگو! کون ہے جو مجھے کو فیوں کے لئے شائستہ ہو اور میرے ضمیر کو سکون پہنچائے؟ اگر کسی متقدی شخص کو وہاں کا والی بناؤں تو اسے یہ ناتواں بنادیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک ناتواں اور ضعیف کو والی بنایا ہے اور اگر کسی قدر تمند کو ان پر حاکم بناؤں تو اسے گمراہی اور خیانت کا الزام لگاتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ایک فاجر کو حاکم بنادیا ہے۔ اس مجلس میں مغیرہ بن شعبہ حاضر تھا اور اس نے ایسے کہا: ائے امیر المؤمنین! ایک متقدی اور ضعیف شخص کا تقویٰ خودا سی کے لئے ہے اور اس کا ضعف آپ کے لئے ہے اور ایک طاقتو فاجر انسان کی طاقت آپ کے لئے اور اس کا فتنہ خودا سی کے لئے ہے۔ عمر نے کہا: تم نے درست کہا۔ تو وہی قدر تمند اور فاجر انسان ہے پس ان لوگوں کی طرف جاؤ اور اس کو کوفہ کی حکومت عطا کر دی۔ عمر ابن خطاب، مصنفہ عبدالکریم خطیب، ص ۲۷۶۔ مغیرہ کی شخصیت اور اس کی

خصوصیات کو معلوم کرنے کیلئے شرح ابن الہدید، نامی کتاب کی ج ۲۰، ص ۸-۱۰ پر رجوع کریں۔

ایسے نمونے خاص طور سے عمر کے زمانہ میں کثرت سے دیکھے جاسکتے ہیں۔ مختلف موارد میں سے بہترین مورد معاویہ کا شام میں اور عمر و عاص کا مصر میں والی کے عنوان سے باقی رکھنا ہے کہ ان میں سے ہر دو اپنے کردار کی وجہ سے عمر کی تنقید کا نشانہ بنے بلکہ اس کے غصب کا موجب بھی تھے۔ لیکن اس کے باوجود آخری نکتہ کی رعایت کی بنا پر انھیں امارت سے معزول نہیں کیا۔ سابق حوالہ، ص کی ترتیب کے اعتبار سے ۲۷۲ اور ۲۷۷ پر رجوع کریں۔ ایسے ہی طرز فکر کے نمونوں کو حاجج کے کلام میں بھی مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ اس کے لئے آپ اغراض السیاست فی اعراض الریاست، نامی کتاب مؤلفہ علی ابن محمد سرفقندی کے ص ۲۸۵ پر رجوع کریں۔ نیز طبقات الحنابلۃ، نامی کتاب کی ج ۲۶، ص ۳۶ پر بھی رجوع کریں۔

اس آخری نکتہ کی کامل توضیح اس فکر کی فقہی، کلامی اور تاریخی بنیادوں کو ثابت کرنے، بعد میں آنے والے ادوار اور دور حاضر میں اس کے پیش آنے والے نتائج اور برے اثرات، اہل سنت کی مذہبی عمارت کو وجود دینے اور علماء و عوام کے نفیسیات کو جاننا طول کا باعث ہے اس کو شکل دینے میں اساسی کردار ادا کیا ہے۔ اس نکتہ کو یہاں بیان کرنے کا ہدف صرف ایک ایسے کی یاد دہانی تھی جو بہت اہمیت کی حامل ہے عین اس عالم میں کہ حساس ترین اور ظریف ترین نقاط میں سے ہے کہ معاشرتی اور سیاسی تبدیلیوں کو شدت سے جدا کرتا ہے ان آخری دہائیوں میں اہم بنیادی تبدیلیوں کے وجود میں آنے کے باوجود ابھی بھی اس تفاوت کو وضاحت کے

ساتھ ملاحظہ کیا جاسکتا ہے، اہل سنت کے درمیان آنے والے دور میں سیاسی بدلاو لانے والے عناصر کی کمی کے ساتھ یہ ہر صورت مستقبل میں سینیوں کے درمیان کثیر دلائل کے تحت تہراً ایسا ہو کر رہے گا اور یہ فرق اور زیادہ واضح ہو جائے گا۔ نیز آپ رجوع کریں:

, Studies on The Civilization of Islam,Gibb

.66-PP.141

(۵۷) اہل سنت کے درمیان حکومت کی نظریہ پردازی (Theory) کے باب میں اور حاکم کے خصوصیات اور ان دونوں کے درمیان رابطہ کے متعلق معلومات کے لئے من اصول الفکر السیاسی الاسلامی، نامی کتاب کے ص ۳۸۹-۳۵۹ پر رجوع کریں، حاکم اور حکومت میں ارتباٹ کو معلوم کرنے کے لئے نظام الاسلام، کے ص ۱۱-۵۰ پر بھی رجوع کریں۔  
خاصَّ الصِّرْبَعُ الْإِسْلَامِيُّ فِي السِّيَاسَةِ وَالْحُكْمِ، نامی کتاب مؤلفہ فتحی الدرینی کے ص ۲۶۳-۳۱۹ پر بھی رجوع کریں۔

(۵۸) اس نکتہ کے بارے میں کہ شیعہ زاویہ نگاہ سے امامت اور اس کے ضمن میں امام کے کیا شرائط ہیں؟ نمونہ کے طور پر حضرت امیر المؤمنین امام علی کے اس باب سے متعلق خطبوں میں سے ایک خطبہ کے لئے شرح ابن الحدید، نامی کتاب کی رج ۸، ص ۲۶۳ کی طرف رجوع کریں۔

(۵۹) بطور نمونہ الاحکام السلطانیہ، نامی کتاب مصنفہ ابو یعلی ص ۱۹-۲۵ پر رجوع کریں جس کا ایک حصہ اس طرح ہے: خلافت قہروانیہ کے ذریعہ منعقد ہوتی ہے اور بیعت کی کوئی

ضرورت نہیں ہے۔ جو شخص بھی تلوار کے زور پر غالب آجائے اور وہ امیر المؤمنین کہلوائے، پس ہر اس شخص پر جو بھی خدا پر اور روزِ جزا پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اس حاکم سے سر پیچی کرے اور اسے اپنا امام نہ سمجھے خواہ وہ اچھا ہو یا براہی کیوں نہ ہو۔ پھر اپنی بات میں اضافہ کرتے ہوئے کہتا ہے: امامت نماز جمعہ اس شخص کے ذمہ ہے جو غالب آجائے۔ ابن عمر سے نقل کرتا ہے کہ حرہ کے وحشت ناک واقعہ میں (جو یزید کے دور میں عوام الناس کا قتل عام کیا گیا واقع ہوا، اصحاب اور تابعین قتل کئے گئے اور ان کی ناموں پر تجاوز کیا گیا۔) حاکم کے ساتھ نماز پڑھی اور جب لوگوں نے اعتراض کرنے والوں کے جواب میں کہا: ہم اس کے ساتھ ہیں جو کامیاب ہو جائے۔ سابق حوالہ، ص ۲۳۔

اس سے زیادہ بہتر اور واضح انداز میں ابن حنبل کے قول کی طرف الائمة الاربعة، نامی کتاب کی ج ۴، ص ۱۱۹ اور ج ۱۲۰، ص ۱۲۰ پر رجوع کریں۔

(۶) الائمه والیاسیة، ج ۱، ص ۱۲۔ ایک دوسری نمونہ بشیر ابن سعد انصاری کا کلام ہے جب حضرت امام علی نے اپنے ایک بیان میں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے اوصاف بیان کئے اور یہ کہ یہی خلافت کیلئے اولویت رکھتے ہیں انھیں خلافت کے لئے اولی سمجھا تو سعد نے آپ کو مخاطب کر کے کہا: اے علی! اگر انصار نے ان باتوں کو ابو بکر کی بیعت سے پہلے سن لیا ہوتا تو ان میں سے کوئی ایک بھی اس امر میں تمہارے بارے میں اختلاف نہ کرتا۔ سابق حوالہ، ص ۱۲۔ اگر خلیفہ فاسق ہو جائے تو اسے ممزول نہیں کیا جا سکتا، حنفی فقہاء سب کے سب متفق القول ہو کر ایک ہی رائے دی ہے۔ خلافت کے لئے عدالت شرط نہیں ہے لہذا فاسق

مرد بھی خلیفہ بن سکتا ہے، اگرچہ اس کا خلیفہ بننا مکروہ ہے۔ عبدالکریم البرکان نقش کرتا ہے: میں نے اصحاب پیغمبر میں سے دس صحابیوں کو دیکھا کہ ان سبھی لوگوں نے جائز حکام کی امامت میں نماز پڑھی۔ کتاب معالم الخلافۃ الاسلامیۃ، ص ۳۰۶ اور ۳۰۷۔

(۶۱) اس کے بہترین نمونوں میں سے ایک نمونہ خود امام حسین کی صریح تنقید ہے جس میں ان علماء کی سخت مذمت کی ہے جو ستم پرست اور بد عہدر ہے ہیں۔ کتاب تحفۃ العقول، ص ۱۷۱،

-۱۷۲

(۶۲) من اصول الفکر السیاسی الاسلامی، ص ۴۳۸، ۴۴۴۔

(۶۳) کتاب الخلافۃ والامامة، مصنفہ عبدالکریم خطیب، ص ۳۰۳۔

(۶۴) کتاب الاسلام واصول الحکم، بڑے ہی اچھے انداز میں اس داستان کی تحلیل اور چھان بین کی گئی ہے۔ خاص طور سے ص ۱۶۸-۱۸۲ پر مراجعہ کریں۔

(۶۵) گولڈزیہر نے بہترین انداز میں عبایسیوں کے اقدامات کے اثرات کو مسلمانوں کی فقہی و کلامی اور احادیث کے مجموعہ کی عمارت کو شکل صورت دینے اور ان کی موقعیت کے استحکام کے بارے میں بھی توضیح دیتا ہے۔

77- 75. PP, Vol 2nd, Muslim Studies, Goldziher.

(۶۶) مفہوم علیت کے باب میں اور بنیادی طور سے اعراب کی عقلانی زندگی کے بارے میں فجر الاسلام، نامی کتاب کے ص ۴۹-۳۰ پر رجوع کریں۔

(۶۷) فجر الاسلام، ص ۳۹۔

(۶۸) سابق حوالہ، ص ۴۔ سیرہ ابن ہشام سے منقول ہے۔

(۶۹) السنۃ النبویۃ بین اہل العقد و اہل الحدیث، ص ۹۵۔ یہ کتاب ایک مشہور و معروف اور بزرگ ترین روشن فکر علماء میں سے ایک شخص کی تصنیف ہے جو بہترین نمونوں میں سے ایک ہے، جس میں مصنف نے خود اپنے اور اپنے اس مؤلف اور اس کے ہم فکر اور مسلمان طرفداروں سلفی اور وہابی مسلک لوگوں کی دین اسلام سے متعلق فہم میں پائے جانے والے فرق کو بخوبی بیان کیا ہے۔ یہ کتاب اس زاویہ سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے اپنے مضمون کے اعتبار سے اس قدر اہم نہیں ہے، اس کے ضمن میں مؤلف نے سعودی عربیہ کے طالب علموں سے ہوئے اپنے مناقشہ کو جو حلیت اور حرمت غنا کے سلسلہ میں ہے اور یہ کہ غنا کی کون سی قسم حرام ہے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب وہ عبدالعزیز یونیورسٹی میں مشغول تدریس تھے، اپنے اسی مناقشہ اور مناظرہ کو درج کیا ہے اور اس کے بعد بازگو کرتے ہیں: ... اس کے بعد میں نے اس سے سنبھیگی سے کہا: اسلام ایک اقلیتی دین نہیں ہے جو تمھیں سے متعلق ہوا اور صرف تمھیں اس کو درک کر سکو اور صرف تمھیں اس کی تفسیر سے واقف ہو۔ تمہاری فقہ ایک بدوسی، خشک اور محدود ہے اور جب تم اس فقہ اور اسلام کو ایک ردیف میں قرار دیتے ہو اور اس دور کو جدانہ ہونے والا دور قرار دیتے ہو تو اس عمل کے ذریعہ اسلام کو سبک اور لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہو اور یہ اسلامی فریضہ اور ہدایت کی بہ نسبت ایک بہت بڑا ظلم ہے....

ص ۷۵۔ ۷۶۔

(۷۰) فجر الاسلام، ص ۴۱، ۴۲۔

(۷۱) سابق حوالہ، ص ۴، جو کتابِ الملل و النحل، شہرتانی سے منقول ہے۔

(۷۲) عیسائی اور یہودی علماء مخصوصاً وہ علماء جو مسلمان ہو گئے ہیں مسلمانوں کے افکار اور عقائد میں ان کی تاثیر کو معلوم کرنے کے لئے الملل و النحل، نامی کتابِ مؤلفہ استاد سجادی کے ص ۹۶-۷۱ معاویہ کی دوستی کے افسانہ اور اس کی ترویج کے سلسلہ میں معلومات کے لئے آپ مردوج الذہب، نامی کتاب کی ج ۳، ص ۳۹ پر رجوع کریں۔

حقیقت تو یہ ہے کہ صدر اول کے عربوں کی ابتدائی بسیط ذہنیت اور ان کی ثقافت اور بہت سارے سوالات جو اسلام کے آنے سے اور ان لوگوں کا دوسرا اقوام مل میں میں جوں کی وجہ سے ان کے ذہنوں میں (بے شمار سوالات) اٹھے تھے اور ان کی حساس و تحسیں پسند طبیعت اس احترام کے ساتھ جس کے لئے اپنے واسطے دوران جاہلیت سے قائل تھے، یہ خود علام اہل کتاب کا مسلمانوں میں نفوذ کے لئے حالات کی فراہمی کی بہترین دلیل ہے۔ ابن خلدون اس مقام پر جہاں وہ قرآن کی تفسیروں کے سلسلہ میں بحث کرتے ہیں بڑی ہی ہوشیاری اور کیاست کے ساتھ اس نکتہ کی طرف اشارہ اور تاکید کرتے ہیں کہ اس کی اہمیت کے لحاظ سے، ہم اس نکتہ کو کامل ذکر کر رہے ہیں: ایک تفسیر روایتی جو سلف کے ذریعہ نقل ہوئی احادیث اور آثار کی طرف مستند ہے جو ناسخ و منسوخ کو پہچانا، نزول آیات کو جانا اور ان کے مقاصد کو سمجھنا ہے اور ان تمام مسائل کو جانے کے لئے صرف ایک راستہ رہتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم صحابہ اور تابعین سے (روایات کو) نقل کریں اور متفقہ مین نے اس راہ میں ایک کامل مجموعہ آمادہ کیا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے ان کی کتب اور منقولات صحیح اور

سقیم اور قبل قبول اور مردود روایات پر مشتمل ہیں اور اس کا سبب یہ ہے کہ عرب قوم اہل کتاب اور دانشوروں نہیں تھے، بلکہ ان کی طبیعت پر بادیہ نشینی اور جاہلیت کی عادت غالب آگئی تھی اور ہمیشہ ایسے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے اور جب بھی مسائل کو سیکھنے کا ارادہ کرتے تھے کہ انسانی نفوس اس کی شناخت کے لئے کمر ہمت باندھتا ہے، جیسے کوئی اعتبار سے مودر چیزوں کا وجود میں آنا اور آغاز خلقت اور جہان ہستی کے اسرار جیسے مسائل کے بارے میں ان لوگوں سے سوال کرتے تھے جو ان سے پہلے اہل کتاب تھیا اور وہ لوگ اہل توریت یہودی اور عیسائیوں میں سے کچھ لوگ تھے جو ان کی روشن کے اعتبار سے زندگی کرتے تھے۔ اور اس زمانہ میں توریت کی پیروی کرنے والے، اعراب کے درمیان زندگی کر رہے تھے اور خود انھیں لوگوں کی طرح بادیہ نشین تھیا اور اس طرح کے مسائل کو جس قدر اہل کتاب کے عوام آگاہ تھے یہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے تھے اکثر توریت کی پیروی کرنے والے لوگ حمیرانی تھے اور دین یہود کو اختیار کئے ہوئے تھے اور جب یہی لوگ اسلام پر ایمان لائے تو انھیں معلومات پر ان لوگوں نے اکتفا کی جس پر اب تک عمل کرتے آئے تھے اور ان کی احکام شرعی سے واپسی کی جن موارد میں احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں پر ویسے ہی باقی تھے جیسے آغاز خلقت کی خبریں، پیشین گوئیاں اور جو چیزیں ملام کو شامل ہیں، انھیں کے ایسی دوسری چیزوں میں انھیں معلومات پر باقی رہے۔ وہ گروہ کعب الاحرار، وہب بن منبه اور عبد اللہ ابن سلام پر مشتمل تھا اور انھیں جیسے دوسرے افراد ہیں۔ اسی وجہ سے اس طرح کے مقاصد کی تفسیریں روایات اور منقولات جوان پر موقوف ہوئی تھیں وہ انبار ہو گئیں اور وہ ان مسائل میں شمار نہیں

ہوتی تھیں کہ جن کی بازگشت شرعی احکام کی طرف ہوتی ہیں کہ وہ صحت جو عمل کا موجب ہے اس کے سلسلہ میں تأمل اور بیان کیا جاسکے۔

اور مفسرین نے بھی ان کے سلسلہ میں تامل سے کام لیا اور اپنی تفسیری ایسی کو کتابوں حکایتوں سے بھر دیا اور ان لوگوں کی جڑیں اور بنیادیں جیسا کہ ذکر کرچکے ہیں کہ توریت کی پیروی کرنے والے بادیہ نشین ہیں اور جو کچھ بھی نقل کیا ہے وہ غور و خوض اور تحقیق و آگاہی کی رو سے صحیح نہیں ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود یہ گروہ معروف ہو گیا اور انھیں ایک عظیم مقام ملا، یہی چاہے دینی اعتبار سے امت مسلمہ میں خاص اہمیت اور فضیلت کے حامل ہو گئے اور اسی سبب سے ان کی منقولات اسی زمانہ سے مقبولیت پا گئیں... مقدمۃ ابن خلدون، ترجمہ فارسی کی ج ۲، ص ۸۹۱-۸۹۲ پر رجوع کریں۔ مخصوصاً رجوع کریں کتاب:

.59- 152. PP, Vol 2nd, Muslim Studies, Goldziher

(۷۳) مثال کے طور پر جب بعض اصحاب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے سوال کیا گیا کہ جب آپ لوگ ایک جگہ بیٹھتے ہیں تو کس چیز کے بارے میں بتیں کرتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا: ہم شعر پڑھتے ہیں اور جاہلیت کے دور کے واقعات ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ فخر الاسلام، ص ۹۵، یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ صدر اول کے مسلمان کس قدر میراث جاہلی سے وابستہ تھے ایسے بے شمار نونے دیکھے جاسکتے ہیں۔

(۷۴) اس موضوع کے تحت نمونہ کے لئے السنۃ، نامی کتاب مؤلفہ احمد ابن حنبل کی طرف رجوع کریں۔ اس کے ایک نمونہ کو نقل کر رہے ہیں: عمر ابن محمد روایت کرتے ہیں کہ میں

سالم بن عبد اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص اس کے پاس آیا اور سوال کیا کہ کیا زنا کا مرتكب ہونا قضاۓ و قدر کی وجہ سے ہے؟ تو انھوں نے جواب دیا: ہاں، کیا میرے لئے لکھا جاتا ہے؟ تو کہا: ہاں، کیا میں اس پر عذاب کیا جاؤں گا؟ اس کی طرف پتھر کا ایک ٹکڑا امارا۔  
السنة، ص ۱۴۳۔

(۷۵) امیر المؤمنین حضرت علی زمانہ جاہلیت میں عربوں کی طاقت فرسا حالات اور سخت زندگی اور شدید تنگی معاش کی طرف اپنے متعدد خطبوں میں اشارہ کیا ہے۔ بطور نمونہ آپ کے اس خطبہ کی طرف جسے آپ نے عثمان کا مند خلافت پر آنے کے بعد بیان کیا، کنز العمال، کی ج ۵، ص ۷۱۸، پر رجوع کریں۔ اس کے مطابق اس خطبہ میں امام نے عربوں کو معیشت کے اعتبار سے فقیر ترین افراد اور لباس کے اعتبار سے سب سے زیادہ پرانا لباس پہننے والوں کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ آپ آنحضرت کے دوسرے خطبہ میں اس مطلب کی طرف جس میں آپ نے اشارے فرمائے ہیں، الفغارات نامی کتاب کی ج ۱، ص ۳۰۲ پر رجوع کریں۔

(۷۶) لیکن مذہب مجسّرہ (جر کی طرف میلان رکھنے والے) کا سلسلہ معاویہ اور خلفاء بنی مردان کے زمانہ میں شروع ہوا۔ باب ذکر المحتزز لہ، خود امویوں کا جر کی طرف مائل ہونے اور ان کے اشعار سے آگاہی کے لئے آپ الامویوں والخلافۃ، نامی کتاب کے ص ۴۷۔ ۲۷ پر رجوع کریں۔

(۷۷) بہترین لوگوں میں سے ایک شخص جس نے اس واقعہ کی تشریح کی ہے، وہ عبد الرزاق

ہیں: تمام مسلمین اور عموم علماء اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ خلیفہ حکومت اور قدرت کو خدا سے حاصل کرتا ہے۔ جس عبارت کو ہم ذیل میں بیان کریں گے اس میں آپ ملاحظہ کریں گے کہ یہ لوگ خلیفہ کو زمین پر خدا کا سایر (ظل اللہ) سمجھتے ہیں اور منصور کا مگان تو یہ تھا کہ وہ زمین پر خدا کا سلطان ہے۔ اس نظریہ کو ابتدائی صدیوں سے ہی علماء اور شعراء پنے اشعار میں اظہار کیا کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خلیفہ کو ہمیشہ خدا انتخاب کرتا ہے اور خلافت کو اس کے سپرد کرتا ہے... یہاں تک کہ بھی خلیفہ کو خدا کے مقابلہ میں لاکر کھڑا کر دیتے ہیں یا اس سے نزدیک قرار دیتے تھے شاعر کے اس شعر کی طرح: جو تم چاہتے ہو وہی ہو کر رہے گا نہ کہ وہ چیز جو مقدر ہو چکی ہے۔ حکمرانی کر کہ تو ہی واحد قہار ہے...۔ الاسلام و اصول الحکم، ص ۱۱۷۔  
۱۱۸ اور اسی طرح ص ۱۱۳۔ ۱۲۰۔ پر بھی رجوع کریں۔ خاص طور سے اسی سلسلہ میں حسن حنفی کے بہت اچھے بیان کا مطالعہ کریں من العقیدة الی الشورة، نامی کتاب کی ج ۱، ص ۲۹۔ ۲۱ پر رجوع کریں۔

(۷۸) عيون الاخبار، نامی کتاب کی ج ۲، ص ۲۴۷ پر رجوع کریں۔

(۷۹) اغراض السياسة في اعراض الرئاسة، ص ۲۷۱۔

(۸۰) نظرية الامامة، ص ۳۳۔

(۸۱) اس مسئلہ میں معترض لوگ حسن بصری کو اپنے گروہ میں سے جانتے ہیں باب ذکر المعتزلہ، نامی کتاب مؤلفہ احمد ابن حیج بن مرتضی، کے ص ۱۵۔ ۱۶ پر رجوع کریں۔ حسن بصری نے عبد الملک اور حجاج کو جو خطوط لکھے ہیں ان کے بارے میں آپ سابق حوالہ، کے

ص ۱۴۔ ۱۴ پر رجوع کریں۔ اور الامویون والخلافۃ، نامی کتاب کے ص ۳۶ پر بھی رجوع کریں۔

(۸۲) معاویہ کے متعلق حسن بصری نے جو تقدیمیں کی ہیں ان سے اطلاع کے لئے طبقات ابن سعد، نامی کتاب کی ج ۱، ص ۱۱۹ پر رجوع کریں۔

(۸۳) حسن بصری نے حاجج سے مقابلہ کے لئے لوگوں کو منع کیا تھا اس کے استدلال کی کیفیت معلوم کرنے کے سلسلہ میں الشیعۃ والحاکمون، نامی کتاب کے ص ۲۶ پر رجوع کریں۔

(۸۴) حاجج کی توصیف میں اس نے جو کچھ کہا ہے اس کے لئے آپ الائمة الاربعة، نامی کتاب کی ج ۱، ص ۲۵۷ پر رجوع کریں۔

(۸۵) اس کے تفصیلی واقعہ کو مقتل الحسین، نامی کتاب مؤلفہ عبدالرزاق مقرم کے ص ۴۲۲ و ۴۲۳ پر ملاحظہ فرمائیں۔ اسی طرح معنی الامال، سنگ طبع، ج ۱، ص ۳۶۲ پر بھی رجوع کریں۔

(۸۶) منصل واقعہ کو مقتل الحسین، نامی کتاب کے ص ۴۵۲ اور معنی الامال، ج ۱، ص ۳۵۷ پر ملاحظہ کریں۔

(۸۷) الائماۃ والسیاستة، ج ۱، ص ۲۰۳۔

(۸۸) سابق حوالہ، ج ۱، ص ۱۹۱۔

(۸۹) تاریخ طبری، ج ۵، ص ۲۲۰۔

(۹۰) الامویون والخلافۃ، ص ۲۶۔ ۲۸۔

(۹۱) کنز العمال، ج ۶، ص ۴ - ۸۹۔

(۹۲) سابق حوالہ، ص ۳۹ - ۴۷۔

(۹۳) امویوں کے دور میں انہم طاہرین (ع) اور ان کے شیعوں کے علاوہ بہت کم ان کی اندھے اور شل کر دینے والے جبرا کی مسموم تبلیغات کے مقابلہ میں چھٹ پٹ مخالفت کی آوازیں بلند ہوئیں۔ یہ لوگ عموماً آزاد مستقل فکر کے حامل تھے جو فکری، سیاسی اور دینی وجوہات کی بنا پر حاکم کے مقابلہ قرار پائے اور ان کے مقابلہ میں عقائدی جنگ کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے جن میں سرفہرست غیلان مشقی ہیں جو بعد میں اپنے دوسرا تھیوں کے ہمراہ ہشام کے ہاتھوں قتل کر دئے گئے، ان کا شمار انھیں لوگوں میں سے ہوتا ہے۔ دوسرے نمونہ کے لئے باب ذکر المعتزلۃ، نامی کتاب کے ص ۵ - ۲۳ پر رجوع کریں۔

غیلان مشقی امویوں پر بہت زیادہ تنقید کرتے تھے۔ اس لئے کہ خلافت کے متعلق ان کے نظریات ان (غیلان مشقی) کے نزدیک قابل قبول نہیں تھے۔ ان کے ظلم و استبداد کے مقابلہ میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اور علانیہ طور پر امویوں کی کتاب و سنت کی مخالفت کی وجہ سے ان کی مخالفت کرتے تھے۔ چونکہ امویوں نے حکومت میں فاسق و فاجر افراد کو جمع کر کے کلیدی عہدے عطا کر دیئے تھے اور ان کے کارندے لوگوں پر ستم کرتے تھے، وہ ان سے مقابلہ کرتے اور ان کی کرتوتوں کو فاش کر دیتے تھے، معروف ہے کہ ہشام نے انھیں قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا جس کے نتیجہ میں انھیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ اس لئے کہ انھوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا تھا کہ وہ خدا کا خلیفہ ہے، مسلمانوں کے اموال میں بے جا

تضروفات کی وجہ سے سینہ سپر ہو جاتے تھے اور ارمنستان کے لوگوں کو اس (ہشام) کے خلاف انقلاب اور قیام کی دعوت دی تھی، الامویون والخلافۃ، ص ۱۷۶۔

غیلان اور ان کی شخصیت، افکار اور ان کے انجام کار کے متعلق معلومات کے لئے مل نخل، نامی کتاب کے ص ۱۲۷ پر رجوع کریں۔ خصوصاً باب ذکر المعتزلۃ، نامی کتاب کے ص ۱۵۔ ۱۷ پر رجوع کریں؛ جس میں انہوں نے امویوں کے اسراف کے مقابلہ میں شجاعانہ اعتراض کیا ہے، اس نے عمر ابن عبدالعزیز سے چاہا تاکہ وہ اسے خزانہ اور رد مظالم کو بخچے پر مامور کر دے اور اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ انہوں نے تمام اموال کو تمام لوگوں کے سامنے رکھ دیا اس سامان میں سے ایک (جوراب) موزہ تھا جس کی قیمت تیش ہزار درهم تھی۔ وہ آوازیں لگارہ ہے تھے: کون ہے جو یہ کہے کہ یہ لوگ ہدایت کے امام ہیں حالانکہ لوگ اتنے اموال کے ہوتے ہوئے بھوکے مرے جا رہے ہیں؟ سابق حوالہ، ص ۱۶، قابل توجہ تو یہ ہے کہ غیلان خود اپنے زمانہ میں بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز تھے۔ انہیں کے سلسلہ میں یہ مشہور ہے کہ جب حسن بصری نے ان کو ارکان حج بجالاتے ہوئے دیکھا تو کہا: کیا اس شخص کو دیکھ رہے ہو؟ خدا کی قسم وہ شام کے لوگوں پر خدا کی جست ہے۔ باب ذکر المعتزلۃ، ص ۱۵۔

(۹۴) بطور نمونہ اس سلسلہ میں احمد ابن حنبل کے عقائد کی کتاب الائمه الاربعة، نامی کتاب کی ج ۴، ص ۱۱۹ و ۱۳۰ کی طرف رجوع کریں۔ نیز مناقب الامام احمد ابن حنبل، نامی کتاب مؤلفہ ابن جوزی کے ص ۴۲۹-۴۶۲ کی طرف رجوع کریں۔

(۹۵) مرجمہ کہتے ہیں: اگر کوئی شخص با ایمان ہو تو اسے اس کے گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتے،

جیسا کہ اگر کوئی شخص کفر اختیار کرے تو اس کی اطاعت کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی۔ ان میں سے بعض فرقوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ایمان یعنی خدا کی معرفت اور اس کی بارگاہ میں خضوع ہے۔ قلب سے محبت رکھنا ہے اور جس شخص میں یہ اوصاف جمع ہو جائیں وہ مومن ہے گناہوں پر ارتکاب اور اس کی اطاعت اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور گناہوں کے مقابلہ میں اسے معذب نہیں کیا جائے گا۔ الفکر السیاسی الشیعی، نامی کتاب کے ص ۶۱ جو شرح موافق کے آٹھویں جزء سے منقول ہے اس پر رجوع کریں۔

(۹۶) زندقة اور مرجمہ کی اباجی گری کے سلسلہ میں الزندقة والشعوبية في العصر العباسى الاول، نامی کتاب مؤلفہ حسین عطوان پر رجوع کریں۔

(۹۷) مرجمہ کے بارے میں زیادہ جاننے کے لئے حالات اور پیدائش کے سلسلہ میں ان ثقافتی اور معاشرتی حالات کے معلومات کیلئے انظم الاسلامیۃ، نامی کتاب کے ص ۴۳-۴۵ پر رجوع کریں۔ اور فخر الاسلام، نامی کتاب کے ص ۲۷۹-۲۸۲ پر رجوع کریں مرجمہ اور قدریہ کی مذمت میں احادیث سے اطلاع کے لئے السنۃ، نامی کتاب مؤلفہ احمد ابن حنبل پر رجوع کریں۔

(۹۸) جاہلیت کی ثقافت کی خصوصیات کو معلوم کرنے کیلئے فخر الاسلام، نامی کتاب کے ص ۱-۶۶ پر رجوع کریں۔

(۹۹) مہاجرین میں سے ایک شخص نے اس طرح کہا: عجمیوں کے بچوں نے بہشت میں گویا نقب لگا کر اس سے باہر آگئے ہیں اور ہمارے بچے تنور میں کالے ہو جانے والے ایندھن کی

طرح ہیں۔ عیون الاخبار، ج ۴، ص ۴۰۔

(۱۰۰) مثلاً کتاب الاغانی، کے علاوہ آپ دیوان ابونواس کی طرف رجوع کریں، عجیب تو یہ ہے کہ مدینہ میں غنا کا اس حد تک رواج تھا کہ کوفی طعنہ کستہ ہوئے کہتے تھے: مدینہ موسیقی اور غنا کا شہر ہے۔ اور معتقد تھے کہ فقه حفیوں سے کوفہ میں سیکھنا چاہیئے۔ بطور نمونہ کوفیوں کے اشعار کی طرف جسے انہوں نے ہجو میں کہے ہیں، الائمة الاربعة، کی ج ۲، ص ۹ اور ۱۰ پر رجوع کریں، البتہ یہ حقیقت ہے کہ یزید کے دور میں مکہ اور مدینہ میں غنا کا دور دورہ تھا۔ فخر الاسلام، نامی کتاب کے ص ۸۱ پر رجوع کریں۔ لیکن مقام توجہ تو یہ ہے کہ بر بھاری کے جیسا شخص جو بزرگان حنابلہ میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے مدینہ سے ایک خاص قلبی لگا اور ارادت رکھتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک سے اس طرح نقل کرتا ہے اور اس کی دوسروں کو بھی وصیت کرتا ہے: کوفیوں سے رفض کے علاوہ کوئی چیز، شامیوں سے (منھ زوری) خود سری کے علاوہ کچھ، بصریوں سے قدر کے علاوہ کوئی چیز، خراسانیوں سے ارجاء کے علاوہ کوئی چیز، مکیوں سے صرافی کے علاوہ کوئی اور چیز اور مدینہ میں رہنے والوں سے غنا کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہ لینا۔ اس کے بعد وہ خود اضافہ کرتے ہیں: ان لوگوں سے یہ چیزیں نہ لینا۔ طبقات الحنابلۃ، ص ۷۔

(۱۰۱) حقیقت تو یہ ہے کہ امویوں اور ان کے سرداروں کا فسق و فجور اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ وہ اپنی حاکمیت کو باقی رکھنے کے لئے ایسے راستہ کی تلاش میں تھے جو قابل قبول طریقہ پر ان کو بری کر سکے اور ان کے اعمال کی توجیہ کر سکے (مرجحہ کی فکر کی طرح) اپنی حاکمیت کو

برقرار نہیں رکھ سکتے تھے۔ ہم یہاں پر ان میں سے دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

یزید ابن عبد الملک جو یزید ابن معاویہ کا نواس تھا اور عمر ابن عبدالعزیز کا جانشین تھا، عیاش اور ہوسراں شخص تھا، اس کے پاس حبابہ اور سلامہ نامی دونیزیں تھیں، جن سے وہ بہت زیادہ عشق کرتا تھا۔ اتفاق سے پہلے سلامہ اور اس کے کچھ دن گذرنے کے بعد بعض لوگوں کے مطابق سترہ دن بعد حبابہ مر گئی۔ لیکن یزید نے حبابہ کو چند دنوں تک دفن نہیں ہونے دیا اور اپنے پاس رکھ رہا۔ اس کے مصائبین نے اس کی ملامت کرنا شروع کر دی تو آخر کار اس نے اس کو دفن کر دیا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد دوبارہ اس کی قبر کھود دیا تاکہ دوبارہ اس کو دیکھ لے اس کے لئے۔ آثار الاناقۃ فی معالم الخلافۃ، کی حج ۱۴۵ ص ۱۴۶ اور پر رجوع کریں۔

صاحب اغانی نقل کرتا ہے کہ عبد اللہ ابن مروان نے حارث ابن خالد مخزوی کو مکہ کا والی بنادیا حارث طلحہ کی بیٹی عائشہ کا عاشق ہو جاتا ہے۔ عائشہ نے حارث کو پیغام کہلوایا کہ وہ نماز میں دیر کر دے یہاں تک کہ میں اپنے طواف کو تمام کر لوں۔ حارث نے بھی مؤذنوں کو دستور دے دیا کہ وہ نماز میں دیر کریں یہاں تک کہ عائشہ اپنے طواف کو انجام دے لیں حاجیوں کو یہ بات بہت بڑی لگی اور بہت گراں گذری۔ یہاں تک کہ عبد اللہ نے اس کو معزول کر دیا۔ فخر الاسلام، ص ۸۲ منقول از الاغانی، ح ۳، ص ۱۰۳۔ اور ابو حمزہ خارجی کی زندہ توصیف کو بھی جسے اس نے عبد الملک کے لئے اپنے خطبہ کے ضمن میں مکہ میں تقریر کی ہے اس کو بھی ملاحظہ فرمائیں۔ وہ اس کا اخلاقی فساد، شہوت انی، صرف بیجا اور حبابہ اور سلامہ کی داستان کی بھی وضاحت کرتے ہیں۔ البیان والتبیین، کی حج ۲، ص ۱۰۱ پر رجوع کریں۔

اغانی کی یہ فحق و فجور سے بھری ہوئی گزارش (Report) جو اس نے اموی اور عباسی خلفا کے بارے میں بیان کی ہے اتنی زیادہ ذلیل کرنے والی ہے کہ اہل سنت کے پختہ لوگ مؤلف اور کتاب دونوں ہی کو غلط کہنے پر لگ گئے ہیں۔ قدماء میں آپ العواصم من القواسم، نامی کتاب کے ص ۴۹-۲۵۱ پر رجوع کیجئے۔ اور دور حاضر میں آپ مؤلفات فی المیز ان، نامی کتاب کے ص ۱۰۳-۱۰۰ کی طرف رجوع کریں۔

## چوتھی فصل

### قدرت اور عدالت

ہم نے گذشتہ بحثوں میں اہل تسنن اور اہل تشبیح کے سیاسی اصول میں سے دو اہم اصولوں کے سلسلہ میں بحث کی اور یہ کہ ان دونوں میں نظریاتی اعتبار سے کیا فرق ہے اور عملی طور پر تاریخ اور روحی اور معاشرتی عمارت کے لحاظ سے ان لوگوں نے اپنے ماننے والوں کو کس طرح ان کی پرورش کی ہے؟ ہم اس فصل میں تیری اصل کے سلسلہ میں بحث اور چھان بین کریں گے اور پھر اصلی بحث یعنی تشبیح و تسنن کے معیارات تاریخ کو معاصر میں بیان کر کے ان دونوں کے درمیان فرق کو بیان کریں گے۔

جیسا کہ گذشتہ فصل میں اس مطلب کو واضح کیا گیا ہے کہ اہل سنت کے سیاسی فکر کے جنم لینے میں جو عامل بنیادی حیثیت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ قدرت کے تحفظ اور ایسی طاقت جو امنیت اور تحفظ کے ایجاد کرنے پر قادر ہے اس کے بارے میں حساس ہیں۔ حالانکہ اہل تشبیح عدالت اور پیغمبر کی سنت کو ہوبہ ہوا سی انداز میں لا گو کرنے میں جس طرح آنحضر صلی اللہ علیہ وآلہ ت کے دور حیات میں جاری و ساری تھی نہ وہ عدالت جس کی بعد میں تفسیر یا تعبیر کر دی گئی ہے، اس سلسلہ میں اپنی احساسیت کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک جو چیز اہمیت بلکہ

لازم اور قابل احترام اور تقدس کی حامل ہے ایک طرح سے محض ایک شجاع قوی، باعظمت ہونے اور شان و شوکت کے حامل ہونے سے تعبیر کی گئی ہے جس کے سایہ میں امنیت اور تحفظ حاصل ہوتا ہے خواہ وہ امنیت اندر و فی سرکشیوں، باغیوں اور اشرار کے مقابل اور ہو خواہ خارجی حملہ آور اور تجاوزگروں کے مقابل ہو وہ پوری ہو جاتی ہے اگرچہ یہ بات ایک حد تک شیعوں کے نزدیک تائید شدہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمامی اقدار اور عظمت کو اسے دے دے اور اسے بلا قید و شرط درست مان لیا جائے۔ اس لئے کہ مطلق قدرت نہ تو شیعوں کے کلامی اور فقہی اصول اور معیار کے مطابق ہے اور نہ ہی ائمہ اطہار (ع) کی سیرت اور روشن اس کی تائید کرتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اصل اہل تسنن کے درمیان کیوں اور کیسے وجود میں آئی اور کن اسباب و عوامل سے اثر انداز ہوئی ہے۔

محض طور پر ہمیں یہ کہنا چاہئے کہ اس دوران تین اہم عامل اس میں دخیل رہے ہیں پہلا عامل مفہوم عدالت ہے، یہ مفہوم ان لوگوں کے درمیان شیعوں کے نزدیک پائے جانے والے عدالت کے فقہی و کلامی اور فلسفی مفہوم سے متفاوت ہے۔ دوسرا عامل قدیم زمانہ میں حکومتوں کے فرائض ہیں اور آخر کار تیسرا عامل تاریخی واقعیتوں اور ضرورتوں سے متعلق ہے کہ ہم ان میں سے ہر ایک کے سلسلہ میں مفصل بحث کریں گے۔

### مفہوم عدالت

شیعوں اور سنیوں کے نزدیک اس کی وضاحت کرنے سے کہیں زیادہ عدالت کے مفہوم میں

اختلاف ہے۔ واضح و روشن ہے اگرچہ معتبر مفہوم۔ عدالت کو درک کرنے کے لحاظ سے شیعوں سے نزدیک ہیں اور بعض موارد میں ایک ہی جیسے تھے، لیکن اشاعرہ نے جس مفہوم کو اخذ کیا ہے اس میں شیعوں سے بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے اور بعد میں یہی مکتب رائج ہو گیا اور اہل سنت کے اعتقادی اور فقہی مسائل اس کے زیر اثر پھولے اور پروان چڑھے۔ لیکن اس درمیان اہمیت کا حامل یہ تھا کہ عدالت کی جس تفسیر کو اشاعرہ نے پیش کیا وہ اصولاً اس طرح سے تھی کہ مفہوم عدالت کی قدر و قیمت گھٹا رہی تھی۔ مسئلہ نہیں تھا کہ وہ لوگ اسے اہم اور حائز اہمیت سمجھتے تھے لیکن اس کی دوسری تفسیر کر رہی تھے، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ اول ہی سے مفہوم عدالت کی اس طرح تفسیر کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے اپنی اہمیت کو ختم کر دیا تھا اور شاید ان کا مقصود بھی یہی رہا ہو۔ انہوں نے جب حُسن و فُحْق عقلی کا انکار کر دیا اور حقیقت انہوں نے عدالت کے مفہوم کو اس حد تک گرا دیا کہ وہ ہر ظالمانہ اور جبارانہ عمل سے تطبیق دینے کے لائق ہو گا۔ بعبارت دیگر عدالت کی فکر اور آرزو جو بھی رہی ہے اپنی واقعیت کی حد سے نیچے آگئی اور قضاوت کا معیار، موجودہ حقیقت بن گیا ہے کہ اس بلند و برتر اور وسیع مفہوم اور اس کے بارے میں قضادات اور فیصلہ کیا جائے اور جب ایسا ہو ہی گیا تو اب کوئی ضرورت نہ تھی کہ اس کے برتر مفہوم سے مطابقت دی جائے یا مطابقت نہ دی جائے، جب حُسن و فُحْق عقلی کو نظر انداز کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقتاً عدالت کے مفہوم اور اس کی ماہیت سے چشم پوشی کر لی گئی ہے اور نہ یہ کہ اس نفی کی بنیاد پر اس کے لئے کوئی دوسری نئی تعریف پیش کی گئی ہے۔ (۱)

عدالت کی ایسی تفسیر موجودہ واقعیت سے بالاتر ہر قسم کی آرزو کو رد کرنے کا بہترین ذریعہ ہے عملی طور پر ایسا وقوع پذیر بھی ہو چکا ہے۔ اس مقام پر ہماری بحث یہ نہیں ہے کہ عدالت کیا ہے یا اس کی رعایت ہوتی ہے یا نہیں؟ اصولی طور پر موجودہ صورت حال سے بہتر کوئی صورت باقی نہیں رہ گئی ہے تاکہ اس کی بنیاد پر عدالت کی تعریف اور موجودہ صورت حال کی چھان بین کی جاسکے۔ (۲)

کتاب المواقف کے مشہور مؤلف جو اشعری مذهب کے ایک عظیم عقلی رجحان کے مالک اور با ہوش متكلم ہیں وہ حسن و فتح عقلی کے سلسلہ میں فرماتے ہیں: ہر وہ شی فتح ہے جسے شریعت اسلامی فتح قرار دے اور حسن اس کے برخلاف ہے۔ عقل کے پاس اختیار حسن و فتح کو پہچاننے کے لئے کوئی معیار نہیں ہے اور یہ دونوں کسی دوسرے واقعی اور حقیقی امر انسان کے فعل کی طرف نہیں پلٹتے ہیں تاکہ شریعت اس سے پرده ہٹائے بلکہ یہ شریعت اسلامی ہے جو حسن و فتح کو وجود میں لا تی اور اس کی تعریف و توضیح کرتی ہے اور اگر مسئلہ بر عکس ہو جائے یعنی جو چیز فتح اور بری ہے اسے حسن اور خوب اور خوب اور حسن کو فتح اور زشت شمار کرے تو یہ کوئی محال بات نہیں ہے اور نتیجہ بھی بر عکس ہو جائے گا۔

لیکن معتبر یوں کہنا ہے کہ حسن و فتح کی تشخیص کا معیار عقل ہے اور ایک انسان کا عمل بذاتہ یا اچھا ہے یا برا اور شریعت انھیں واقعیات کو کشف اور آشکار کرتی ہے، اب اس صورت میں نا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے کہ مسئلہ بر عکس ہو جائے۔ اس لئے کہ خوبی و بدی ہمیشہ واقعی اور حقیقی امر کی طرف پلٹتی ہے نہ کہ فرضی اور اعتباری امور میں۔ (۳)

جیسا کہ ہم نے بیان کیا خوب و بد کی ایسی تفسیر اور اس کے معیار مفہوم عدالت کے لئے کوئی گنجائش اور بنیادی طور پر عقل کا بھی کوئی مقام باقی نہیں رہ جائے گا اور سب سے زیادہ حائز احادیث اور دینی نصوص کے صحت و سقم کو تشخیص دینے والے عقلانی معیاروں اور موازین، خاص طور سے احادیث کے عقلی معیار کی نابودی کا باعث بھی ہو گا اور اس طرح کسی بھی ظلم و ستم کو قبول کرنے کے لئے فکری، دینی، اعتقادی اہمیت اور نفسیاتی راہ ہموار کرنے کا باعث ہے وہ بھی دینی اور شرعی قبولیت کا باعث ہو گی، جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ہر ظالمانہ اور فاسقانہ عمل کے لئے حالات فراہم کر دے گا۔ اس طرح سے حکام اور علمائے سوء کو قانونی حیثیت حاصل ہو جائے گی اور انہیں بہترین پشت پناہ مل جائے گا تاکہ وہ اپنی خلاف ورزیوں اور مظالم کو دینی رنگ دیکر اپنی من مانی کریں اور جو چیز چاہیں اسے حاصل کر لیں گے اور زیادہ اہمیت کا حامل یہ کہ دین بھی اس قابلیت کو پالے گا تاکہ وہ اس طرح اس سے سوئے استفادہ کر سکیں۔ (۴)

معاشرہ کے قوی اور مقتدر افراد کا دین کے نام پر ناجائز استفادہ کرنا یہ بہانہ بناتے ہوئے کہ عقل خطا کر سکتی ہے، ان کے ہمراہ رہا ہے۔ جب عقل اپنی تما متowanیوں اور حدود ارباعہ سے گریزاں ہو کر میدان چھوڑ دے، خصوصاً دینی مفہومیں تو ظلم و بربریت اور خرافات اس کی جگہ حاکم ہو جائیں گی اور ایسے واقعات دین سے سوئے استفادہ کرنے والوں کا ہمیشہ سے مطلوب رہے ہیں۔ اور اسی اعتبار سے جب حساس ترین اور سب سے زیادہ اہمیت کے حامل دینی مباحث میں سے ایک، مسئلہ عدالت، اگر غلط قرار دے دیا جائے تو خونخواہ ایسے نتائج

حاصل ہو گے۔

## دو مختلف تفسیروں کے تابع

اس مقام پر اس نکتہ کو اضافہ کرنا بھی ضروری ہے کہ عدالت کے مسئلہ میں معتزلہ، شیعہ اور اشاعرہ کا مفہوم عدالت میں اختلاف موجب نہیں بنائے کہ وہ پوری تاریخ میں اپنے معاشرتی اور سیاسی نظام کی اساسی بنیاد پر لیں بلکہ یہ دونوں گروہ کم و بیش عمل میں یکساں رہے ہیں اور اصل عدالت کا عقیدہ رکھنا سیاسی اور معاشرتی عدالت کو اپنے ہمراہ نہیں لایا۔ مامون و معتضم اور واشق کے دربار میں موجود معتزلیوں اور قبل و بعد کے اشعریوں اور اشعری رجحان رکھنے والوں کے درمیان کوئی بنیادی فرق نہیں تھا، اگرچہ مذکورہ خلفاء اور خصوصاً مامون، کہ اس کے قبل و بعد کے دوسرے خلفاء کے مقابلہ میں اس کی روشنی میں محسوس فرق پایا جاتا تھا اور اس کا ایسا ہوا اس کی فکری آزادی اور علمی شخصیت ہونے کی وجہ سے تھا نہ یہ کہ اس قریبی معتزلی مصالحیں کی یاد آوری اور توجہات اس بات کی باعث ہوئی ہیں۔ (۵)

شیعہ بھی کافی حد تک اس حکم میں شامل ہیں اور اس واقعیت کو بشكل قبول کیا جا سکتا ہے کہ طول تاریخ میں شیعہ سلاطین سنی سلاطین کے مقابلہ میں پیشتر عدالت کے حامل رہے ہیں۔ (۶) اسلامی شرق میں سلاطین کی عدالت دوستی اور عدالت کا وسیع کرنا جہاں سماجی امور کو ادارہ کرنے کے لئے سیاسی اور معاشرتی کمیٹیوں کا مصالح اور اقتضا کی بنی پرقدان تھا اور ان کے ذاتی فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی اور تمام چیزوں سے زیادہ جہاں وہ حکومت کرتے تھے

اس میں اندر و فی خواہشات اور ذاتی رحجان کو عمل دخل تھا۔

لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود، اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہ دونوں یعنی معززی اور بالخصوص اشاعرہ اور شیعہ اپنے معاشرتی اقدام کے مرحلہ میں ایک نظام حاکم کو درست کرنے کے لئے یا اس کو ختم کر کے ایک عادلانہ نظام کی بنیاد ڈالنا وہ قسم کا تھا اور وہ طرح سے عمل کیا ہے۔ بعبارت دیگر جس طرح سے ان دونوں نے تفسیر کی بھی اس کے مطابق عدالت کے عقیدہ رکھنے کا نتیجہ حاکم کے سامنے استقامت اور پائیداری سے معلوم ہو جائے گا۔ سب سے اہم ترین عوامل میں سے ایک عامل جو شیعوں اور معززیوں کو جبردوسٹ، جبر کی ترویج کرنے والے جباروں کے مقابل استقامت اور پائیداری کی دعوت دیتا ہے وہ ان لوگوں کا مسئلہ عدالت کا درک کرنا ہے۔ (۷) اور چونکہ ایسی تفسیر سرے سے ہی اشعریوں کی توجہ اور اعتقاد کا مرکز نہیں تھی لہذا معنی ہی نہیں رکھتا کہ اس کے سہارے سلطان کے سامنے وہ قیام کرتے۔ وہ لوگ حسن و فتح عقلی کا انکار کرتے تھے کیونکہ ان کے نزد یہ موجودہ واقعیت سے بالآخر تشخیص دینے کے لئے جو معیار ہونا چاہیئے تھا وہ معیار بھی موجود نہیں تھا۔

اسی وجہ سے معززیوں اور خاص طور سے شیعوں کے نزد یہ بہت زیادہ عدالت طلب تحریکوں کا سراغ لگایا جاسکتا ہے۔ لیکن اس سے مشابہ نمونے اشعریوں، اہل حدیث اور سلفیوں کی تاریخ میں مشاہدہ نہیں ہوتا۔ جو چیز عملی طور سے ان لوگوں کے درمیان موجود رہا ہے اور اب بھی ہے ان کے بقول وہ ایسی تحریکیں ہیں جو بدعتوں کو ختم کرنے اور سنت کو باقی رکھنے اور اس کے دفاع کے عنوان سے رہی ہیں۔ (۸)

البته ان دونوں کا مفہوم عدالت کے بارے میں مختلف تفسیر یا ادراک تھا اعمال موجب نہیں ہوا ہے۔ بلکہ اس عامل کے علاوہ دوسرے عوامل بھی موجود تھے لیکن بلا شک و شہہر فہم بہت ہی اہم حصہ کا حامل ہے اور اسی اہمیت کا حامل رہے گا۔ بعارت دیگر اگرچہ اصل عدالت کا عقیدہ عملی طور پر سیاسی اور معاشرتی عدالت کا تحفہ نہ لا پایا لیکن تھا اسے قبول کر لینا عدالت خواہی کو وجود میں لانے کے لئے بہترین سبب تھا۔

اسلام کی پوری تاریخ میں عدالت اور آزادی خواہی کی تحریکوں کی داستان خود اس نکتہ کی بہترین مowitzid ہے۔ اور ایسے قیام کا اہل حدیث اور اشعری مسلک میں نام و نشان بھی نہیں ملتا جبکہ تشیع اور معتزلہ کے یہاں ایسی تحریکوں کے بے شمار شواہد پائے جاتے ہیں۔ اور یہ رابطے اس قدر اطمینان بخش اور قوی تھے کہ ایسے زمانوں میں جب بعض اسباب کے تحت ایسے رجحانات وجود میں آئے تو معتزلہ کی فکر کے استقبال اور خاص طور سے شیعی افکار کے حالات فراہم ہو گئے۔ اگرچہ شیعی افکار اور عقائد بعض مختلف دلائل کے سبب عدالت کے اصل اعتقاد سے کہیں زیادہ قبل قبول ہوا، لیکن ہر صورت میں اس اصل پر عقیدہ رکھنا اساسی اور فیصلہ کن کردار ادا کیا۔

اور یہی وہ تھا عامل تھا کہ جس کی وجہ سے معتزلہ اور مخصوصاً شیعہ حکام اور صاحبان اقتدار اور وہ علماء اور جو مبلغین ان سے وابستہ تھے ان کی جانب سے ہونے والے حملوں کا شکار رہے ہیں۔ ایک سماج میں حاکم استبداد خود ہی عدالت خواہی اور حریت طلبی کو فروغ دینے کا اصلی موجب تھا۔ لیکن چونکہ یہ اسلامی فکر، حاکم وقت کے ہاتھوں روانچا پار ہی تھی اور چہ بسا پروان چڑھ

رہی تھی اصل مفہوم عدالت پر عقیدہ نہ رکھنے کی بنا پر اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں قاصر تھے، لہذا انقلابی لوگ اس بات پر مجبور تھے کہ ان مذاہب کی پناہ لیں جو عدالت خواہی کے حامی اور اس کی تشویق کرتے تھے (۹) اور چونکہ معتزلہ اور شیعہ ایسے تھے لہذا ان کے بدنام کرنے کے لئے بہت زیادہ کوشش کی گئی اور ان سے منحرف کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ البتہ ان کی یہ کوششیں بنیجہ بھی نہیں تھیں، اس لئے کہ آج معتزلہ اور شیعیت کی نسبت جو بھی بدگمانیاں اہل سنت کے نزدیک ہیں وہ سب اسی غلط پروپگنڈوں اور سوئے تبلیغات کا نتیجہ تھیں۔ (۱۰)

ابھی تک جو بحث کی گئی ہے عدالت کے کلامی مفہوم کے بارے میں تھی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا فقہی مفہوم کیا تھا؟ اور اس کے کیا آثار رونما ہوئے؟ اس مقام پر اس کے پہلے مورد کے برخلاف، معتزلی بھی غیر معتزلی کی طرح ہیں اختلاف صرف شیعہ اور غیر شیعہ کے درمیان ہے۔

## عدالت کا فقہی مفہوم

واتیت تو یہ ہے کہ عدالت کا یہ مفہوم اہل سنت اور اہل تشیع کے نزدیک فقہی لحاظ سے زیادہ فرق نہیں ہے صرف بنیادی اختلاف ان موارد میں ہے کہ جہاں عدالت کو اساسی شرط مانا گیا ہے کہ اس میں سب سے اہم اور فیصلہ کرن امام جماعت، امام جمعہ اور حاکم میں ہے۔ شیعوں کے نزدیک ان تمام موارد میں عدالت کو شرط مانا گیا ہے لیکن اہل سنت امام جمعہ و جماعت

کے بارے میں اس شرط کے قائل نہیں ہیں اور صرف ان میں سے بعض افراد فاسق اور بدعت گزار کی امامت کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔ (۱۱) جیسا کہ ان میں سے اکثر حاکم میں بھی عدالت کو شرط نہیں مانتے ہیں۔

وہ چیز جو اس بحث میں قابلِ اہمیت ہے، امام جمعہ اور جماعت کا عادل ہونا ہے۔ اس لئے کہ حاکم کے عادل ہونے کا مسئلہ خود ان لوگوں کے نزدیک ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ لیکن اب دیکھنا تو یہ ہے کہ یہ اختلاف کن نتائج کو اپنے ہمراہ لئے ہے؟

اس بحث کو شروع کرنے سے پہلے ایک نکتہ کے سلسلہ میں یاد دہانی نہایت ضروری ہے اور وہ نکتہ یہ ہے کہ صدر اسلام میں نماز جماعت اور نماز جمعہ کو کیا حیثیت اور مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ اس دور میں سیاسی اور معاشرتی لحاظ سے نماز جمعہ و جماعت آج سے کہیں زیادہ قابلِ اہمیت تھی۔ یہ دونوں اور مخصوصاً نماز جمعہ اسلامی ہونے کا راز، اس کے اتحاد اور آخر کار معاشرہ میں ثبات و امنیت کی علامت تھی۔ اس میں شریک ہونے والوں کے انکار و عقیدہ کی سلامتی اور تمام مسلمانوں کے اجماع اور اتفاق کی بنی پر عدم انحراف کی پہچان تھی۔ (۱۲) یعنی اس بات کی علامت تھا کہ سماج اور معاشرہ حاکم وقت کے فرمان کو قبول کرتا ہے اور اس کے سامنے تسلیم ہے۔ اسی نماز کے ذریعہ حاکم، سلاطین اور خلفاء کو قانونی حیثیت کو حاصل کر لیتے تھے اور ان کی قدرت اور حیثیت کو استحکام اور پیچگی حاصل ہوتی تھی۔

اس دور میں شہروں کی وسعتیں آج کی طرح نہ تھیں، بلکہ ایک چھوٹا سا شہر ہوا کرتا تھا اور اس میں مختصر سی آبادی ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے اس شہر کے رہنے والے تمام لوگ خاص طور سے مرد

حضرات نماز جماعت میں شرکت کو ضروری سمجھتے تھے۔ بعض موقع پر نماز میں شرکت کو واجب امر کی حیثیت رکھتی تھی۔ (۱۳) نماز جماعت کو اہل سنت کے بعض فقہا اور نماز جموعہ کو تمام فقہا واجب سمجھتے ہیں۔ مذہب امامیہ کے فقہا کے نزدیک بھی جبکہ امام موجود ہوں، نماز جموعہ میں شرکت واجب ہے۔ بلکہ بعض فقہائے امامیہ امام معصوم کی غیبت میں بھی اگر اس کے تمام شرائط پورے ہو رہے ہوں تو اس کے قائم کو واجب قرار دیتے ہیں، یہی وہ اسباب ہیں، جس کی وجہ سے یہ دونوں نمازوں میں فطری طور پر حد درجہ سیاسی اہمیت کی حامل ہو گئیں اس حد تک کہ یہ اسلام کی پہچان اور سماجی اتحاد کا باعث ہو گئیں۔ (۱۴)

مذکورہ بالانکات اور اس کی حساسیت پر توجہ دیتے ہوئے ایسی صورت میں معاشرہ کے بر جستہ ترین افراد کے علاوہ خواہ ظاہری اعتبار سے افضل کیوں نہ ہوں، ایسی نماز کی امامت کو کس فرد کے سپرد کیا جا سکتا ہے۔ ایسی نماز کی امامت کو جو مومنین کی جماعت کا آئینہ دار اور معاشرہ کی وحدت کا رمز نیز اس کے ثبات کا موجب ہے، ایسے فرد کے علاوہ ان امور کو کسی اور کے حوالہ کرنا معنی نہیں رکھتا تھا عوام بھی اس کے علاوہ کوئی اور توقع نہیں رکھتے تھے۔ اس سے قطع نظر فقہی معیار بھی اسی مطلب کی تائید اور حمایت کرتے تھے۔ بلکہ اس مقام پر یہ کہنا بہتر ہے کہ عوام الناس نماز جموعہ و جماعت اور اس کی امامت خواہ شریعت کے موافق اور مطابق جانتی ہے۔ (۱۵) شارع بر جستہ ترین افراد کو اس عہدہ کو دینے کا خواہاں تھا اگرچہ بعد میں سیاسی اور اجتماعی مجبوریوں اور ناجائز دباو کی وجہ سے بر جستگی اور ممتاز ہونے کا مفہوم اور مصداق بدل دیا گیا۔

آنحضر صلی اللہ علیہ وآلہ ت کے دور میں ان دو (جماعہ و جماعت) نمازوں کی امامت خود مدینہ میں اور دوسرے علاقوں میا جہاں پر آپ موجود ہے تھے میں آپ کے ذمہ تھی اور آپ کی غیبت میں وہ فرداں دونمازوں کی جماعت کا عہدہ دار ہوتا تھا جسے آنحضر صلی اللہ علیہ وآلہ ت نے نہائندہ، جانشین، امیر اور حاکم کے عنوان سے معین فرمایا تھا۔ جب آپ کی وفات ہو گئی تو ان دونمازوں کی امامت خلیفہ اول کے ذمہ تھی نیز اس خلافت کے ابتدائی ایام میں ان دونمازوں نے اس خلافت کو مستحکم اور قبولیت اور ثبات بخششے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ (۱۶) یہ روش خلافتے راشدین کی خلافت کے آخر تک برقرار رہی اور جب امویوں کا دور آیا تو بھی اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ (۱۷)

مثال کے طور پر محقق کر کی نماز جمعہ قائم کرنے یا امام جمعہ کے نصب ہونے کے لئے امام معصوم یا نائب خاص یا نائب عام کی اجازت کو لازم قرار دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں: ... اس مسئلہ میں اجماع سے پہلے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اپنے دور میں انہمہ جماعت اور قضات کو معین فرماتے تھے۔ اسی روشن کوآپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد خلافاً نے جاری رکھا لہذا کسی کو یہ حق نہیں بتا کہ وہ امام یا نائب امام کی اجازت کے بغیر قاضی بن جائے اور اسی طرح سے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے آپ کو امام جمعہ قرار دے لے۔ اور یہ قیاس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دائمی استدلال ہے اور اس کی مخالفت اجماع کی خلاف ورزی ہے۔ (۱۸)

اور پدر سن کچھ اس طرح نقل کرتا ہے:

اسلام کی ابتداء ہی سے نماز کی امامت حاکم کے ہی ہاتھ میں تھی۔ وہی جگہ میں سپہ سالار حکومت کارکیس، تمام نمازوں میں امام جماعت ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح دوسرے شہروں میں منصوب والیوں کی روشن تھی کہ وہ خود نمازوں کی امامت اور خراج لیا کرتے تھے۔ نماز کی امامت اور مخصوصاً نماز جمعہ کی امامت اور اسکے خطبے دنیا حاکم کے ذمہ ہوتا تھا۔ اس کے نہ ہونے کی صورت میں فوج کا کمانڈر اس کے کاموں کا عہدہ دار ہوا کرتا تھا۔ لیکن یہ روشن عہادیوں کے دور میں بدل گئی اور اس کے بعد نمازوں کی سلسلہ وار امامت حاکم کے ہاتھ میں نہیں رہی۔ (۱۹)

جور و شغفار اشید دین کے دور میں تھی وہ بہت زیادہ مشکل ساز نہیں تھی۔ پہلے والے دو خلیفہ اور ان کے منصوبین شرع کے ظاہری احکام کی رعایت کرتے تھے۔ اگرچہ عثمان کے دور میں مخصوصاً صاف دوم میں، حالت بدل گئی اور ولید بن عقبہ جیسے افراد والی بنادے گئے، کوفہ میں منصوب والی شراب کے نشہ میں نماز کے لئے کھڑا ہو گیا اور نماز صحیح کو دور رکعت کے بدے چار رکعت پڑھ دیا اور شراب نوشی میں افراط کی وجہ سے وہیں مسجد کے محراب میں قے کر کے آ لو دہ کر دیا۔ (۲۰) لیکن یہ موارد (حوادث) بہت زیادہ ایسے نہیں تھے کہ جھیں نظر انداز کیا جاسکے اس دور کے بعد امام علی کا دور تو مکمل آشکار ہے اور اساسی طور پر اس لحاظ سے اس دور میں کوئی مشکل نہیں تھی اور آپ کے زمانے میں ایسی مشکلات ہو بھی نہیں سکتی تھیں۔

بلکہ یہ مشکلات امویوں کے دور سے شروع ہوئیں اور روز بروز سنجیدہ ہوتی گئیں اور ایک لا بیخ مشکل کی صورت اختیار کر لی اور انہیں واقعات کے ساتھ ساتھ عدالت امام جماعت و

جماعت واقعیت اور ضرورت کے زیر اثر قرار پا گئی اور۔ وقت کی مصلحتوں کا شکار ہو گئی اور اس بعد اس کی مختلف تفسیریں اور عذر اشیاں ہونے لگتیں اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ آہستہ آہستہ تنزلی پر گامزن ہو گئی کہ اصولاً عدالت کے بارے میں غفلت بر تی گئی اور بعد میں سے پوری طرح بھلا دیا گیا۔

آنحضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اور خلفائے راشدین کے دور کی میراث کا تقاضا یہ تھا کہ آنے والے خلفاء اور ان کے حکام ان والی لوگ، ان کے نمائندے اور اس کے نماز جمعہ و جماعت کی امامت کو خود انجام دیتے رہے ہیں۔ اموی خلفاء اس سے کم پر راضی نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے جو کچھ انجام دیا وہ اس وجہ سے انجام نہیں دیا کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور خلفاء راشدین کے طور و طریقہ کو لا گو کر رہے تھے بلکہ وہ تو تنہ اس واسطے تھا کہ اس کو چھوڑ دینا حکومت اور ان کی مشروعيت اور قانونی حیثیت پانے کے مغایر اور مخالف تھا وہ لوگ قدرت اور حکومت چاہتے تھے اور یہ اسی اور یہ چیزیں اسی وقت مل سکتی تھیں جب حاکم اور صاحب قدر نماز جمعہ و جماعت کو برپا کریں اور اسکی امامت کو انجام دیں، چونکہ ایسا تھا لہذا وہ (اموی حکام) ان دونمازوں کی امامت کے فرائض کو خدمتی انجام دیتے تھے۔

اس دور میں یہ ایک ضرورت بھی تھی اگر ہم اس دور کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اموی نماز جمعہ و جماعت کی امامت اور خاص طور سے جمعہ کی امامت کے فرائض کو انجام دینے کی طرف بہت مائل نہیں تھے۔ اس لئے کہ امام جمعہ اس بات کے لئے مجبور تھا کہ وہ خود نماز جمعہ کا خطبہ دے اور یہ بات ان کے لئے دشوار تھی۔ اس سلسلہ میں گلڈ زیہ اس نکتہ

کے ضمن میں میں کہتا ہے: اموی خلافا کے لئے خطبہ دینا کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن وہ خطبہ دینے کے لئے مجبور تھے تاکہ وہ اس طرح سے لوگوں کا پنی ریاست اور امورداری کی تلقین اور یاد دہانی کر سکیں۔ عبدالملک سے جب سوال کیا گیا کہ کیوں اتنی جلدی تمہاری داڑھی سفید ہو گئی ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا: میری داڑھی سفید کیوں نہ ہو جائے حالانکہ ہفتہ میں ایک بار خطبہ دینے اور اپنی فکر کو دوسروں کی قضاوت کے لئے پیش کرنے پر مجبور ہوں... (۲۱)

خطبہ دینا تھا اموی خلافا کے لئے سخت نہیں تھا۔ بلکہ ان کی طرف سے منصوب والیوں کے لئے بھی محبوب نہیں تھا۔ یہاں تک کہ خطابت میں مشہور، عبید اللہ ابن زیاد اسے اپنی امارت کی نعمت کے لئے منحوس مانتا تھا۔ (۲۲) ایک دوسرا اولی لوگوں کے سامنے اس طرح اقرار کرتا ہے: امامت سے پہلے جمعہ میرے لئے دنوں میں بہترین دن تھا لیکن یہی اب میرے نزدیک بدترین دنوں میں سے ایک دن ہے اس لئے کہ اس میں خطبہ دینے کے لئے مجبور ہوتا ہوں۔ (۲۳)

دوسری طرف مسئلہ یہ تھا کہ خود مسلمین جماعتوں اور جمعہ میں شریک ہونے پر مجبور تھے۔ گذشتہ بزرگوں کی سیرت بھی اس بات کی مقتضی تھی اور دینی نصوص بھی اس کی سفارش کر رہی تھیں۔ بلکہ یہ شرعی فرائض میں سے ایک فریضہ تھا۔ لیکن اس مقام پر اس مطلب کا اضافہ کرنا ضروری ہے کہ اسلام کے آغاز میں حتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی حیات میں، لوگوں سے نماز جمعہ و جماعت میں شرکت کا مطالبہ کیا جاتا تھا تاکہ جماعتوں اور جمیع میں شرکت کریں اور اس امر سے گریز کرنے والوں کو سخت سزا دی جاتی تھی۔ (۲۴) یہاں مسئلہ

یہ نہیں تھا کہ ایک فرد نماز جماعت اور جمعہ مخصوصاً نماز جموعہ میں شریک نہ ہونا ایک واجب کا چھوڑ دینا ہے بلکہ اہم مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان نمازوں کو چھوڑ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کو ان نمازوں میں شریک ہونے پر مجبور کیا جاتا تھا، اس لئے اس کا نماز میں شریک نہ ہونا لوگوں کی طرف سے بعض یا تمام موارد میں دین کو چھوڑ دینے کے معنی میں تھا، یا موجودہ حاکمیت کے انکار یا کم از کم اس کو قانونی اور جائز نہ سمجھنے اور واجب الاطاعت نہ ماننے کے متراffد تھا۔ اور کوئی بھی اموی حاکم مخصوصاً اموی ظالم حاکم کے لئے قابل تحمل نہیں تھا۔ (۲۵)

## شرط عدالت کا انکام

ان حالات اور مجبوریوں کے ہوتے ہوئے ان کے پاس اس کے، علاوہ کوئی اور چارہ کارہی نہیں تھا کہ وہ (اموی حاکم) نماز جماعت و جماعت میں امام کی عدالت کا انکار کر دیں۔ امویوں خاندان کی سب سے زیادہ پابند فرد عمر بن عبد العزیز کے علاوہ کہ وہ کاملاً ایک استثنائی انسان تھا، ایک عنوان سے خود معاویہ تھا۔ اس کی رفتار اس چیز سے جس کی رعایت شرع کی نظر اور گذشتہ خلفا کی روشنی میں کم سے کم ضروری اور قابل عمل تھی، دونوں میں بڑا فرق تھا (کہیں سے دیدار نہیں لگ رہے تھے۔) اس نے آنحضر صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ اور خلفا اشدین کے دور میں راجح نماز جموعہ کو ایک دوسرے انداز میں ادا کی۔ (وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے نماز جموعہ کے خطبہ کو بیٹھ کر پڑھا۔) (۲۶) اس کے بعد خلفا اور حکمرانوں کی حالت اس سے کہیں بدتر ہو گئی گویا وہ پوری طرح دین سے بیگانہ ہو چکے ہیں۔ ان کی فکریں شہوت رانی اور ریاست

کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچتی تھیں۔ قدرت انھیں لوگوں کے ہاتھ میں تھی اور نماز جماعت اور جمود کی امامت بھی خود وہی لوگ کیا کرتے تھے اور عوام لوگ بھی نماز میں ان کی اقتدا کرنے پر مجبور تھے۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ان کی اقتدا میں پڑھی جانے والی نمازوں کی فایت کریں گی یا نہیں؟ اور یہ خود مسئلہ اس کی فرع بھی کہ ان نمازوں کی امامت کرنے والا انسان جامع الشرائط بھی ہے یا نہیں؟ اور اصولی طور پر وہ شرائط کیا ہیں؟ عدالت اور گناہوں سے پرہیز یا لا اقل عدم تکرار اس کی شرائط میں سے ہے یا نہیں؟ کیا اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ اس فاسق و فاجر اور جائز فرد کو امام جماعت بنادیا جائے؟ جو کسی بھی ظلم کے کرنے سے پیچھے نہیں ہتا، یا ایسے فرد کو امام جماعت نہیں بنایا جا سکتا؟ اس کی پہلی صورت میں کیا اس امام کی اقتدا کرنے والوں کی نماز صحیح ہو گی یا نہیں؟

لہذا ان سب کا اصلی راہ حل یہ تھا کہ اس میں امام کی عدالت کا ہی سرے سے انکار کر دیا جائے۔ البتہ اگر امویوں کے آتے ہی یہ تغیر آ جاتا تو پھر حکومت اور حاکم کی مشروعیت اور امام جمود جماعت میں کوئی تلازم باقی نہ رہ جاتا اور قوی احتمال کی بنا پر اس مقام پر بھی عدالت دوسرے موارد کی طرح جیسے قاضی اور گواہ وغیرہ کے لئے بھی قابل انکار نہ ہوتی۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا لہذا ان لوگوں نے امام جمود جماعت کے منصوص شرائط میں اس حد تک توجیہ و تفسیر کی کہ عملی طور پر شرط عدالت کی شرط کا انکار کر دیا جائے یا فاسق و فاجر کی اقتدا فقط کراہت کی حد تک پہنچ جائے۔ (۲۷)

البتہ شیعوں کو ایسی کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ امویوں کو بالکل غاصب اور ناجائز سمجھتے

تھے۔ لہذا اس وقت پیش آنے والے واقعات اور حالات کو قبول کرنے یا نہ کرنے میں کسی مشکل سے رو برو نہیں ہوئے اور باقاعدہ کسی توجیہ و تفسیر کو قبول کرنے کے لئے مجبور نہیں تھے۔ اس نصوص کے علاوہ انہی معمصو میں (ع) کی جانب سے جو احادیث ان تک پہنچی تھیں، ان میں واضح طور پر امام جمعہ اور جماعت کی شرائط میں سے ایک شرط خود عدالت تھی۔ (۲۸)

البتہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ گذشتہ ادوار میں شیعہ حضرات بالکل نماز جمعہ و جماعت میں شرکت نہیں کرتے تھے۔ وہ بھی ان نمازوں میں شرکت کرتے تھے اور عمومی طور پر اسے کافی بھی سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ ایسے حالات میں ایسی نمازوں میں شرکت کرنا نہ صرف یہ کہ قبل قبول بھی بلکہ عظیم ثواب کی حامل تھی۔ (۲۹) لیکن ان ثواب و جزا کے اپنے خاص دلائل اور برائین تھے اور اس کا سبب یہ ہرگز نہ تھا کہ وہ عدالت کی شرط کو امام جمعہ و جماعت کے لئے ضروری نہیں سمجھتے تھے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ سنیوں کی طرف سے شرط عدالت کو قبول نہ کرنے اور شیعوں کی طرف سے اس شرط کو قبول کرنے میں ان سب سے زیادہ جو پہلے ظاہری طور سے فرق نظر آتا ہے اس سے کہیں گہرا فرق ان کے کلامی و فقہی اور اسی طرح ان کے شرعی و اعتقادی حساسیت کی ساخت میں دخیل ہے۔ اس لئے کہ اس شرط کا قبول نہ کرنا موجودہ صورت کو کسی بھی حال میں قبول کر لینے کے متراوٹ تھا۔ اگرچہ اس درمیان کچھ دوسرے عوامل بھی موجود رہے ہیں لیکن یہ عامل ان تمام عوامل میں موثر ترین اور اہم ترین اور بہت ہی زیادہ فیصلہ کن عامل کی حیثیت رکھتا ہے۔

اگرچہ اہل سنت کی فقہی اور کلامی بنا کچھ اس طرح ہے کہ وہ حاکم کو اولو الامر کے مصادیق میں سے جانتی ہے اور اسے واجب الاطاعت سمجھتی ہے (۳۰) آیا طول تاریخ میں اہل سنت نے تمام حکام کی مشروعیت اور ولایت کو اسی علت کی وجہ سے قبول کیا ہے؟ عوام کی درمیانی فکری اور ثقافتی سطح سے بالاتر مباحثت کلامی اور فقہی مسائل کہیں زیادہ پیچیدہ تھے اور ہیں ان مباحثت سے آشنائی کے ذریعہ ان لوگوں نے حاکموں کے سامنے سرنہیں جھکائے۔ اصولاً ایسے مباحث ان کے دین و فہم میں ان کا کوئی مقام نہیں تھا ان کا فہم و ادراک اس سے آسان اور محدود تھا کہ وہ اسے اپنے اندر جگہ دے سکے۔

## شرطِ عدالت کے ان کام کی اہمیت

یا ایک دوسری تعبیر کے مطابق تنہا مشکل یہ نہیں ہے کہ اہل سنت کی فقہ و کلام کی فطری اور منطقی بنائی تقاضا صرف یہ نہیں ہے اور اصولی طور پر ہر دین و مذہب کے پابند لوگوں تقاضا کیا ہے؟ زیادہ اہمیت کا حامل مسئلہ یہ ہے کہ اس وسیع مجموعہ میں سے کون سا حصہ ان کے ذہن و فکر اور ایمان و اعتقاد میں پایا جا رہا ہے یعنی عوام لوگوں کا اس مجموعہ سے متعلق ادراک کیا ہے؟ اور اس کی حدیں کیا ہیں؟ اور ان میں مختلف اجزاء کا ایک دوسرے سے رابطہ کیسا ہے؟ اس مرحلہ میں جو چیز پایدار اور مؤثر ہے وہ یہی ادراک و فہم ہے، یہی چیز ہے جو تاریخی میدان اور معاشرہ میں کردار ادا کرتی ہے۔ اگرچہ یہ دینی شعور و ادراک ہر زمان و مکان میں موجودہ حالات کے تحت بدلتے رہتے ہیں، لیکن مجموعی طور سے تبدیلوں میں، ایک ثابت عوامل پائے

جاتے ہیں جو دین کی استوار بنیادوں اور اصول سے متاثر ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کے نزدیک محسوس ترین اور زیادہ سے زیادہ قبل فہم ایمان کا نمونہ نماز رہی ہے اور اب بھی ہے۔ اس واقعیت کے پیش نظر کہ صدر اسلام میں مسلمان ہمیشہ نماز جماعت میں شریک ہوا کرتے تھے اور نماز جمعہ میں شرکت کرتے تھے اور یہ نکتہ بھی کہ نماز ہمیشہ خلفاء، حاکموں اور ان کے نمایندوں کی امامت میں ہوا کرتی تھی اور لوگوں کی نظر میں یہ امامت حاکمیت اور خلیفہ کی مشروعیت کی علامت تھی۔ کیا واقعیت نہیں ہے کہ شرط عدالت کو قبول نہ کرنا، موجودہ صورت اور اس کی مشروعیت کو قبول کرنے میں ہر عامل سے زیادہ مؤثر رہی ہے۔

یہ نکتہ بالخصوص ابتدائی صدیوں کے لئے زیادہ صحیح ہے۔ اس لئے کہ اس دور میں خود مسلمان نماز جموعہ و جماعت میں شریک ہونا اپنا لازمی فریضہ سمجھتے تھے اور خود حکام اس کی بہ نسبت نہایت حساس تھے اور حتیٰ لوگ معاشرہ کے تمامی لوگوں کے ساتھ زور و شور سے نماز جموعہ اور دوسری جماعتوں میں شرکت کرتے تھیا اور ان دونمازوں مخصوصاً نماز جموعہ کی امامت، حکام کے سپرد تھی۔ لیکن زمانے کے ہذر نے کے ساتھ ساتھ یہ حساسیت بعض وجود ہات کی بنیاد پر شدت سے کم ہوتی گئی اور وہ نمازوں میں حکام کے علاوہ دوسروں کے ذریعہ ادا ہونے لگی، البتہ عموماً بلکہ کمل طور سے جو بلا واسطہ یا با الواسطہ، انھیں کی طرف سے منصوب ہوتے تھے، قائم کی جا رہی تھی۔ (۳۱) لیکن بہر صورت اس واقعہ سے پیدا ہونے والے اثرات، خاص طور سے اس کمی کے وجود میں آنے سے پہلے ہی، مسلمانوں کی فقہی اور کلامی بنیاد اور ان کی دینی

اور نفسیاتی بناؤٹ کو متناہر کر دیا۔

یہاں اہم مسئلہ یہ نہیں تھا کہ حاکم کی امامت کو قبول کر لینے سے، اس کی حاکیت کو قبول کر لیا جاتا تھا۔ بلکہ یہاں پر زیادہ اہمیت کی حامل یہ فکر تھی کہ جس کی بنیاد پر، ظالم و جابر اور فاسق و فاجر کی امامت کو جائز قرار دے رہی تھی جو زندگی کے مختلف امور میں سراپا ایت کر گئی اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایسے حاکموں کی اقتدا میں نماز ادا کرنا نہ تنہ صحیح تھی بلکہ ان کو صدقات اور زکات اور ان کے ہمراہ جہاد اور حج بھی درست ہے۔ اس حد تک کہ ابن حنبل جیسا زاہد اور محتاط انسان یہ کہنے پر مجبور ہو گیا: جہاد حاکموں کے ساتھ تاریخ روز قیامت خواہ وہ عادل ہوں یا فاسق صحیح ہے اور اسی طرح سے غنائم کی تقسیم اور حدد وہابی کو جاری کرنا بھی ان کی طرف سے صحیح ہے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ انھیں طعنہ دے اور ان (حاکم) مقابلہ میں کھڑا ہو جائے۔ انھیں صدقات دینا جائز اور نافذ ہے لہذا جو شخص انھیں صدقے دے خواہ وہ اچھے ہوں یا بُرے، وہ بُری الذمہ ہو جائے گا۔ ان کے ساتھ نماز جمعہ پڑھنا جائز ہے اور جوان کی اقتدا میں پڑھنے کے بعد دوبارہ اس کا اعادہ کرے تو وہ سلف صالح اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی سیرت کا تارک اور بدعت گذار ہو گا۔ اگر کوئی امیروں کی اقتدا میں نماز پڑھنے اور اس کی صحیت کا عقیدہ نہ رکھتا ہو خواہ وہ عادل ہوں یا عادل نہ ہوں مجبزی ہے گویا وہ ایسا ہے کہ اس نے نماز جمعہ کی فضیلت کو بالکل درک نہیں کیا ہے۔ سنت تو یہ ہے کہ ان کی اقتدا میں دو رکعت نماز بجالائی جائے اور اس پر ایمان رکھئے کہ یہ نماز تام و تمام ہو گی اور اس سلسلہ میں معمولی سا بھی رو انھیں ہے۔ (۳۲)

اب اس نکتہ کی بررسی کرنا ہے کہ یہ فکر کیا تھی اور کہاں سے پیدا ہوئی۔ اس فکر کی جڑ کہاں سے ہے: جس کے سہارے مذکورہ امور پر صحت کی مہر لگائی جاتی تھی، اس نکتہ میں پوشیدہ ہے کہ بعض امور جیسے نماز، جہاد اور زکوٰۃ جو خود مطلوب ہیں اور انھیں انجام دینے کے لئے شارع نے حکم دیا ہے۔ اس مقام پر ان کا بجا لانا اہم ہے نہ یہ کہ انھیں کیسے انجام دیا جائے۔ اہم تو یہ ہے کہ مکف ان امور کو انھیں ضوابط کے مطابق انجام دے جنھیں شارع نے مقرر کیا ہے۔ لیکن یہ اعمال کس کی ہمراہی میں انجام پذیر ہوں، یہ کوئی اہم بات نہیں ہے۔

اہم تو یہ ہے کہ نماز جمعہ و جماعت قائم ہوا اور مسلمان لوگ اس میں شرکت کریں، اہم یہ نہیں ہے کہ اس کی امامت کون کر رہا ہے۔ اہم تو یہ ہے کہ جہاد کا فریضہ ترک نہ ہو۔ لیکن یہ جہاد کس شخص کی سپہ سالاری میں کیا جائے یہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا ہے اہم تو یہ ہے کہ صدقات و زکوٰۃ ایک شرعی فریضہ ہونے کی وجہ سے ادا کیا جائے، لیکن یہ کہ اسے کس کے حوالہ کیا جائے اور کہاں مصرف کیا جائے یہ مورڈ توجہ نہیں ہے۔ رقوم شرعیہ کے لینے والے خواہ عادل ہوں یا عادل نہ ہوں، بلکہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہوں انہیں ادا کیا جائے!۔

اسی نکتہ کو حسن بصری اس مقام پر بیان کرتے ہیں، جہاں کوئی شخص کسی منافق کی امامت میں نماز پڑھ لے، اس طرح وضاحت کرتے ہیں: کسی مومن شخص کے کسی منافق کی امامت میں نماز پڑھنے سے اس کی نماز کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور مومن کی اقتداء میں کسی منافق کا نماز ادا کرنا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ (لیکن اس سے کہیں زیادہ صریح انداز میں عبد اللہ بن عمر بیان کرتے ہیں: نماز ایک حسنہ ہے۔ لہذا میرے لئے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ

میری نماز میں کون شریک ہو۔ (۳۴)

اس سلسلہ میں ابن حزم فرماتے ہیں: میں اصحاب رسول میں کسی صحابی کو نہیں پہچانتا کہ جو اپنی نماز کو مجتاز، عبد اللہ ابن زیاد، جبار اور نہ اس سے زیادہ کسی فاسق کی امامت میں پڑھنے سے انکار کیا ہو۔ خداوند عالم فرماتا ہے: نیکیوں اور تقویٰ میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور معصیت اور دشمنی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اور یہ مسلم ہے کہ مساجد میں نماز اور اس کے اقامہ سے بہتر کوئی خوبی نہیں ہے، پس جو بھی اس کی نیکی کی طرف دعوت دے تو اس نیک امر میں اس کی اجابت کرنا واجب ہے۔ نماز کو ترک کرنے اور مساجد کو بند کر دینے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ پس ہمارے اوپر حرام ہے کہ ہم اس میں کسی کی مدد کریں اور یہی حکم روزہ، جہاد اور حج کا ہے۔ پس اگر کوئی ان کی طرف ہمیں دعوت دے تو ہم اس نیک امر میں اس کے ساتھ ہوں گے اور اجر کوئی ہمیں برائیوں کی طرف دعوت دے تو اس کی اجابت نہ کرتے ہوئے اس کی مدد نہ کریں گے۔ یہ نظریہ ابوحنیفہ، شافعی اور ابو سلیمان کا ہے۔ (۳۵) اور ابن قدامہ جو حنبلی فقہ کے بزرگ فقہاء میں سے ہیں وہ بھی فرماتے ہیں: ایک مسلمان شخص پروا جب ہے کہ وہ نماز جمعہ اور عیدین میں شریک ہوا گرچا ان نمازوں کا امام فاسق و فاجر اور بدعت گذار ہی کیوں نہ ہو۔ اس لئے کہ یہ اسلام کے ظاہری شعائر میں سے ہیں کہ جسے اولیائے مسلمین قائم کئے ہوئے ہیں۔ پس ان کی امامت میں ان نمازوں کا نہ پڑھنا ان کی تعطیل اور ختم کر دینے کا پیش خیمه ہے۔ (۳۶)

## عمل اور اس کے شرائط

مذکورہ بالانظریات میں جو نکتہ اہمیت کا حامل ہے وہ خود عمل ہے اور ان کے شرائط کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ حالانکہ کسی بھی عمل کا شرائط اس عمل کے جزء ہوتے ہیں لہذا ان کا خود عمل سے جدا ہونا ناممکن ہے۔ ان کی نظر میں نماز جماعت و جمعہ تہا ایک عبادی عمل کی حیثیت رکھتا ہے لہذا ان کا عمل خیر اور مطلوب ہونا (ان کے شرائط سے چشم پوشی کرتے ہوئے کہ کسی بھی شخص کی امامت میں انجام پائے) اس کی سفارش اور اس پر زور دیا گیا ہے اور اسے مجری اور تام بھی قرار دیا گیا ہے۔ اب اگر یہ بات اپنی جگہ پر درست ہو، یہ ان عبادتوں میں ہے کہ جہاں یہ عمل انفرادی حیثیت رکھتا ہے لیکن نماز جماعت و جمعہ یا جہاد میں، یہ کہنا درست نہیں ہو سکتا۔

اگر اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ نماز جماعت و جماعت، جیسا کہ اخبار و احادیث اور سیرہ نبوی سے سمجھ میں آتا ہے، یہ اہم اور حساس ترین اسلامی شاعر میں سے ہے اور یہ مسلم اور طے شدہ ہے کہ اخلاص و توحید و اسلام اور اسلامی عبادتیں نمایاں ظاہر اور دکھائی دینے والی ہیں۔ اس لئے کہ ان کے نمایاں ہونے میں اہل شرق و غرب یعنی سبھی لوگوں کے لئے جدت و دلیل ہے۔ (۳۷)

اور عملی طور پر پوری تاریخ میں یہ اہم شاعر میں سے رہے ہیں، لہذا ایسی صورت میں جبکہ وہ خود اس قدر اہم ہیں تو ان کی امامت کے سلسلہ میں یہ کہہ کر کہ نماز ایک مطلوب اور قبل تو صیف امر ہے اس کے بارے میں سستی بر قیں یا انھیں بے اہمیت بتایا جائے۔ پس یہ بات

قابل قبول نہیں ہے کہ وہ اسلامی شعائر جس کے ذریعہ اسلام اپنی واقعیت اور معاشرتی صورت نمایاں کرتا ہے، ایک ایسے شخص کے ذمہ ہوں جو کم سے کم دینی اور اخلاقی صلاحیت بھی حامل نہ ہو اسلامی شعائر جو خود دین ایک حصہ ہیں اور بلکہ دین کے اہم ترین رکن کی حیثیت رکھتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ شخص جو خود دینی اقدار کی مخالفت کا مظہر ہے کم سے کم اس سے بیگانہ ہے، اس کی امامت کا ذمہ دار بن جائے (۳۸) یہ موضوع اس سے کا بہت واضح ہے کہ اس کے بارے میں کسی قسم کا بھی مناقشہ کیا جائے۔

اس سے ہٹ کر صدر اسلام میں کسی بھی امام کی امامت میں نمازوں کی ادائیگی صرف اس معنی میں نہیں تھا خواہ نماز یومیہ ہو یا نماز جمعہ انجام پا جاتی تھی بلکہ یہ اقتدا بھی زیادہ معانی کی حامل تھی اور یہی زیادہ معانی کا حامل ہونا زیادہ لوگوں کی توجہ کا مرکز تھا۔ اس دور میں لوگوں کی نظر میں یہ مسئلہ ایسا نہیں تھا کہ فلاں شخص چونکہ جماعت میں حاضر ہو گیا ہے، اس لئے اس نے اپنی نماز ادا کر لی ہے۔ ایسا کوئی نظر نہیں تھا، سب سے پہلے مسئلہ یہ تھا کہ کسی بھی فرد کا کسی کی امامت میں نماز کا ادا کرنا اس کی امامت کو قبول کرنے اور اس کو قانونی اور آئینی حیثیت دینے کے معنی میں تھا۔ کہ اس نے اس کی امامت اور ولدیت کو نماز میں شریک ہونے کی وجہ سے تائید کر دی تھی (۳۹)

جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ نماز جمعہ و جماعت وحدت کی نشانی اور مسلمانوں کے تفقی ہونے نیز اس حاکم کو قانونی طور پر قبول کرنے کے معنی میں تھا۔ ان دونمازوں میں شرکت کا قہر نتیجہ یہی تھا اور یہ بلا واسطہ حاکم کی حکومت کو قبول کرنے اور اس کی قدرت کے

ارکان کو مستحکم کرنے اور اس کی تائید پر تمام ہوتا تھا اور یہ مسئلہ نماز میں شرکت کرنے والے کی نیت سے بھی متعلق نہیں تھا کہ وہ کیا ایسا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے؟ بلکہ اس دور کے عرف میں اس کا تنہا شریک ہو جانا اس کی تائید کے معنی و مفہوم میں تھا۔ جب عبد اللہ ابن عمر نے یہ جملہ کہا: نماز جمعہ کی امامت تنہا اس شخص کا حق ہے جو اپنے رقبوں سے جنگ میں کامیاب ہو جائے۔ (۴۰) یہ جملہ اسی نکتہ کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ یہ بات تنہا عبد اللہ ابن عمر کی نہیں بلکہ اس دور کے عام مسلمانوں کی فکر تھی۔

یہاں ہماری بحث نہیں ہے کہ یہ طرز فکر کن معیاروں پر قائم ہے اور اس کے مختلف پہلو کیا ہیں اور اس کے نتائج کیا ہیں؟ بلکہ ہمارا ہدف یہ ہے کہ علماء اہل سنت کس طرح سوچنے ہیں اور ایسا کیوں سوچتے؟ مثلاً ابن تیمیہ کتاب السیاسہ الشرعیۃ میں ایک مقام پر رقم طراز ہیں: تعاون کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم: خوبیوں میں تعاون اور مدد کرنا مثلاً جہاد اور اقامہ حدود سے لیکر حقوق شرعیہ کے لینے اور اس سے مستحقوں کو دینا یہ وہ امور ہیں کہ جن کے لئے خدا رسول نے حکم دیا ہے۔ بہت زیادہ ایسا ہے جو اس بات سے ڈر کر کہ مبادا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ظالموں کے مددگاروں میں اس کا شمار ہو جائے، مدد سے ہاتھ کھینچ لے، پس اس نے ایک واجب عینی یا واجب کفایی کو ترک کر دیا ہے ایسا تو ہم کہ ایک شخص باورع، متقدی اور پرہیزگار ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خوف و سُتی اور پرہیزگاری ایک دوسرے سے مشتبہ ہو جاتے۔ ہیں اس لئے کہ دونوں کا مطلب رکنا اور باز آ جانا ہے۔ دوسری قسم: گناہ و دشمنی پر مدد کرنا ہے۔ مثال کے طور پر نفس محترم کو قتل کرنے میں مدد کرنا یا مال محترم کو غصب کرنے میں مدد کرنا یا کسی

کو مارنے میں مدد کرنا جو مستحق نہ ہو یا اور ایسی ہی دوسری بہت ساری میثا لیں۔ یہ تمام وہ امور ہیں جنھیں خدا اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ (۴۱)

بلاشک و شہہر ایسی طرز فکر جیسا کہ ہم نے نماز جمعہ و جماعت کی بحث میں بیان کیا، دینی پابندیاں ایک طرف تو دوسری طرف صدر اسلام کے ناہنجار حالات کا نتیجہ رہی ہیں اور اس درمیان اسے فروع دینے میں اموی اور ابتدا میں عباسی خلافاء نے خوب کردار ادا کیا ہے۔ اس کا امکانی را حل وہی ہے جسے ان لوگوں نے انتخاب کیا۔ یعنی ان لوگوں نے بعض موقع پر عدالت کی شرط حذف کر دیا مثلاً ان کے لئے یہ ناممکن تھا کہ قرآن کی وہ آیات جو جہاد اور صدقات و زکوٰۃ کا حکم دیتی ہیں، ان سے چشم پوشی کر لیں، لہذا اس مقام پر ان لوگوں کے لئے تنہا معیار ان احکام کا بجالانا ہے اور اب یہ اہمیت نہیں رکھتا ہے کہ وہ کس کی تیادت میں اور کس ہدف کے تحت انجام پائے۔

اتفاق سے یہ مسائل وقت کے حکام کی خاص توجہ کا مرکز بھی تھے۔ وہ جس جنگ کو خود جہاد سمجھتے تھے اس میں لوگوں کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو لازم جانتے تھے۔ جس طرح سے اس بات کو بھی پسند کرتے تھے کہ لوگوں کے شرعی حقوق کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ لہذا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا تھا کہ وہ ان احکام کو تعطیل کرنے کی فکر میں پڑتے یا اسے کمزور بناتے، یا کم سے کم جوان کی بلند پروازیوں کے امکان کو ختم کر دیتے۔ اس لئے کہ وہ ایک طرف سے ان احکام کے جاری ہونے سے مادی منافع سے بہرہ مند ہوتے تھے اور دوسری طرف اس کے معنوی منافع بھی حاصل کر لیتے تھے اور اس طرح وہ اپنے آپ کو راہ خدا کے مجاہد اور غازیوں

میں شمار بھی کرتے تھے، ان کا یہ عمل ان کی موقعیت کو مستحکم بنانے اور ان کی عوام الناس میں مقیول بنانے میں کافی مدد کر رہا تھا۔ (۴۲)

ہم نے ابھی تک جن دلائل کو بیان کیا ہے، ان کے باوجود یہ کہنا بجا ہے کہ نماز جمعہ و جماعت میں عدالت کی شرط کو معتبر نہ سمجھنا اور اس طرز فکر کو ایجاد کرنے، اسے مکالم اور مضبوط بنانے اور دوسرے مقامات میں پورے طور سے ایک بڑی مدد کی ہے اس لئے کہ ہر علاقہ میں تمام لوگ ہر روز ان دو فریضوں سے سروکار رکھتے رہے ہیں اس کے برخلاف یہ دونوں سمجھی لوگوں کو یہ فریضہ پانچ اوقات میں ہر فرد کے لئے یکساں طور پر شامل ہے۔ اور ان باتوں سے ہٹ کر خود نماز، خواں کی شرعی حیثیت کا لاحاظ کیا جائے اور چاہے لوگوں کے فہم کے اعتباروں سے ایک خاص مقام کا حامل ہے۔ پس جب شرط عدالت کو ایسے اہم فریضہ سے ساقط کر دی جائے گی تو عدالت کی شرط اور اس کے اعتبار کا ختم کر دینا مسلم ہے کہ دوسرے موارد سے بھی عدالت کی شرط ختم ہو جائے گی اور اس طرح دوسرے موارد سے عدالت کی شرط کے حذف ہو جانے سے کسی شخص کی آواز کو اعتراض اور تجرب کے عنوان سے بلند کر دے تو یہ اس کا فطری عمل ہو گا۔ بلکہ اساسی طور پر ایک ایسی جدید اسلامی فکر اپنے اصول و ضوابط کے مطابق مضبودا کر دے اور آہستہ آہستہ اس کو وجود میں لائے۔

جس وقت قدادہ نے سعید ابن مسیب جو کہ تابعین کے اکابر زادہوں میں سے تھا اپنے عقیدہ پر اصرار اور اس پر زور دینے کی وجہ سے کہ (ایک زمانہ میں) دو خلیفہ کی بیعت نہیں کی جا سکتی لیکن دوسری طرف عبدالملک اس سے یہ چاہ رہا تھا کہ اپنے دو بیٹوں ولید اور سلیمان کے لئے ایک

ہی وقت میں ان سے بیعت لینا لے لے)۔ (۴۳) کئی بار عبد الملک کے حکم سے شدید شکنجوں کا شکار ہوئے، سوال کیا گیا کہ کیا ہم حاج ابن یوسف کی امامت میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا: ہم اس سے بھی بدتر کی امامت میں نماز پڑھتے ہیں۔ (۴۴) صحابہ اور تابعین عموماً ایسے ہی تھے، جیسا کہ عبد اللہ ابن عمر حاج کی امامت میں نماز ادا کرتے تھے اسی طرح خوارج کے رئیس نجدہ کی امامت میں بھی نماز پڑھتے تھے۔ (۴۵) البتہ یہ حقیقت ہے کہ اس دور میں شیعہ حضرات اور ان کے سردار اور بزرگان بھی ان نمازوں میں شریک ہوتے تھے۔ (۴۶) لیکن جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے اشارہ کیا کہ ان کا یہ عمل ایک خاص دلیل کی بناء پر تھا نہ یہ کہ وہ حضرات نماز جمعہ و جماعت میں عدالت کی شرط کے معتقد نہ تھے۔

یہ مسئلہ اہم حساس ترین نکات میں سے ہے جس نے اہل تسنن اور اہل شیعہ کے فقہی و کلامی، اس کے اعباع میں معاشرتی بناوٹ، نفسیاتی، سیاسی تبدیلیاں اور ان کی تاریخ کو جدا کر دیا ہے۔ اس دور میں اس زمانہ کے حالات سے جدا قانونی حیثیت کا حامل اور اس سے وجود میں آنے والی ضرورتیں اور شیعوں کے افکار اپنے ابتدائی ایام سے ہی مقبول تھے اور اس میں روز افزود اضافہ ہوتا گیا۔ اس طرح سے عدالت اپنے فقہی حدود میں کہیں زیادہ واضح اور وسیع پیانا نہ پرانے دو گروہوں کے کلامی مفہوم کو ایجاد کرنے میں اپنا پورا پورا کردار ادا کر گئی، نیز اس نکتہ پر توجہ کئے بغیر ان کے تاریخی، سیاسی، معاشرتی اور دینی تغیرات کے سلسلہ میں صحیح تحلیل و نجزیہ اور مختلف قسم کے رفاه کو آیندہ کے بدلاو کے ساتھ وجود میں لانے کے بارے

میں تحقیق نہیں کی جاسکتی۔ اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ ہم اس کے بغیر ان کے آئندہ کی تاریخ میں رشد و نمو سے متعلق ایجاد ہونے والی رکاوٹوں اور تحقیق و بررسی کر سکیں۔

اور اس طرح شیعوں کے فقہی و کلامی نظام نے اہل تسنیں کی عدالت کے برعکس اپنی موقعیت کو محفوظ کر رکھا ہے، اگرچہ شیعہ جس عدالت کے قائل تھے اسے معاشرتی نظام کو عملی طور پر تحقیق بخششے میں ناکام رہے ہیں لیکن ہمیشہ اسے عملی کرنے کے رہے ہیں اور کم سے کم اپنی آرزو کے عنوان سے اس کے بارے میں فکر کرتے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل سنت کے درمیان ایسی بات دیکھنے میں نہیں آتی اور اگر کبھی ایسا دیکھا بھی جائے تو وہ بھی ان کے شیعہت سے لگاؤ کی بنی پرا ایسا اتفاق زمانہ کے مختلف حصہ میں دیکھا گیا ہے۔ (۴۷)

علی الوردی اسی مطلب کو بخوبی بیان کرتے ہیں: نہب شیعہ اس دور میں ایک آتش فشاں کی طرح خاموش ہے۔ ایسا آتش فشاں ایک دور میں ابل رہا تھا اور زمانے گزرنے کے ساتھ ساتھ خاموش ہو گیا ہے۔ اس میں اور دوسرے پہاڑوں میں بس یہی فرق ہے کہ اس کے دہانے سے دھواں نکلتا ہے۔ لیکن ایک خاموش آتش فشاں اپنی ظاہری خاموشی کے باوجود خطرہ سے خالی نہیں ہے۔ اس میں اور دوسرے پہاڑوں میں فرق یہ ہے کہ یہ اپنے اندر پکھلی ہوئی آگ رکھتا ہے جس کے متعلق کسی کو نہیں معلوم کہ اس میں کب انقباڑ واقع ہو جائے گا۔ پھر اپنے بیان میں اس طرح اضافہ کرتے ہیں: اشنا عشری شیعہ کے عقائد کچھ اس طرح سے تھے کہ ان کو تاریخ کے کسی بھی دور میں حکام وقت پر تقيید کرنے اور ان سے ٹکراؤ اور معارضہ سے باز نہیں آئے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہر حکومت ظالم، جابر، غاصب اور شرعی حیثیت

سے خالی ہے مگر یہ کہ اس حکومت کی باغ ڈور ایک عادل شیعہ اور، یا علی ابن ابی طالب کی اولاد میں سے جو معصوم ہوں وہ اس کی باگ ڈور کو سننجال لے۔ اس بنیاد پر شیعہ حضرات ایک دائیگی انقلاب کی حیثیت رکھتے تھے جو ایک پل بھی قرار نہیں لیتے تھے اور حکام وقت کا مقابلہ کرنے سے رکتے نہیں تھے اور حاکم کو اپنے ائمہ معصومین (ع) کے ضوابط کی ان کسوٹی پر مقایسہ کرتے تھے جس کے وہ خود معتقد ہوتے تھے، اسی وجہ سے موجودہ حکومت کو غاصب اور ناقص تصور کرتے تھے۔ شیعوں کا یہ عقیدہ صدر اسلام سے لیکر اب تک، پھلتا پھولتا اور ان کے اور حکام کے درمیان دشمنی میں گہرائی اور اس عقیدہ کی جڑیں پختہ ہوتی گئیں یہی وجہ تھی کہ انھیں زندیق، رافضیا اور ملعونے کی تہمت لگائی گئی۔ دشمنی طور پر رفض کی صفت دین اور حکومت دونوں ہی معنی میں خارج ہو جانا تھا۔ جس شدت کے ساتھ انھیں ان مشکلات اور ذہنی دباؤ کا سامنا ان حکام کی طرف سے کرنا پڑ رہا تھا اسکی وجہ سے وہ لوگ (شیعہ) ترجیح دیتے تھے کہ انھیں شیعہ اور رافضی کے بد لعلہ اور کافر کہا جائے، معاویہ اور اس کے اموی خلف اور ان کے بعد عباسیوں نے انھیں خاموش کرنے کی پوری کوشش کر ڈالی اور انواع و اقسام کے شکنجبوں کا سہارا لیا تاکہ ان کو جڑ سے ختم کر دیں، لیکن وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ شیعہ ایسے تمام اقدامات کا ڈلت کر مقابلہ کرتے رہے اور مستقبل میں بھی ستگروں اور ان لوگوں سے مقابلہ اور نبرد آزمائی کرتے رہیں گے جو انسانی کرامت اور ان کے حقوق سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ (۴۸) البتہ ان کی یہ روشن اپنے خاص نتائج کی حامل بھی ہے کہ ان میں سب سے اہمیت کا حامل اس کا متفاہد ہونا ہے ہر وہ چیز جو پائیداری، ثبات

قدمی اور تاریخی استمرار سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔

شیعوں کے نزدیک عدالت کو ایک اصل کے عنوان سے قبول کر لینے سے ایک دینی رنگ اور ایک خاص دینی فہم وادرائے اس کے ہمراہ آگئی۔ خود شیعوں کا جوش میں آ جانا، تحریک کو قبول کرنا، ندا کاری اور ان کی آرزوں میں اسی ایک نکتہ کو قبول کر لینے کا نتیجہ ہیں۔ البتہ دوسرے عوامل بھی ایسے خصائص کو وجود لانے میں مددگار رہے ہیں کہ جن میں سب سے زیادہ اہم واقعہ عاشورا ہے لیکن مسئلہ تو یہاں ہے کہ یہ واقعہ خود شیعوں کے نزدیک ایک آزادی طلبی، عدالت خواہی اور مردانگی ساتھ زندگی بس رکنا ایک اعلیٰ نمونہ ہے لہذا یہ واقعہ اس کی تائید اور انھیں اوصاف کے استحکام اور وہی عدالت کا آرمانی مفہوم ہے۔

یہ سارے عوامل باعث ہوئے کہ شیعیت کی پوری تاریخ میں عدالت کی سب سے زیادہ بھار نے اور اکسانے والی آرزو، ایک اہم مقصد اور تمدن کی صورت میں باقی ہے۔ اور یہ اسی طرح تابد باقی رہے گی۔ یہ شیعی افکار پر اعتقاد کا ایک فطری نتیجہ ہے۔ جب تک یہ مذہب اور مکتب فکر باقی رہے گا اور اپنے پیروکاروں کو ایمان اور قوت بخشنا رہے گا اور ذہنی و نفسیاتی بناؤٹ اور دینی فہم وادرائے کو متاثر ہے، ایسی خصوصیت کی ضرور حامل ہوگی۔ اگرچہ اس بات کا امکان ہے کہ بعض اسباب و عوامل کے تحت وہ کم مدت یا طولانی مدت تک کے لئے بے حرکت ہو جائے لیکن کبھی بھی پوری طرح نابود نہیں ہو سکتی۔

اہل سنت کا عدالت کو ایک اصل کے عنوان سے قبول نہ کرنے نے ان کے اندر دینی رجحان کو اور اسی طرح ایک دوسرے میں درک فہم ایجاد کر دیا۔ یہ دونوں ان کے نزدیک ایک ایسے

مرکز میں پروان چڑھے ہیں کہ عوام الناس کے لفظ میں تمام ہوئی ہے۔ یعنی قدرت، امنیت اور موجودہ صورت حال کو قبول کرنا ہے۔ ان میں کون سا عامل باعث ہوا ہے کہ متعدد روایات اور نصوص میں نماز جماعت کے متعلق شرط عدالت کی صراحة کے باوجود ان نمازوں کے امام کے تقوی، دینداری اور عدالت کو واجب قرار دیتی ہیں۔ (۴۹) (اور وہ نصوص جن کا ان کے نزدیک کامل اعتبار ہے۔) ان تمام عوامل کے باوجود اسے کوئی اہمیت کیوں نہیں دی گئی یا کم از کم اہمیت بنانے میں مشغول رہے ہیں۔ کیا اسے قبول کر لینے کی صورت میں پیش آنے والے اعتراضات اور اس کے نتائج کی وحشت (عدالت کو قبول نہ کرنے کا) باعث ہوئی؟ ہاں! دینی رجحانات اور قدرت و امنیت کے مفہوم کے تحت دین کا شعور و ادراک پیدا ہوا جو عدالت کا رقبہ بن کر سامنے آیا اور اس کو پیچھے ڈال دیا تھا، اس کے سبب یہ وجود میں آیا۔

اس ماجرا کے بھی کچھ خاص نتائج ہیں جن میں اہم ترین اس دینی فکر کے تصور کا ان عوامل سے موفق ہونا ہے جس کے ذریعہ ہم نے ثبات، استقرار اور تاریخی استمرار سے تعبیر کیا ہے۔ جب کہ اس کی موجودہ صورت حال اپنی کم سے کم مشروعیت کی حامل تھی جو اسے نامشروع قرار دے اور عین اس عالم میں کہ کوئی اس سے زیادہ وسیع اور جائز آرزو نہیں موجود نہ تھیں نیز اس کے حصول کے لئے لوگوں کو غور و خوض اور تحریک کی دعوت نہ دے، دینی تفکرات اور لوگوں کے دینی رجحانات اور ان کی سوچ بوجھ بھی ایسی نہیں تھی جو ایسی دعوتوں پر لبیک کہے، ایسی صورت میں فطری طور پر ایسے ہی ثبات اور استقرار کا حاصل ہونا مسلم ہے۔

البته ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تشیع اور تسنیٰ کی نگاہ سے تاریخ لازمی طور ایسی رہی ہے یا آئندہ بھی ایسی ہی برقرار رہے گی۔ دوسرے عوامل بھی رہے ہیں جس میں ہر ایک نے اپنے اعتبار سے کردار ادا کیا ہے۔ ان دونوں مذہبوں کی تاریخ نے ان عوامل کی تاثیر اور تاثرات کو اکٹھا کر لیا ہے۔ جو کچھ اور کہا جا چکا ہے وہ اہم ترین اور فیصلہ کرنے والے عوامل میں شمار ہوتے ہیں اور بعد میں اہمیت کے حامل رہیں گے۔ ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے اس کو اس وجہ سے کہا ہے کہ یہ فکران دو گروہ کے دینی افکار اور ان کی روح، ان کے باطن اور ضمیر میں سے مخلوط ہو گئے ہیں ایسی جڑ جو کہ ان دونوں فرقوں کے افکار و عقائد سے پیدا ہوئی ہے۔ لہذا جب تک ان افکار کے حامی زندہ رہیں گے، اس وقت تک ایسے واقعات اور حادثات باقی رہیں گے۔

## حکومت کی ذمہ داریاں

لیکن دوسرا عامل، گذشتہ ادوار میں حکومت اور قدرت کا مفہوم رہا ہے۔ اس دور سے مکمل جدا اور اس کے برخلاف ہے جس میں حکومت تنہا ایک خادم کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن گذشتہ ادوار میں حکومت کا پہلا قدم امنیت برقرار کرنا تھا۔ لیکن اس دور میں حکومت سے خدمت طلب کی جاتی ہے اور قدیم ایام میں اس سے داخلی اور خارجی امنیت کی ضمانت مانگی جاتی تھی، لوگوں کی یہ توقع گذشتہ لوگوں کی حکومت سے متعلق افکار کا نتیجہ تھی اور یہ بھی اس دور کے حالات سے متاثر ہونے کا نتیجہ تھی۔ ان لوگوں کی نظر میں حکومت ایک ایسا مجموعہ تھی جو لوگوں

کے مال، جان اور ان کی ناموس کی محافظتی اور اس کی پہلی ذمہ داری ان امور کو بناانا سنوارنا اور ان کو انجام دینا تھا نہ یہ کہ خدمات کا پیش کرنا مثلاً حفاظت صحت اور علاج و معالجہ، ثقافت، ماحول کی درستگی، تعلیم، سالم تفریحی فراہمی اور دوسری بہت ساری خدمات کی فراہمی تھی۔ نئے زمانہ میں تبدیلیوں نے حکومت اور اس کی ذمہ داریوں کے مفہوم میں تغیر ایجاد کر دیا اور امنیت کو برقرار کرنے کو انھیں فرائض کی انجام دہی میں سے ایک جزو مان لیا گیا وہ بھی نہ یہ کہ سب سے زیادہ اہمیت کے عنوان سے مانا۔

لیکن گذشتہ ایام میں مخصوصاً مشرقی اسلامی دنیا میں جہاں پر سیاسی ثبات اور استمرار کی بالکل خبر نہیں تھی اور ایسی صورت حال نہیں تھی، اس لئے کہ اس دور میں تمام چیزیں اور سارے مقدسات اہمیت میں خلاصہ ہو جاتے تھے اور حائز اہمیت اور مطلوب یہ تھا کہ حکومت میں اتنی صلاحیت ہونی چاہئے کہ وہ سماج میں اہمیت کا تحفہ لاسکے۔ حکومت کے لئے اہمیت کو برقرار کرنا اپنے شہریوں کے لئے ایک بہت بڑی نعمت تھی جو ان کے لئے مہیا کر سکتی تھی، اگر مسئلہ کو آج کے جدید زاویہ نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔ بلکہ گذشتہ زمانہ کے حالات پر توجہ رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو اس موضوع کی اہمیت کے تحت اہل سنت کے بزرگ متكلمین اور فقہاء کے اندر پیشہ اور پریشانیوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہر چیز کی بازگشت اسی اہمیت کی طرف ہوتی ہے خواہ وہ حفظ شعائر کا مسئلہ ہو یا حدود اور احکام الہی کے اجراء کا مسئلہ یا لوگوں کی جان و ناموں و مال کا مسئلہ ہو۔ ان کی نظر میں حکومت جہاں حافظ دین تھی وہیں لوگوں کی جانوں کی حفاظت کرنے والی بھی تھی لہذا حکومت ان کی دنیوی و آخری مصلحتوں کو پورا کرتی تھی۔

عموماً اہل سنت کے بزرگوں نے امامت و خلافت کے متعلق جو کتابیں تحریر کی ہیں یا اسی مناسبت سے اس موضوع کے تحت خامہ فرمائی کی ہے۔ انھوں نے حکومت کی سب پہلی اور اہم ترین ذمہ داری حفظ امنیت کو قرار دیا ہے؛ یہاں تک کہ ان میں سے بعض لوگوں نے تو ایسی ذمہ داریوں کو تعریف و تشریح کے عنوان سے انتخاب کیا ہے، خواہ وہ ایک محتاط فرد، صوفی خیال جیسے غزالی سے لیکر، (۵۰) ابن تیمیہ کے ایسے سرخخت اور متعصب انسان تک، (۵۱) ماوردی کے ایسا سیاست باز سیاسی دانشور سے لیکر، (۵۲) ابن خلدون کے ایسے روشن فکر اور متکلف فلسفہ تک۔ (۵۳) یہ لوگ جس دور میں زندگی گزار رہے تھے ایسی حساسیت کو محسوس کر رہے تھے البتہ ان کا ایسا نظریہ ایک فطری مسئلہ تھا۔

شاید آپ کے ذہن میں سوال اٹھے کہ پھر شیعوں کے یہاں ایسا کیوں پیش نہیں آیا؟ یعنی شیعی بزرگ فقہاء اور متکلمین نے موضوع امنیت اور اس کی حفاظت کے بابت اس حد تک اپنی حساسیت کو آشکار کیوں نہیں کیا؟ جب کہ وہ لوگ بھی قدیم زمانہ میں زندگی بسر کر رہے تھے اور وہ بھی ہونے والے بدلا و اور حادث کا نزدیک سے مشاہدہ کر رہے تھے؟ تو اس کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے اولاً امنیت، حفظ ناموس، جان، مال اور ناحق خون کے بہانے کے متعلق شیعوں کا اندریشہ اہل سنت کے علماء سے کم نہیں تھا لیکن ایسی حساسیت کے باوجود پھر بھی عدالت کے مفہوم کو فراموشی کے حوالہ کیوں نہیں کر دیا اور ان کے افکار اور اعتقادات میں یہ اصل امنیت کے تحت الشعاع کیوں نہیں قرار پائی۔ ہاں! یہ سب کچھ ائمہ علیہم السلام کی سیرت اور ان نصوص کے سبب تھا۔ جوان کے نزدیک قبل قبول تھیں۔ یعنی اس موضوع کے لئے

ان کے پاس ایک خاص دلیل تھی کہ اگر ان کے پاس بھی یہ دلیل نہ ہوتی تو وہ بھی اہل سنت کے بزرگوں کی طرح گذشتہ حالات سے متاثر ہو کر حفظ امنیت کے مصالح اور معاشرہ میں سکون و آرام کی خاطر دیساہی سوچتے جیسا کہ اہل سنت کے بزرگ علماء سوچا کرتے تھے۔ آخر کار تیراعمل، جو تاریخی حقائق اور اس کی ضرورتوں سے وجود میں آیا ہے۔ زمانہ کے کچھ حصوں کے علاوہ اسلام کی پوری تاریخ میں عملی طور سے قدرت اکثر اہل سنت کے ہاتھوں میں رہی ہے، سماج اور اس کی سرحدوں کی حفاظت اور امنیت انھیں لوگوں کے ذمہ رہی ہے۔ اس دور میں شیعہ سماج ایک مختصر سماج تھا اور یہ اقلیت میں تھے، بہت کم ایسا ہوا کہ ایسی ذمہ داریوں کو شیعوں نے سن بھالا ہو۔ البتہ یہاں پر شیعوں سے مراد اشنا عشری ہیں۔ اس نکتہ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مسئلہ فطری تھا کہ الہلسنت کی سیاسی فکر اہل تشیع کے سیاسی نظریہ سے کہیں زیادہ وسیع اور عمیق ہے خارجی و داخلی امنیت کو برقرار رکھنے اور سماج اور معاشرہ میں امن و امان قائم کرنے، اس کے مقدرات اور لوازمات کے سلسلہ میں زیادہ متاثر ہوں۔ جب ان کی فقہ اور کلام پھلا پھولا اور اسے بالیدگی حاصل ہو گئی اور اس میں وسعت پیدا ہوئی کہ وہ لوگ صدیوں کی ملک داری کے تجربہ کے حامل اور خارجی سرحدوں کے محافظ اور وارث تھے اور انھیں اس کی سرحدوں میں امنیت قائم کرنے میں کافی مہارت حاصل ہو چکی تھی۔ لیکن شیعوں کی فقہ اور کلام نے اپنی وسعت کے دور میں ایسا کوئی تجربہ نہیں کیا تھا۔ بلکہ وہ تو اکثر عملی حقائق کے بدلہ نظری اصول اور معیار پر تکمیل کرتے تھے۔

خاص طور سے یہ کہ اسلام اپنی پوری تاریخ میں، ہمیشہ داخلی اور خارجی کینہ توز اور سر سخت

مخالفین سے برس پکار رہا ہے۔ وہ بھی ایسی مذہبی طور پر دارالاسلام کی جغرافیائی موقعیت کچھ ایسی تھی کہ وہ اپنی وسعت و ظہور کے ابتدائی ایام سے ہی دشمنوں کی جانب سے غیر محفوظ اور لگاتار بے امان حملوں کا شکار رہا ہے۔ ان سب میں ایک زیادہ اہم خطرہ مشرق کی جانب سے تھا کہ وہاں پر زرد پوسٹ قویں جو ایشانے و سلطی میں ابتداء ہی سے اسلام کے مشرقی حصے کے لئے خطرہ بنی ہوئی تھیں ایسی دھمکی جو مغلوں کے حملوں کے متوں بعد تک باقی رہی۔ دوسرا خطرہ مغرب کی جانب سے تھا جس میں عیسائی اور صلیبی لوگ پیش قدم تھے جن کا موجودہ صدی کی ابتداتک فوجی عنوان سے خطرہ لاحق رہا اور ابھی بھی اپنے دوسرے بھیس میں باقی ہے۔ (۵۴)

### دارالاسلام کی وسعت

اس کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ دارالاسلام کی حکومت میں وسعت جو مختلف اقوام، ملتوں، ادیان و مذاہب نسل و خاندان اور تہذیبوں کو اپنے اندر سمونے ہوئے تھی، یہ بذات خود ایک دوسری پریشانی تھی۔ کوئی بھی دین (اسلام کی طرح) اپنے اندر اس سے زیادہ رنگارنگی نہیں پائی جاتی ہے البتہ ایسی ہماہنگی بچھتی اتحاد و اتفاق کو بھی برقرار نہیں کر سکا ہے۔ لیکن یہاں پر جو بات اہم ہے وہ اس اختلاف اور رنگارنگی رویہ عمل سے خالی نہیں تھی۔ یہ بھی خود اسلام کے مختلف درک و فہم کے لئے مناسب موقع ہے۔ نتیجہ کے طور پر بے پناہ فرقہ واریت اور دینی ثقافتی تناؤ اور سیاسی و معاشرتی بے چینی کو جنم دیگا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دین اپنیا بندا سے ہی، ایک

طرف اپنے بیرونی حملہ آوروں سے رو برو تھا اور دوسری طرف سے درونی سرکشوں سے مقابلہ تھا اور اسلامی حکومت کی وسعت اور اس کا آزادی نے اس کو آسان بنادیا تھا کہ جو بھی چاہے اس کا گرویدہ ہو جائے نیز اس میں عظیم قابلیت پائی جاتی تھی جس میں نتیجیہ مختلف تفسیریں اور تو جیہات وغیرہ کا تلاشنا ایک فطری امر تھا۔ ان دونوں میں سے ہر ایک بڑی ہی آسانی سے درونی مختلف الفکر لوگ جو مقابلہ آ رائی حتیٰ قتل و غارت اور ایک دوسرے کے قتل عام پر کمر بستہ ہو جاتے جس سے وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور بے چینی اور نامنی ایجاد کریں اور یا کم سے کم اس کو ہوادیں۔

اس مقام پر مناسب ہے کہ ہم ابن ابی الحدید کے کچھ نظریات کا تذکرہ کریں، عراقیوں کی فرقہ واریت کے اسباب کو ابو ہرزہ کی زبانی نقل کیا ہے جو خود مسلمانوں کی پوری تاریخ میں ان کی فرقہ واریت کا خود ایک نمونہ ہے اور اس کی پیدائش کے علل اسباب کو نقل کریں: سرز میں عراق تمام اسلامی فرقوں کا مرکز رہی ہے اس لئے کہ یہ سرز میں پرانی تہذیب و تمدن کا سلسلہ تھی، اس لئے کہ جہاں ایرانیوں اور کلدانیوں کے علوم پائے جاتے تھے۔ وہیں ان ملتوں کے باقی ماندہ ثقا فتوں اور تمدنوں جس میں یونانی فلسفہ اور ہندویوں کے افکار کا خمیر تھا پایا جاتا تھا اور یہ افکار اسلامی طرزِ تفکر میں مخلوط ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے یہ مختلف اسلامی فرقوں کے وجود میں آنے اور ان کے پھلنے پھولنے اور پروان کی سرز میں تھی۔ ابن ابی الحدید کہ عراق میں مختلف فرقوں کے اسباب کہ وہ کیسے وجود میں آئے اس کی وضاحت کرتے ہیں: میرے لئے عراقیوں اور آنحضرت کے دوران کے عربوں میں جو فرق ظاہر ہوا وہ یہ ہے کہ یہ سب

عراق اور اس میں کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ عراق کی طبیعت اور ان کی طینت کچھ اس طرح ہے کہ وہ ہمیشہ عجیب و غریب مذاہب پر عقیدہ رکھنے والوں اور نئے نئے ادیان کے ماننے والوں کو پروان چڑھایا اور اور انہیں سماج کے حوالہ کیا ہے، اس زمین کے باشندے اہل بصیرت اور صاحبان غور و خوض اور مطالب میں وقت کرنے والے ہیں اور نظریات اور عقائد میں مذاہب پر اعتراض کرنے والے ہیں۔ مانی، دیسان، مزدک وغیرہ اسی سرز میں کے رہنے والے تھے جو ساسانی بادشاہوں کے دور حکومت میں میدان میں آئے۔ نہ تو چجاز والوں کی طینت و طبیعت ایسی ہے اور نہ ہی ان کے ذہن و فکر ایسے ہیں۔ (۵۵)

ابن ابی الحدید کا نظریہ نہ صرف عراق کے بارے میں بلکہ بہت سے دوسرے علاقوں کے سلسلہ میں بھی صحیح تھا۔ وہی دلائل جن کی وجہ سے عراق میں مختلف فرقے وجود میں آئے یا کم سے کم اس کے پھلنے پھولنے اور پروان چڑھانے میں مددگار ثابت ہوئے یعنی وہی دلائل دوسرے اسلامی ممالک میں بھی موجود تھے۔ اسلام کی تقدیر کچھ اس طرح لکھ دی گئی تھی کہ اسلام دوسرے مقامات پر پھیلے پرورش پائے جو دیرینہ تہذیب و ثقافت کا گھوارہ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ اس سے امنیت اور قدرت کے سوا کوئی اور خواب نہ دیکھئے، اسلام اپنی پوری تاریخ میں ہمیشہ ایسی مشکلات سے دوچار رہا ہے، اس سے خارجی خاطروں سے چشم پوشی کرتے ہوئے کہ جس کا ایک نمونہ شرق اسلام میں مفوکلوں کے حملے ہیں کہ جس کی وجہ سے حد درجہ تباہی و بر بادی ظہور میں آئی اسی طرح اپنی تاریخ میں غرب کی جانب سے کینہ توزی اور دائیٰ دشمنی اور عیسائیت کے ساتھ مجاز آرائی رہی ہے اور اگر کسی دور

میں یہ جنگیں بظاہر خاموش نظر آئیں تو صرف تجدید قوت کی غاطر تھیں نہ یہ کہ یہ لڑائی ہمیشہ کے لئے تمام ہو گئی ہے۔ عیسائیت اور کلیسا کی تشکیل قرون وسطی میں اسلام کو ایک غاصب دشمن کی حیثیت سے سمجھتی تھی وہ بھی ایسا غاصب کہ جس نے اس کی بعض سرزینیوں پر قبضہ کر لیا ہوا اور اس کی اصالت و حقانیت کے خلاف قیام کیا ہو۔ اگرچہ اسلام اپنی تعلیمات کی بنیاد پر انھیں اہل کتاب فرض کرتا ہے لیکن عیسائیت دور حاضر سے پہلے مسلمانوں کو ایک کافر سمجھتے تھے اور اسکی نابودی کے علاوہ کچھ اور سوچ نہیں سکتے تھے۔ (۵۶) لیکن اس دور میں اسلام کو ایک دین کے عنوان سے قبول کرنے کے بجائے اس کے نابود کرنے کے درپے تھے۔

### عیسائی طاقتوں کی دھمکی

مثلاً حارثی ساندرس کی زبانی عیسائیوں کا مسلمانوں کی نسبت عقیدہ کے سلسلہ میں لکھتا ہے: بہت کم سچے عیسائی ملیں گے جو عصر اعتقاد میں کسی سے گفتگو کے دوران آنحضر صلی اللہ علیہ وآلہ ت کے مقابلہ میں پر سکون رہ جائیں کہ اس کی نظر میں آنحضر صلی اللہ علیہ وآلہ ت کا مذہب ایک کفر آمیز مذہب تھا اور اس کے چاہنے والوں نے۔ مثلاً قرن اول سے قرن ہفتہ تک سوریہ کو حکومت بیزانس سے جدا کر لیا تھا۔ عیسائیت کا نام و نشان خود اس کے مرکز پیدائش سے مٹا دیا تھا۔ (۵۷) اور پھر وہ خود اس طرح اقرار کرتا ہے: اس طرح سے عالم عیسائیت یعنی یورپ اسلام سیکھتا تھا اور یہی سبب تھا جس کی وجہ سے اسلام اور اس کے ماننے والوں کا سر سخت دشمن رہا اور برا بھلا کہتا رہا یہاں تک کہ پائک (Pike) آنحضر صلی اللہ علیہ وآلہ ت

کے سلسلہ میں جو اس نے کتاب لکھی ہے اس میں اقرار کرتا ہے: کہ محمد ایک عظیم الشان انسان ہیں جو دوسرے معروف انسانوں کے مقابلہ میں ہر ایک سے زیادہ تہمت و افتراء کا نشانہ بنے۔ (۵۸)

جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ تاریخ کے کسی بھی دور میں عیسائیوں کی دشمنی اسلام کی بہ نسبت ختم نہیں ہوئی۔ بلکہ وہ ہمیشہ اسلام کے طاقتوں، اعتقادی، دائی اور منظم دشمن رہے ہیں۔ اسلامی سرزینیوں پر ان کے حملے شرقی حملہ آوروں کے بالکل برخلاف جو کہ اکثر بہ پرست تھے اس طرح سے کہ خود جوش طور پر اور زرخیز زمینیوں، چراگاہوں اور قتل و غارتگری اور آباد علاقوں اور آبادی پر اس عنوان سے حملہ کرتے تھے اور چونکہ ان کا کوئی مذہب نہ ہوتا تھا لہذا مرور زمان کے ساتھ مسلمان ہو کر اسلامی معاشرہ میں گھل مل جاتے تھے۔ (عیسائیت کامشن) ایک ایسا سوچا سمجھا، معین، خاص ہدف اور مخصوص طرز فکر کی بنیاد پر تھا، وہ صرف اسلام کو ناپسند ہی نہیں کرتے تھے بلکہ مسلمانوں کو عیسائی کرنے کی فکر میں رہتے تھے۔ شرقی حملہ آوروں کا ہدف قتل و غارتگری اور کمکن نابودی تھا لیکن غربی حملہ آور اس کے علاوہ اسلام کی نابودی اور دارالاسلام کو تباہ و بر باد کرنے پر کمر بستہ تھے۔

مرکز کی تھوڑک (یعنی روم اور یورپی حکومتیں غرب ناطق کی حکومت کا ختم ہو جانا، Ferdinand, Isabella) کی تحدی فوج کے مقابلہ میں غرب ناطق کے نصیریوں کے خاندان سلسلہ کا آخری حاکم ابو عبد اللہ کا شکست کھا جانا صرف ایک شکست نہیں تھی، بلکہ ایک ناقابل فرماویں کا میابی تھی جو عیسائیت کو عالم اسلام کے مقابلہ میں حاصل ہوئی تھی اور ساندرس کے قول کے مطابق

غرناطہ کا حادثہ ایک ناتمام انتقام اور عالم عیسائیت کا اسلام سے ایک معمولی اور ہاکا سا بدله تھا جوان سے لیا تھا۔ یورپ جو ہمیشہ اسلام کی مادی و معنوی ترقیوں کی وجہ سے سخت پریشان تھا۔ اور یہ اس کی پریشانی مسلمانوں کے ہاتھوں قسطنطینیہ فتح ہو جانے کے بعد کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تھی غرناطہ حکومت کا ساقط ہو جانا اس جہت سے ان کے لئے اور بھی عظیم تھا مسلمانوں کی شکست کا جشن منایا گیا جبکہ بار تولد کے نوشته کے مطابق غرناط کا ساقط ہو جانا اسلام میں ایک دھماکے کا کام کر گیا اور مسلمانوں کو سیاہ پوش بنادیا، یک تھوک کلیساوں کے سربراہوں نے اس مناسبت سے خود رم اور واتیرکان میں جشن و سرور کی محفلیں برپا کیں۔

ایک فرانسوی مؤرخ اپنی کتاب بنا م جم سلطان میں لکھتا ہے: جب غرناط حکومت کے گرجانے کی خبر منتشر ہوئی واٹیکان اور شہر روم کے مختلف مقامات چراغاں ہوا، جشن، نمائش، گھوڑ سواری اور گائے بازی کے مسابقات پے در پے برپا ہوتے رہے۔ انھیں نمائشوں میں سے ایک نمائش میں دلوگ بنام ((Isabella, Ferdinand)) فرزینانڈ ایسابل کا حالیہ بن کر ظاہر ہوئے اور ان کے سامنے ایک دوسرا شخص ابو عبد اللہ کے بھیس میں زنجیر و بیڑی میں جکڑا ان دونوں کے قدموں پر گرا ہوا تھا۔ تماشائی اسپانیائی شہزادی اور شہزادے نے اپنے اتحاد کے ذریعہ مسلمانوں کو سینکڑوں سال بعد شکست دیدی غرناط کی حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا، تو وہ لوگ شاہ اور اس کی بیگم کے رو برو خوشی میں شاد و خرم ہو ہو کر خوش حالی سے نعرے لگاتے تھے۔

اس جشن کے چشم دید گواہ میں بایزید دوم، سلطان عثمانی کا بھائی جم تھا کہ جسے پاپ نے سلطان

عثمان کو خوش رفتار رہنے کے لئے اسے اپنے پاس قید کر رکھا تھا۔ اسی فرانسوی مورخ کے بقول، ابو عبد اللہ کا پاپ زنجیر ہونا اور اس ((Isabella,Ferdinand)) کے قدموں میں گرنا ہر نمائش سے زیادہ اس شاہزادہ کے لئے سخت تھا۔ ایسی نمائشوں کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیتوں کے سربراہ ایسی نمائشوں کے برپا کرنے کے ذریعہ مسلمانوں کی ذلت کو دکھانا چاہتے تھے اور وہ بھی جم سلطان کے سامنے یا اس کے دائرہ اطلاع میں برپا کرنا جو اپنے دور کی سب بڑی اسلامی حکومت کے تخت و تاج کا مالک ہونے والا تھا۔ وہ اپنے اس عمل کے ذریعہ عالم عیسائیت کو سمجھانا چاہتے تھے کہ

- ۱- اب جہان اسلام زمان سابق کے برخلاف غرب کے مقابلہ میں ناتوان اور عیسائیت اسلام کے مقابلہ میں کامیاب ہے۔
- ۲- مسلمانوں اور مخصوصاً عثمانی بادشاہوں کی اندر ورنی کیفیت کا شیرازہ بکھیر دیا جن میں حکمرانی اور جہان بانی کا شوق پایا جا رہا تھا۔ (۵۹)

## قدرت اور امنیت

ایسے حالات میں یہ فطری طور پر افکار و محسوسات قدرت و امنیت کے خالق اور حافظ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور عدالت سے کوئی سروکار نہ ہو کہ اس کی رعایت کی جا رہی ہے یا نہیں، ان حالات میں جو بات قبل اہمیت تھی وہ صاحب قدرت اور شان و شوکت کا حامل ہونا تھا اس لئے کہ یہی عوامل دشمن کو ڈرا سکتے تھے اور اسلام کی سرحدوں کی محافظت کر سکتے تھے اسی وجہ

سے ہر ایک حاکم کو قدرت مند بنانے اور اسے صاحب قوت بنانے کی فکر میں مشغول ہوتا تھا۔ یہ ہر ایک کا وظیفہ ہے اور وہ بھی ایک دینی اور اسلامی وظیفہ۔ اس لئے ان کے نزدیک اسلام سے دفاع اس طرح حاکم سے دفاع کے مترادف تھا، کہ حاکم سے دفاع کرنے بغیر اسلام سے دفاع ممکن نہیں تھا ان لوگوں کی نظر میں شخص حاکم اہم نہیں تھا اور وہ کیا کرتا ہے اور کس حد تک احکام اسلامی نیز عدالت کا پابند ہے، یہ سب ان کے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا بس ان کے لئے یہ اہم تھا کہ وہ اسلام کا نمونہ ہے اور ہر ایک کو اسی کی خدمت میں ہونا چاہئے، اس کے احکامات اور فرماں میں کی اطاعت کرتے ہوئے اسے قوی بنانے میں تمام تر کوشش صرف کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ اس لئے کہ یہ ظاہری شان و شوکت ہے جو داخلی دشمنوں کو خاموش رہنے پر مجبور کر دیتی ہے اور بیگانوں کو ڈراتی اور امن و امان قائم کرتی ہے۔ (۶۰)

اسی نکتہ کو ابن حنبل اس مقام پر بڑے اچھے انداز سے توضیح دیتے ہیں کہ جہاں حاکم کی اطاعت کو واجب شرعی قرار دیتے ہیں، حاکم اور امیر المؤمنین کی اطاعت واجب ہے خواہ وہ صالح ہو یا فاجر ہو اور اس شخص کی اطاعت جسے لوگوں نے خلیفہ کے عنوان سے قبول کر لیا ہے یا وہ شخص جو شمشیر یا قهر و غلبہ کے ذریعہ ان پر مسلط اور ان کا خلیفہ بن گیا یا امیر المؤمنین کے لقب سے ملقب ہوا ہے جہاں امیروں کی ہمراہی میں لازم ہے خواہ وہ اچھے ہوں یا بُرے، روز قیامت تک مقبول ہے، ان کی طرف سے غنائم کی تقسیم، خراج اور حدود کو قائم کرنا قبول ہے، کسی کو کوئی حق نہیں ہے جو اسے طعنہ دے یا ان کے مقابلہ میں کھڑا ہو۔ انھیں صدقات دینا جائز اور کافی ہے، خواہ وہ اچھے ہوں یا بُرے، ان کی امامت میں نماز پڑھنا اور وہ شخص کہ جس

کی امامت میں نماز صحیح ہے، ان کی امامت میں نماز پڑھنا صحیح ہیا اور جوان نمازوں کا اعادہ کرے بدعت گزاری، آثار سلف کو اہمیت نہ دینا اور سنت کی مخالفت ہیا اور جو امیروں کی امامت میں نماز جمعہ پڑھنے کو صحیح نہ سمجھتا ہو وہ صالح ہوں یا فاجر، گویا اس نے نماز کی فضیلت کو درک نہیں کیا ہے، بلکہ سنت تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ دور رکعت نماز بجالائی جائیا اور اس کے کامل ہونے کا اعتقاد بھی رکھا جائے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کرنا چاہیا اور اگر کوئی مسلمانوں کے امام پر خروج کرے جبکہ لوگوں نے اس کے گرد حلقہ بنالیا ہو اور اس سے خواہ اپنی رضا و رغبت سے یا قہر و غلبہ کی وجہ سے راضی ہو گئے ہوں، تو اس نے مسلمانوں اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کی مخالفت کی ہے اور اگر وہ مر جائے تو جاہلیت کی موت مرے گا۔

(۶۱)

مسلمان صدر اسلام میں ایسے حالات میں جی رہے تھے اور یہ کلام صدر اسلام میں کہ جس میں اہل سنت کے کلامی و فقہی عقائد کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، صحیح تھا۔ یہ اصول و قوائد ایسے ہی شرائط اور ضرورتوں کے تحت بنائے گئے۔ البتہ آنے والی دہائیوں نے اسے ثابت بھی کر دیا کہ حجاج بن یوسف نے اپنے کلام میں اس دور کے لوگوں کی ذہنیت اور ان کی حساسیت کو بخوبی بیان کیا ہے جس کی بعد میں امیروں نے اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے تائید کی ہے۔ وہ کہتا ہے:

ضعف السلطان اضرمن جورہ لان ضعفہ یتم وجورہ اخص

یعنی سلطان کے ضعیف ہونے کا ضرر اس کے ستم سے کہیں زیادہ ہے اس لئے کہ اس کا ستم

خاص لوگوں کو اور ضعف ہر ایک کو شامل ہوتا ہے۔ (۶۲)

اس دور میں اس بات کا امکان تھا کہ اس میں سے صرف کسی ایک کا انتخاب کیا جائے، یا فسادات، ہرج و مر جا و خارجی دھمکیوں پر راضی ہو جائیں یا پھر حاکم کے ظلم و استبداد اور جور کے سامنے تسلیم ہو جائیں اس کے اسلام کی سیدھی راہ اور عدالت سے محرف ہو جانے کو تحمل کریں، ایسے حالات میں عموماً دوسری صورت کا انتخاب کیا جاتا ہے۔

### غزالی کا نظریہ

غزالی اس مقام پر اپنے نظریہ کو بیان کرتے ہیں کہ جہاں امامت کے عقلی نہیں بلکہ شرعی وجوب کے اثبات کی کوشش کرتے ہوئے ایسے مطالب کو ذکر کرتے ہیں کہ جو گذشتہ بیان کی گئی مشکلات اور اس کی وجہ سے ہونے والے اعتراضات پر ایک روشنی بھی ہے....

لیکن دوسرا مقدمہ اور وہ یہ ہے کہ قوی او بہادر سلطان کے ذریعہ دنیاوی امور، جان و مال کی امنیت برقرار رکھی جاسکتی ہے، اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ جب کوئی سلطان یا خلیفہ مر جاتا ہے تو اگر اس کے مرتے ہی کوئی قابل اطاعت خلیفہ یا اس کا جانشین نہیں آتا تو فساد شروع ہو جاتا ہے اور ہر طرف قتل و غارتگری پھیل جاتی ہے، قحط و بھوک مری شروع ہو جاتی ہے اور چوپا یہے مرنے لگتے ہیں اور صنعتیں بند ہو جاتیں ہیں، اشرار قتل و غارتگری میں مشغول ہو جاتے ہیں اور کسی کو موقع بھی نہیں مل پاتا ہے مگر یہ کہ کوئی اپنی جان بچا کر فرار کر جائے، عبادت یا تحصیل علم میں مشغول ہو جائے، ایسے فسادات میں اکثر مارے جاتے ہیں۔ اسی

وجہ سے کہا گیا ہے۔ دین و سلطان جوڑ وال ہیں۔ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی وہ بہت جلد نابود ہو جاتی ہیا ور جس کا کوئی نگہبان نہیں ہوتا نتیجتہ ضالع ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ یہ کہ ہر عاقل انسان کو یہ معلوم ہے کہ عوام کو ان کے مختلف طبقات، افکار اور روحانیات کے ساتھ انھیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور کوئی ایسا فرد ان کا نگہبان نہ ہو جو انھیں جمع کر سکے تو وہ نابود ہو جائیں گے، اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے مگر یہ کہ ایک قدر تمدن سلطان کہ جو ہر ایک پر مسلط ہو۔ پس اب یہ بات روشن ہو گئی کہ کسی نظام کو باقی رکھنے کے لئے ایک سلطان کی ضرورت ہے۔ دین کے نظام کو محفوظ رکھنے کے لئے دنیوی نظام کی حفاظت کی ضرورت ہے اور اخروی فلاح و بہبود کے لئے دین کے نظام کی ضرورت ہے اور یہی وہ نکتہ ہے کہ جوانبیاء (ع) کا ہدف رہا ہے، پس معلوم ہوا کہ امام کا ہونا شرعی ضرورت ہے کہ جس سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے، لہذا اس نکتہ کو خوب یاد رکھو۔ (۶۳) لیکن قاضی عبدالرحمن بن احمد ابی، معروف متكلم اسی نظریہ کو بیان کرتے ہیں، وہ وجوب نصب امام کے لئے ضرر محتمل کو فرار دیتے ہیں اور اس نکتہ کی تصریح میں فرماتے ہیں:

اب ہم اپنے علم کی بنیاد پر کم و بیش یہ جانتے ہیں کہ شارع کا مختلف قوانین کے وضع کرنے کا مقصد، وہ خواہ معاملات یا مذاہکات سے متعلق ہو یا جہاد، حدود، وقصاص یا روز جمود و اعیاد دینی شعائر کی تعظیم، ہوان کے تحت کچھ مصلحتیں ہیں جو دنیا یا آخرت میں اس کے بندوں کے نفع میں ہیں اور رہیں گیا اور یہ مصالح اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتے کہ جب تک کے شرع کی جانب سے کوئی امام معین نہیں کیا جاتا تاکہ جو اس سے مربوط ہے اس کی طرف رجوع کیا

جائے، اس لئے کہ عوام اپنی مختلف خصلتوں، آرزوں، نظریات، جھگڑے کے ہوتے ہوئے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی دوسرے کے سامنے تسلیم ہو جائے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں جنگیں اور فسادات شروع ہو جاتے ہیں بسا اوقات سب کی ہلاکت ہو جاتی ہے یا اس تجربہ کا نتیجہ ہے، جو ایک سلطان کے مرنے سے اس کے جانشین کے نصب ہونے تک جو فسادات ہوتے ہیں اس سے سمجھ میں آتا ہے اس لئے کہ اگر دوسرے خلیفہ یا سلطان کے انتخاب میں تاخیر ہو جائے تو روز مرہ کی زندگی معطل اور بے کار ہو جاتی ہے اور اس میں ہرج و مرج واقع ہو جاتا ہے اور اس مدت میں ہر ایک اپنی جان و مال اور ناموس کی حفاظت کے لئے دست بے شمشیر ہو جاتا ہے جو دین اور تمام مسلمین کی نابودی کا باعث ہے۔ (۶۴)

ہم نے مذکورہ بالاقول کو اس کی اہمیت کے پیش نظر کامل طور پر ذکر کر دیا ہے لیکن ان نکات کے ہوتے ہوئے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ دوسرے انتخاب یعنی حاکم کے ظلم و استبداد کے سامنے سر جھکا دینا اور اس کا راہ مقتضیم اور اسلامی عدالت سے منحرف ہونا کہ جو خود ہی ایک قسم کی ضرورت کا نتیجہ تھا، ان کے درمیان استبداد پسندی کے تفکر کو جنم دینے کا باعث تھا اور اسی کی مناسبت سے تمام امور و جوانب میں افکار و مبانی کو اپنے مطابق شکل دی۔ یہ ایک وقت ضرورت کے عنوان سے باقی اور جاویداثر چھوڑتی ہے کہ جواب تک باقی ہے اور جوان نسلوں کو دانشوروں کی طرف سے بے شمار اشکالات پر آمادہ کیا ہے۔ (۶۵)

## حفظ نظام

یہ عوامل کا مجموعہ حفظ نظام اور اس کی فکری ضرورت کے پیش نظر ہے، صرف مسئلہ یہ تھا کہ نظام محفوظ رہے اور یہ ضرورت تمام ضرورتوں پر اولویت رکھتی تھی اور دوسرے عوامل یا تو اسے قوی بنانے یا وہ فرعی اور امر ثانوی کی حیثیت رکھتے تھے۔ ایسا طرز فکر طبعی طور پر ہر قسم کے نظم اعتراض خواہ وہ عدالت کی برقراری یا سنت پیغمبر پر عملی بازگشت کے عنوان سے ہوں، اسے وہیں دبادے گا، اس نظر کے دائرے میں مسئلہ نہیں ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے بلکہ اصل یہ ہے کہ عموم افراد اس نظام کو قوی، مستحکما اور اس کی حفاظت میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اور جو بھی اس سے جدا ہے وہ مسلمانوں کی صفائی سے خارج ہے یہاں تک کہ دین سے خارج ہو جانے کا نتیجہ ہو جایا کرتا تھا۔ ان شرائط کے تحت حداقل اعتراف اگر ہو سکتا ہے تو وہ قبلی اور شخصی ہو سکتا ہے یعنی انسان حاکم کی بدعتوں کو دل سے قبول نہ کرے لیکن چونکہ اس کے سامنے اعتراف کرنا مسلمانوں کی صفائی سے خارج ہو جانے کا باعث ہے لہذا اس کا اظہار نہیں کیا جاسکتا، بلکہ اس کی ذمہ داری صرف قول فعل کے بدله دل سے انکار کرنا ہے۔ آنے والی داستان اس نکتہ کی خوب وضاحت کرتی ہے۔

ایک روز بغداد کے فقہاء جمع ہو کر ابن حنبل کے پاس آئے اور کہنے لگے: اس شخص سے مراد عباسی خلیفہ والیق ہے جو مامون اور معتصم کی طرح خلق قرآن کی تبلیغ کرتا تھا، اس نے لوگوں کے عقائد کو فاسد کر دیا ہے اور اپنے اس عمل سے بازنہیں آتا کچھ کرنا ہو گا؛ فقہاء کا ارادہ یہ تھا

کہ وہاں ابن حنبل سے اس کے مقابلہ میں ایستادگی (مقابلہ) کا فتوح حاصل کریں لیکن اس نے جواب میں کہا کہ تمہاری ذمہ داری صرف قلبی انکار ہے، آپ لوگ اپنے دل میں اس عقیدہ کا انکار کریں لیکن اس کے مقابلہ میں کھڑے ہونے یا اس کی مخالفت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ (۶۶)

ابن حنبل نے جو کچھ کہا وہ عافیت طلبی یا کسی ڈر کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ وہ سختیوں کے دور کے قہر مان تھے جسے بعد میں ایام الحجۃ کا نام دیا گیا وہ خلق قرآن کے نظریہ کے اصلی ترین مخالفین میں سے تھے اور اس راہ میں اس حد تک اصرار کیا کہ ان کی بے حرمتی کی گئی اور انھیں بے حد مارا گیا، معمق حکم کے دور میں انھیں اس قدر تازیانے مارے گئے کہ نزدیک تھا کہ ان کی جان نکل جائے، ان کا جواب دینا عافیت طلبی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ وہ واقعایتی ہی فکر رکھتے تھے اور اسی کی وصیت بھی کیا کرتے تھے۔ (۶۷)

لیکن وہ کیوں ایسی فکر کے حامل تھے یہ امر ان کے فقہی و کلامی مبانی سے مر بوط ہے کہ جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا، ان کا عقیدہ تھا کہ قہر و غلبة اور تلوار کے زور پر امامت و خلافت ثابت تو ہو جاتی ہے اور جب وہ قائم ہو جائے تو کسی کو کوئی حق نہیں بتتا کہ وہ اس کے سامنے قیام کرے اور جو قیام بھی ہوگا وہ نامشروع ہوگا۔ پس جب نظام اور حفظ نظام اصلاحت کی شکل اختیار کر لیں تو اس صورت میں یہ امر کوئی اہمیت نہیں رکھتا کہ کون اس کے مالک ہیں، یا اس میں حاکم کے شرائط ہیں یا نہیں، یہ مسئلہ بے اہمیت ہو جائے گا۔ اصل نظام کا قدر تمند ہونا ہے نہ کہ وہ شرع و عدالت کے موافق ہے یا نہیں، یہ مسئلہ و جوب اطاعت و مشروعيت کا باعث بتا

ہے نہ کہ اس کی خصوصیات اطاعت و مشروعیت کا باعث ہے اور چونکہ ایسے شرائط حاکم میں پائے جاتے ہیں لہذا اس خلیفہ کی اطاعت واجب ہے جو خلق قرآن کا معتقد اور اس کی تبلیغ و ترویج کرتا ہے۔ اس لئے کہ لوگوں کا اعتقاد تھا کہ حاکم کی مخالفت کے نتیجہ میں ہونے والے نقصانات قولی و فعلی امر بہ معروف اور نہیں از منکر کے نتیجہ میں حاصل ہونے والے فائدے سے کہیں زیادہ ہیں لہذا اس سے پرہیز کیا جائے۔ اگرچہ یہ ایک حق بات ہے، لیکن اگر اس کے حدود عین نہ ہوں اور ہر صورت میں اسے درست مان لیا جائے تو اس صورت میں استبداد اور دین و عدالت سے انحراف کے لئے ایک بہترین موقع فراہم ہو جائے گا جیسا کہ ایسا ہی ہوا بھی ہے۔ (۶۸)

بالکل اسی بنیاد پر تھا کہ جس کی وجہ سے ابن حنبل نے کہا کہ واثق کے خلاف زبان اعتراض نہ کھولنا اور کوئی اقدام بھی نہ کرنا اور اسی نکتہ کی وجہ سے تھا کہ معتصم، شدت پسند، جاہل اور قدرتمند خلیفہ کو امیر المؤمنین کے علاوہ کسی دوسرے نام سے نہ نوازیں، جب کہ اسی کے ہاتھوں شدید تریں شکنے برداشت کئے۔ (۶۹)

یہی وہ عوامل تھے کہ جس نے اہل سنت کے بزرگ علماء کے ذہنوں میں مسئلہ امنیت اور اسکے نظامی تحفظ کی فکر ڈال دی بالخصوص تیسرا عوامل نہایت مؤثر اور فیصلہ کن تھا، نیز یہ اہل سنت اور اہل تشیع میں ایک اساسی فرق تھا اور وہ عامل کہ جس کی وجہ سے شیعوں کو طول تاریخ میں مذمت یا انھیں سرزنش کی جاتی رہی، یہی تیسرا (آخری) عامل تھا۔ انہوں نے ہمیشہ کہا اور کہتے ہیں کہ شیعہ اپنے اقدامات کے ذریعہ مسلمانوں کی صفوں سے خارج اور اختلاف کے پیدا

ہونے کا باعث ہیں، بلکہ بعض تو اسی علت کی وجہ سے امام حسین پر اعتراض کرتے ہیں، کہ کیوں انھوں نے مسلمانوں کے اجماع کے خلاف قدم اٹھایا اور ان (کی صفوں) میں تفرقہ ڈالا۔ (۷۰)

یہاں پر مسئلہ نہیں ہے کہ امام پر کی جانے والی تنقید صحیح ہے یا نہیں یعنی کیا امام نے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالا یا مسئلہ کچھ اور تھا، یہاں جو چیز ہر ایک سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ تنقید ان کے افکار اور اعتقاد کا نتیجہ ہے، ایسے خیالات کا مالک ہونا لیکی ہی تنقیدوں کا باعث ہوتا ہے اور ایسا ہوا بھی۔ وہ لوگ جو امام پر اعتراض کرتے ہیں وہ ایسے خیالات کے مالک ہیں اور وہ لوگ کہ جنھوں نے اپنی زبان میں بذرکھیں ان مخصوص روایات کی وجہ سے ہے کہ جو آپ کی شان میں ہیں بلکہ اہل سنت کے بزرگ علماء نے ان روایات کو نقل بھی کیا ہے۔ یعنی مسلمانوں میں تفرقہ ایجاد کرنے کی حرمت جوان کے افکار کا ایک طبعی نتیجہ تھا اور وہ روایات جو امام کی شان اور مرتبہ پر دلالت کرتی ہیں، ان دونوں کے درمیان تضاد کو دیکھتے ہوئے احادیث کو اختیار کیا ہے، ان لوگوں کا خاموش رہنا بلکہ بعض مواقع پر تجدید و تعریف کرنا اسی علت کی وجہ سے تھا ان اس وجہ سے تھا کہ واقعہ کربلا ان کے فقہی و کلامی موازین اور معیار سے موافق تھا۔ البتہ اس مقام پر اہل سنت کے ان علماء کے سلسلہ میں ہماری بحث ہے جو الگ تھلک اور حکومتوں سے وابستہ نہیں ہیں، ورنہ ان کے درمیان دین فروش اور ظلم و استبداد کے خوگر علماء بھی ہیں جو فاسد حکام کے اعمال و کردار کی توجیہ کے لئے لا ف و گزاف باتیں کرتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں اگرچہ ان کی بات امام حسین کی اہانت کا باعث ہی کیوں نہ بنے۔

## ابن قیم کاظمیہ

اس مقام پر بہتر ہے کہ اہل سنت کے فقہاء میں سے ایک عظیم فقیہ ابن قیم کے نظریہ کو ذکر کریں، وہ اپنی اہم اور واقعی کتاب اعلام الموقعنین میں ایک جدا فصل بنام زمان و مکان، احوال و نیات اور نتائج کے تغیر کے ساتھ فتویٰ کا مختلف اور متغیر ہو جانا ہے، وہ اس فصل میں کہتے ہیں: کہ کیا شریعت لوگوں کے دنیوی اور اخروی مصلحتوں کی وجہ سے بنی ہے؟ ایک مفصل بحث کرتے ہیں اور پھر نبی ازمکر کے درجات اور اس کے شرائط کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس نکتہ کے تحت اس طرح اپنے بیان کو جاری رکھتے ہیں: آنحضر صلی اللہ علیہ وآلہ ت نے نبی ازمکر کو واجب قرار دیا ہے تاکہ اس کے ذریعہ وہ احکامات اجراء ہوں جسے خدا اور اس کا رسول پسند کرتا ہے، پس اگر اسی نبی ازمکر کی وجہ سے کوئی عظیم منکر اور عصیان انجام پائے کہ جسے خدا اور اس کا رسول ناپسند کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے اس لئے کہ خدا ایسے منکر کو پسند نہیں کرتا اور اسے انجام دینے والے کو عذاب دے گا جیسے کہ قیام اور خروج کے ذریعہ سلطان یا کسی والی (گورز) کے لئے نبی ازمکر کرنا، کیونکہ یہ نبی ازمکر ابد تک کے لئے ہر فتنہ کی جڑ ہے، اصحاب نے آنحضر صلی اللہ علیہ وآلہ ت سے ان والیوں اور امیروں سے قتال کرنے کے سلسلہ میں سوال کرتے ہیں کہ جو نماز میں اس کے وقت سے تاخیر کرتے ہیں، تو کیا ہم ان سے قتال کریں؟ تو آنحضر صلی اللہ علیہ وآلہ ت نے جواب میں فرمایا: نہیں، جب تک کہ وہ نماز کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی امیر کو کسی ایسے کام میں مشغول دیکھے جو اس کے نزد یک مکروہ ہے تو

صبر کرے اور اس کی اطاعت سے منہنہ موڑے۔ اگر کوئی شخص اسلام پر وارد ہونے والی بڑی یا چھوٹی بلاوں کا تجزیہ کرے تو اسے بنوی معلوم ہو گا کہ یہ سب کچھ اس اصل پر عمل نہ کرنے اور منکر پر صبر نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ ان لوگوں نے ایک منکر کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن اس سے بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے، آنحضر صلی اللہ علیہ وآلہ ت نے مکہ میں بڑے بڑے منکرات اور ناپسندیدہ امور کا مشاہدہ کیا، لیکن آپ میں اتنی قدرت نہ تھی کہ اس کی روک تھام کرتے۔ لیکن جب خداوند عالم نے مکہ کو آپ کے لئے فتح کر دیا اور وہ دارالسلام بن گیا تو پھر آپ نے خانہ کعبہ میں تبدیلی لانے کے لئے کمرہت باندھی اور اسے ویسا ہی بنایا جیسا کہ جناب ابراہیم نے بنایا تھا، لیکن جس بات نے آپ کو اس مہم سے روکے رکھا تھا دروازے آپ قادر بھی تھے لیکن ایک بڑے فتنے میں گرفتار ہو جانے کا ڈر تھا، اس لئے کہ اس حرکت کو قریش برداشت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور کفر کو چھوڑے ہوئے انھیں زیادہ دن نہیں گزرے تھے، یہی علت تھی کہ جس کی وجہ سے آپ نے امیروں سے جنگ کا حکم نہیں دیا اور اس منکر کو روکنے کیلئے کوئی اقدام نہ کریں ورنہ اس سے بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ (۷۱)

## عدالت خواہی اور قدرت طلبی

اس مقام پر اہم یہ ہے کہ ان دونوں نظریات اور تفسیروں کے تنائج بالکل جدا اور متفاوت ہوں گے تاریخ تتبیع اور تسنین نیزان کی موجودہ صورت حال کے تجربوں نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ وہاں نظریات اور تفاسیر سے زیادہ انھیں دو مختلف اقسام کے نتیجے سے متاثر ہیں، ان میں سے ایک ہم ترین فرق یہ ہے کہ دوران معاصر میں انقلابی عناصر اہل سنت کی حکومت میں بالکل شیعہ حکومت کے خلاف انقلابی عناصر جو عدالت خواہ اور قدرت طلب ہے، اس سے بالکل متفاوت ہے۔ (۷۲)

دور حاضر میں حقیقی شیعوں کی سب سے بڑی مشکل بلکہ سب سے حساس ترین اور پریشان کن بات ان کی عدالت خواہی ہے۔ ان کے اسلامی اور سیاسی اعتقاد اور طرز فکر جوان کے لئے الہام بخش اور ان کی تحریک کا سرچشمہ ہے وہ ان کی عدالت خواہی انصاف پسندی ہے وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ عدالت کو پورے معاشرہ میں قائم کر سکیں، یا بالفاظ دیگر یہ کہنا مناسب ہے کہ انھوں نے قیام کیا ہے تاکہ ایسے اسلام کو برپا کریں جس کا اصلی پیغام عدالت اور اس کی برقراری اور استواری کو استحکام بخشیں جب کہ اہل سنت کے درمیان اٹھنے والی تحریکیں صرف اس لئے ہیں کہ وہ ایک قدر تمدن اور باعظمت اسلامی مرکز کی بنیاد ڈالیں، صدر اسلام میں قائم مسلمانوں کی قدرت و شوکت کو دوبارہ پہلے ہی کی طرح برقرار کرنا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ گذشتہ جیسی قدرت کے مالک رہیں اور ان کے لئے قدرت کے

نمونے صدر اسلام میں خلفاء ہیں، ان کی نظر میں اسلام دین کے پہلے مرحلہ ہی میں ایک قدرت ہے اور اس کی تاریخ قدرت اور اقتدار ہے۔ لیکن ان کے مقابلہ میں شیعہ بلکہ اس دور کے شیعہ پہلے دور میں اسلام کو دین عدالت قرار دیتے ہیں اور اس کی اصلی تاریخ عدالت اور انصاف ہے مثلاً ان کی نظر میں خلیفہ دوم کی مهم ترین خصوصیت قدرت و عظمت ہے اور ان لوگوں کی نظر میں امام علی کی مهم ترین خصوصیت آپ کی عدالت اور مساوات ہے۔ وہ لوگ صدر اسلام کے تابناک اور درخشنان دور میں خلفاء کی شکل میں ایسے قدر تمدن افراد کو دیکھتے ہیں جو اس دور میں ایک عظیم حکومت حاکم تھی درحقیقت اس دور میں سچے خلفاء کی شکل میں عدالت و انصاف اور مساوات کا مظہر دیکھتے ہیں جو ایک سادہ انسان کی طرح زندگی گزارتے تھے اور تنہادیں و عدالت کی خاطر سر جھکاتے تھے اور بس۔ (۷۳)

درست یہی علت موجب تھی کہ ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد جب قدرت اور حکومت کی باگ ڈور ذمہ دار انقلابیوں کے ہاتھ میں آگئی، تو اس کے داخلی تغیرات کا عدالت اور عدالت اجتماعی کے اجرائ کرنے کی بہ نسبت جائزہ لینا چاہئے۔ تمام نکات میں ہر ایک سے اہم نکتہ جو انقلاب کے بعد داخلی اُتار و چڑھاؤ کی شکل میں نظر آتا ہے وہ یہی نکتہ تھا۔ اور دوسرے مسائل اسکے بعد اہمیت رکھتے تھے لیکن اگر بالفرض ایسا کوئی انقلاب اہل تسنن کی سر زمینیوں پر واقع ہوتا تو یہ مسلم تھا کہ عدالت کی بہ نسبت لوگ اس قدر حساس نہ ہوتے بلکہ احتمال قوی تو یہ ہے کہ وہ اس انقلاب کو قدر تمدن بنانے کی فکر میں رہتے۔ البتہ یہ روشن اس انقلاب کے قدر تمدن ہونے اور مکمل طور پر اجتماعی نیز مختلف افکار کے حامل عناصر

کے جذب ہونے کا باعث ہوتی۔ (۷۴)

### انقلابی پوشیدہ توانائیوں کے مقامات

امنیت و عدالت کے متعلق ایسے تکرارات کا ایک دوسرا نتیجہ یہ بھی ہے کہ اہل سنت کی حکومت میں ہونے والے اکثر قیام دینی اور ثقافتی لحاظ سے با مقصد تھے اور بہت کم ایسا ہوا ہے کہ ان میں سیاسی تحریکیں دیکھنے میں آئی ہوں، جبکہ تشیع کی حکومت میں فاطمی خلفاء کے ہونے کے باوجود سیاسی تحریکیں کثرت سے دیکھنے میں آئی ہیں، شیعوں کے نزدیک حکام کے خلاف قیام کے لئے تاحد کافی دلائل تھے۔ لہذا شیعوں کے نزدیک ایسے قیام کے وجود میں آنے کا امکان ان اہل تسنن کی نسبت کہیں زیادہ تھا جن کے پاس نہ ایسے اصول تھے بلکہ ایسے قیام موجودہ نظام کے لئے محل تھے لہذا ان کے نزدیک نامشروع اور ناجائز شمار کئے گئے ہیں۔

اہل سنت کے درمیان دین و تہذیب کی خاطر ہونے والے قیام تھا ان کے نزدیک سیاسی و معاشرتی نظری اصول کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں تھا۔ معاشرتی و سیاسی میدان میں کہ جو جائز بھی ہوا اور ان میں انقلابی عوام کی تغیری طلب توانائیوں کو اپنے اندر جگہ بھی دے سکے اور انھیں کامل ہدایت کر سکے، فطری طور پر ایسی تبدیلیاں اور اصلاحات وغیرہ دین و تہذیب کے دائرے میں امکان پذیر ہیں اور شیعوں کے لئے ایسی کوئی مشکل نہیں تھی جو اہل تسنن کیلئے ہے، بلکہ اس بات کا امکان بھی ہے کہ یہ انقلابی توانائیاں اپنے مشروع دائرے میں جاری ہوں خواہ وہ معاشرتی ہوں یا سیاسی یا اسلامیوں کے ذریعہ ہی کیوں نہ ہوں، اس سلسلہ میں کوئی

مشکل نہ تھی لہذا انقلابی تو انسائیاں اپنا ایک فطری مقام حاصل کر چکیں، لیکن اہل سنت کے لئے ایسا کوئی امکان نہیں تھا، ان کے وہاں عصیان و طغیان اور عمومی غم و غصہ کے اظہار کرنے کے مقامات بند کر دئے گئے تھے؛ حاکم اور بدعتوں کے خلاف قیام نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اسی وجہ سے اکثر تحریکیں بے دینی اور کج فکری کو مٹانے کی خاطر وجود میں آتی تھیں بشرطیکہ ان کا حاکم سے کوئی ربط نہ ہو۔ کبھی یہ تحریکیں معتزلہ سے مقابلہ کے لئے کبھی شیعیت و تصوف اور فلاسفہ سے مقابلہ کے لئے تو کبھی مذاہب اور فقہی اور کلامی مکاتب میں سے کسی ایک سے مقابلہ کے لئے اور کبھی لوگوں کے عقائد اور ان سے مقابلہ کے لئے وجود میں آتی تھیں جو ایک خاص، متعصب اور خشک مزاج گروہ کے لئے ناپسند تھے جس کی وجہ سے ان کے مال، ناموس اور خون ہدراور حلال ہو جاتے تھے۔ (۷۵)

تاریخی لحاظ سے مسلمانوں کے درمیان ہونے والی لڑائیوں کے لامتناہی سلسلہ کا اصلی سبب یہی عامل تھا۔ ان فرقوں میں متعدد مشترک نکات کے ہوتے ہوئے جو انھیں ایک مرکزی نکتہ کی طرف راہنمائی کرتے تھے، ان نکات کے ہونے کے باوجود اسلام کی تاریخ میں اسلامی فرقوں کے درمیان خوب ریز لڑائیوں کی کثرت ہے۔ اس کے علاوہ اجتماعی، سیاسی اور قومی عوامل بھی دخیل رہے ہیں۔ لیکن اس نکتہ کو فراموش نہیں کیا جاسکتا کہ انقلابی تو انسائیوں کے خروج کے لئے جائز اور صحیح مقامات نہ ہونے کی وجہ سے کہ جس کی مدد سے سیاسی اور معاشرتی اصلاحات انجام دی جاتیں ہیں، خود ایسی تو انسائیوں کے مخحرف ہونے کا عظیم عامل ہے جو فطری ہونے کے ساتھ ساتھ ہے، جب ایسی تو انسائیاں اپنے جائز مقامات سے خروج کے

لئے محروم کر دی گئیں تو اس صورت میں یہ امر فطری ہے کہ یہ تو انہیں ان مقامات سے خارج ہوں گی جو ان کی نظر میں جائز ہوں گی۔ اور بجائے اس کے کہ اسے حاکم کے نظام کو برقرار کرنے کے لئے صرف کرے مختلف بہانوں سے خود مسلمانوں کیلئے و بال جان بن جائے گی۔ (۷۶)

یہ بات مخصوصاً اسلام جیسے دین کیلئے بہت اہم ہے۔ اسلام دوسرے ادیان کے مقابلہ میں کہیں تو انہیں کھٹکا کرنے اور اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں قدر تمند ہے، دیگر ادیان بھی کم و بیش فردی کا میابیوں کے لئے اپنی تو انہیوں کو صرف کرتے ہیں، دین کوئی بھی ہواں کا آخری ہدف فرد کی فلاح اور کامیابی ہے، اسلام بھی ایسا ہی دین ہے، لیکن اس میں اور دیگر ادیان میں فرق یہ ہے کہ یہ انفرادی کامیابی اجتماعی کامیابی کے زیر سایہ حاصل ہوتی ہے کہ جو اس دین کی ترقی میں ہو۔

انہتائی کامیابی یہ ہے کہ یہ دین اپنی معاشرتی ہدف کو حاصل کر لے اور انسان اسی صورت میں کامیاب ہو گا کہ جب وہ اپنے آپ کو ایسے اہداف کے حصول کی خاطر وقف کر دیا اور چونکہ ایسا ہی ہے لہذا یہ دین یعنی دین اسلام دوسرے ادیان کے مقابلہ میں ہر ایک سے بہتر افراد کی پوشیدہ استعداد کو آشکار کرے اور ان صلاحیتوں کو اپنے اہداف کی کامیابی کے راستہ میں صرف کرے، یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان کی یہی کوشش رہتی ہے کہ وہ اپنی استعداد کو زیادہ سے زیادہ اپنے دین کے پھیلانے میں صرف کرے اور فدا کاری کی حد تک کوشش کرے، اس کا عمل اس کی انہتائی کامیابی کا راز ہے۔ لیکن دوسرے ادیان میں یہ کامیابی ایک قسم کی نفسانی

تمرین یا کسی فردی یا بعض اوقات اجتماعی کوششوں کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے اور یہ کوشش بھی اسلام کی طرح اجتماعی اور اسے عمومی بنانے کے لئے نہیں ہوتی۔ لیکن اس دین میں یہ کامیابی اکثر انفرادی یا اجتماعی کوشش کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے اور وہ بھی ایسی اجتماعی کوشش کے جو اس کے اہداف کو کامیاب بنانے میں مددگار ثابت ہو۔ اس درمیان اہم بس یہ ہے کہ اسلام میں اتنی توانائی ہے کہ وہ ایک مسلمان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو تخلی بخشے اور اس کی اچھی طرح پروش کر کے انھیں استعمال کر سکتا ہے۔ (۷۷) یہ موضوع کی مزید وضاحت کے لئے اس سلسلہ میں بحث کی جائے۔

### انسان میں فدا کاری کا جذبہ

انسان کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی دوسری شی کے ضمن میں یا کسی شی کے تحت الشعاع میں آنا چاہتا ہے، انسان کی یہ خصوصیت ثابت اور تغیر ناپذیر ہے اور اگر کسی شخص میں یہ خصوصیت ہو تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس میں یہ خصوصیت بالکل نہیں جاتی ہے بلکہ یہ اختلال اس کے اندر ورنی پر اکنڈگی کی وجہ سے ہے، ایسے لوگ مختلف اور گونا گون عوامل کے درمیان واقع ہوتے ہیں۔ اور ان کی توانائیاں پر اکنڈہ ہو جگی ہیں، نیز ان میں ایسی خصوصیات کو اظہار کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے۔

لیکن وہ عناصر جو انسان کو اپنے جاذبہ میں لے سکتے ہیں ان میں ایک دین ہے کہ جو بدون شک ہر ایک سے اہم اور توانا ہے اور یہ ایسا صرف اس وجہ سے ہے کہ اس میں دین خواہی اور

خدا پرستی کی فطرت موجود ہوتی ہے اور دوسری طرف خود دین عظیم مفاہیم کا مجموعہ اور صاف و شفاف مابہیت کا حامل ہے، یہی وہ اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے دین انسان میں اس کی تہوں تک نفوذ کر جاتا ہے اور اسکی مرئی اور غیر مرئی تمام طاقتیوں کو خود استعمال کرتا ہے۔ اس مسئلہ میں اسلام اور دوسرے ادیان میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن عیسائیت ایسی خصوصیت سے سرفراز نہیں ہے قرون وسطی میں عیسائیت نے اپنے ماننے والوں کو اسی طرح استعمال کیا جس طرح اسلام نے اپنے ماننے والوں کو استعمال تھا۔ ایک عیسائی مبلغ یا جنگجو اسی جوش و ولہ کے ساتھ جاں فشانی کرتا تھا کہ جس طرح ایک مسلمان مبلغ یا مجاہد کرتا تھا لیکن اس دور میں اسلام کے علاوہ تمام ادیان نے اپنی اس روشنی میں تجدید اور اس کا رخ بدل دیا ہے، بہت سی حقیقتیں، عناصر اولیہ اور اصول سے چشم پوشی کر لی ہے، موجودہ عیسائیت قرون وسطی کی عیسائیت کے مقابلہ میں درست اور ایک ایسے دین میں ڈھل چکی ہے کہ جس میں اپنی محدودیت کی وجہ سے اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ گذشتہ ایام کی طرح اپنے چاہنے والوں کی توانائیوں کو اکٹھا کر سکے اور انھیں اپنی خدمت میں لے سکے۔

اور آج جو عیسائیوں میں ایام سابق کی طرح قدرت نہیں پائی جاتی تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ ضعیف ہیں بلکہ اکثر اس عیسائیت کے ضعف کی وجہ سے ہے جس کے وہ معتقد ہیں اس لئے آج کی عیسائیت میں وہ قدرت اور قاطعیت نہیں ہے جو ایام سابق میں تھی بلکہ اس قدرت کی حامل نہیں ہے کہ جس کا ہر مذہب محتاج ہوتا ہے، جب یہ تسلیم کر لیا جائے کہ دین اپنی بقا یا کسی دوسرے بہانوں کی وجہ سے تمن جدید، اس کی ضرورتوں اور اس کے

اقتصادیات کی وجہ سے بلکہ اپنے مادی معیاروں اور نظام مادی کی وجہ سے قدم بقدم پیچھے ہٹتا جا رہا ہے اور اپنی حقیقت کو کھو بیٹھا ہے اور موجودہ صورت کے مطابق ہونے کی فکر میں ہے، یہ امر جس طرح بھی واقع ہو وہ اپنی پچی کچھی تو انائی بھی کھو بیٹھے گا جس کے ذریعہ وہ اپنے ماننے والوں اور اپنے عاشقوں کے درمیان تبدیلی لانا چاہتا ہے گا تاکہ اس کی راہ میں جانشیری کرے، آج کے دور میں عیسائیوں کا ضعف ان کے ایمان کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس عیسائیت کے ضعف کی وجہ سے ہے کہ جو آج کلیسا کے ذریعہ تبلیغ کیا جا رہا ہے۔ (۷۸)

آج کے دور میں دوسرے ادیان اور خصوصاً عیسائیت میں ایک بنیادی فرق یہی ہے۔ اسلام نے ایسے مختلف اسباب جو خود اس کی ماہیت سے مربوط ہیں اور ان کی وجہ سے دور حاضر میں اس راستہ کو نہیں انتخاب کیا جسے اپنانے کے لئے دوسرے ادیان مجبور ہوئے اور اسلام ایسا کر بھی نہیں سکتا تھا، قرن حاضر کے متعدد مسلمانوں نے بہت کوشش کی اور اس کی ماہیت سے چشم پوشی کرتے ہوئے آج بھی اسی انتخاب پر اصرار کر رہے ہیں جسے دوسرے ادیان نے اپنالیا ہے۔ شاید یہی وہ اسباب ہیں کہ عصر حاضر میں جوانوں کے وہ اعتقادات نہیں ہیں جو ان کے آباء و اجداد کے تھے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین نے زمانہ کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاحت اور حقیقت، خلوص اور صراحت و قاطعیت، یقین اور تمامیت کی حفاظت کرنے کے بجائے سابق جاذب کو محفوظ رکھا ہے اور ابھی اسی خلوص اور جاذبوں سے سرفراز ہے جن کا ایام سابق میں حامل تھا۔ جس طرح آج نسل جوان کو سیراب کر رہا ہے اسی طرح قرون گذشتہ میں ان کے اسلاف کو سیراب اور انھیں استعمال کیا ہے۔ (۷۹)

بہر حال ہماری بحث اسلام کے سلسلہ میں یہ تھی کہ اس میں اتنی قدرت ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کی پوشیدہ قدرتوں کو آشکار کرے اور انھیں اپنا عاشق بنالے اور انھیں اپنے اہداف کی راہ میں اکٹھا طاقتول کو اپنے اہداف و مقاصد کی ترقی میں استعمال کرے لیکن نکتہ یہاں پر ہے کہ جب بھی طاقتیں یہ پروان چڑھیں اور آشکار ہوں گیں انھیں سیاسی و اجتماعی میدان میں ظاہر ہونے کا موقع نہیں مل سکا اور انحراف اور تعصب کا شکار ہو گئیں۔ اور پھر اس شی کے مقابلہ میں آجاتی ہیں جسے بدعت کا نام دیا جاتا ہے، جب احساسات اور عواطف جوش میں آتے ہیں تو عقل و منطق بیکار ہو جاتی ہے، اس صورت میں انسان بدعتوں کا مقابلہ کر کے دین سے متعلق اپنے فرض کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے موقع پر اس کے لئے یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا کہ جس پر وہ حملہ کر رہا ہے وہ اس کا خونی بھائی ہے یاد یعنی بھائی، بلکہ اس کی نظر میں مد مقابل سے مقابلہ دین سے اخلاص کا ایک وسیلہ ہے اور اس کا یہ عمل دین و حق اور قرآن و پیغمبر کی نصرت کی مانند ہے، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ سامنے والے مخرف سمجھ رہا ہے اگرچہ اس کا انحراف ظنی یا وہی ہی کیوں نہ ہو، اس کی کوشش رہتی ہے کہ اس سے مقابلہ کر کے اپنی ایثار و قربانی کی آگ کو خاموش کرے اور پوشیدہ فداکاری کو آشکار کر سکے۔ (۸۰)

اسلامی تاریخ میں اہل تسنن کے درمیان خونین جنگوں کے حوالوں کم نہیں ہیں۔ مقام تجوب ہے کہ حنفی، شافعی۔ (۸۱) اہل حدیث یا غیر اہل حدیث کے درمیان شیعوں کی بہ نسبت خونین جنگوں کی کثرت ہے۔ (۸۲) یہاں تشیع یا غیر تشیع کا مسئلہ نہیں تھا۔ البتہ جس نکتہ کو ہم نے

بیان کیا اس کے تحت اہل تسنن کے طرف سے شیعہ مخالف حرکتیں اور شیعوں کی طرف سے اہل سنت مخالف تحریکیں کہیں زیادہ وجود، میں آئی ہیں، اس لئے کہ شیعہ ہمیشہ سے اقلیت میں رہے ہیں اور اہل تسنن کی مانند فقہی و کلامی محدودیتوں کی وجہ سے اجتماعی و سیاسی تحریکوں اور انقلابی توانائیوں کو بروئے کار لانے نیز ان تحریکوں کے سہارے تبدیلیاں پیدا کرنے کی فکر میں نہیں تھے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کے نزدیک فقہی و کلامی مبانی اور مذہبی طرز تفکر نیز تاریخی تجربہ اس طرح نہیں تھے کہ جو اہل سنت کو دین سے خارج ہونے کا نام دے دیتے۔ (۸۳) بلکہ بنیادی مشکل یہ تھی کہ دینی خلوص کو ظاہر کرنے کے لئے بدعت کا مقابلہ کرنے کے لئے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا لیکن ہم نے اس بات کو بھی ذکر کر دیا ہے کہ ان بدعتوں سے مقابلہ کیا جاتا تھا کہ جو حاکم وقت سے مربوط نہ ہوں۔ گویا بدعتوں سے مقابلہ نے دینی فدا کاری کے اصل و بنیاد کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا، اس لئے کہ اس کے اظہار کرنے کے تمام راستہ مسدود ہو چکے تھے، یعنی اپنے آپ کو دین کے عظیم اہداف کی راہ میں قربان کر دینا اور اس طرح یہ بدعتوں سے مقابلہ کی صورت اختیار کر گیا اور یہ ایسی حرکت تھی جو اب بھی باقی ہے۔ (۸۴)

## حاکم نظام کا اطراف زنگ

ابھی تک جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ شیعوں اور سنیوں کے قرن اول و دوم سے متعلق سیاسی نظریات کا سلسلہ تھا اور یہ کہ کس طرح اہلسنت کی فقہ اور ان کا کلام وجود میں آیا۔ اور اس اسلوب

نے اسے تحقیق بخششے میں کیا کردار پیش کیا۔ لیکن بعد والی صدیوں میں یہ بنیاد دیں کیونکرو واضح ہوئیں اور اس میں تبدیلیاں آئیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ جس پر روشنی ڈالے بغیر موجودہ صورتحال کے سلسلہ میں تحقیق نہیں کی جاسکتی۔ کیونکہ بالخصوص انھیں ادوار میں اہل تسنن کے اجتماعی، مذہبی اور نفیسیاتی گروہ عملی طور پر وجود میں آئیا اور انھیں ایام میں خلفاء بنی عباس کا دینی اور سیاسی طریقہ کار نہایت مؤثر اور یقین آور رہا ہے اگرچہ اہل سنت کے سیاسی اور فکری اصول خلفاء راشدین، بنی امیہ اور مخصوصاً معاویہ کے دور میں بنائے گئے تھے لیکن درحقیقت یہ بنی عباس تھے جنہوں نے اسے ایک خاص شکل میں پیش کیا اور اسے قطعی بنایا، انھیں دین کی ضرورت تھی اور اس کا اظہار بھی کیا کرتے تھے اور اپنی حکومت کو قوی و مضبوط بنانے اور اسے دوام و استمرار عطا کرنے کے لئے ممکن حد تک اس سے استفادہ بھی کرتے تھے۔ (۸۵)

اسلامی علوم، فقہ، حدیث، تفسیر، کلام، رجال اور تاریخ کی تدوین و نشر اشاعت کی بازگشت بھی انھیں کے دور میں ہوتی ہے لہذا ان کی عمومی سیاست کی وجہ سے یہ امر طبیعی تھا کہ یہ مسئلہ ان کے مصالح و منافع کے زیر اثر قرار پائے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی یہاں تک کہ اہل سنت کی فقہ اور کلام اس دور کے معاشرہ پر حاکم نظام سے وابستہ ہو گئے اور انجام یہ ہوا کہ یہ ایک موجودہ نظام کی آئندی یا لوجی نے اسے توجیہ کرنے اور اسے مشرع بنانے کی شکل اختیار کر لی۔ (۸۶) اور جب عباسی خلافت کا قلع قمع ہو گیا اور اس کی بنیاد گر گئی تو اس کے بعد بھی یہ پیوند باقی رہا اور صاحبان قدرت کی خدمت کا مقام بنا۔

اس نکتہ کی مزید توضیح ضروری ہے۔ درحقیقت واقعیت یہ ہے کہ عباسی خلفاء اپنی خلافت اور قدرت کو مضبوط بنانے کے لئے سابق خلفاء سے کہیں زیادہ دین کے محتاج تھے، امویوں کے دور میں اسلامی معاشرہ عباسیوں کے دور سے کہیں زیادہ مشتمل اور متعدد تھا اس کے علاوہ جدید مسلمان امویوں کے دور میں نظام جدید سے مرعوب اور ایک ایسی قدرت کے سامنے تسلیم تھے جس نے ان شکست خور دہ ممالک کے سلاطین کے تحفظۃ الٹ دیا تھا، وہ تازہ مسلمان یا تو ان گذشتہ حوادث کا ناظارہ کر رہے تھے یا عربوں کے رقیب یا عرب نسل لوگوں کی خادم بنے ہوئے تھے جو قدرت کی خاطر کھڑے ہوئے تھے، ان کے درک کرنے کے لئے سالہا سال درکار تھے پھر کہیں وہ مؤثر اور فعال انداز میں سیاسی اور اجتماعی بلکہ دینی اور ثقافتی مسائل میں شرکت کر سکتے تھے۔

یہاں تک کہ امویوں کی مدت تمام ہونے لگی یعنی غیر عرب مسلمانوں نے اسلامی معاشرہ میں قدم رکھ دیا جس کا انجام یہ ہوا کہ اموی شان و شوکت کی نابودی کے اسباب فراہم ہو گئے اس کے علاوہ متعدد گروہ اس میدان میں سامنے آگئے اور اس کے تمام جوانب کو مضبوط بنادیا دوسرا مسئلہ جدید افواج کی موجودگی تھی جو سیاسی نعرہ لگا رہی تھیں بلکہ اسے دینی اور ثقافتی جنبہ بھی حاصل تھا جس کی بنا پر کثرت سے ثبت نتائج کے باوجود سیاسی اور اجتماعی پرائیوریتی میں اضافہ ہوا۔ (۸۷)

انھیں اسباب و عمل کی وجہ سے امویوں کے مقابلہ میں عباسیوں کا اقتدار زیادہ پائیدار ہوا۔ (۸۸) یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ عباسی خلفاء امویوں کے مقابلہ میں نالائق یا شدت

پسند تھے بلکہ حالات کے بدل جانے کی وجہ سے تھا، عباسیوں کا دور ایسا نہیں تھا کہ جس میں امویوں کی سیاست کو باقی رکھا جاتا اور اگر یہی اموی عباسیوں کے دور میں ہوتے تو اسی سیاست کو اپناتے جسے عباسیوں نے اپنایا تھا۔ اور انھیں چیزی قدرت کے مالک بھی ہوتے۔ اس مقام پر جو کتنا قابل اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ ان شرائط نے اہل سنت کی فقہ و کلام پر خصوصاً ان ایام میں اپنا اثر چھوڑ دیا اور اسے رونق مل گئی یعنی خلیفہ کا فوجی قدرت میں ضعیف ہونا اس بات کا باعث ہوا کہ اس کی قدرت کو محکم بنانے کے لئے دین کا سہارا لیا جائے، درحقیقت دین اس قدرت کا قائم مقام بن گیا جسے تلوار کے زور پر حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا۔

لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل سنت کے تمام وہ علماء جنہوں نے ایسے امور انجام دیئے ہیں خلیفہ کے حکم کے تابع تھے یا کسی اور منفعت کی خاطر انجام دیا ہو، بلکہ ان لوگوں کے درمیان ایسے علماء بھی تھے جنہوں نے دین کی حفاظت اور لوگوں کی سلامتی کے لئے اسی طریقہ کا انتخاب کیا تھا، اس دور میں ان لوگوں کے لئے اس بحرانی اور کشکش کے دور میں جو مسئلہ سب سے زیادہ اہم تھا وہ اسلام کی ایک قوی مرکزیت اور دین کی حفاظت کرنے والوں اور دیگر لوگوں کی جان و مال کی محافظت تھی، جبکہ حاکم ایسی مرکزیت کو تنہا ایجاد نہیں کر سکتا لہذا دین سے مدد لینا مسلم تھا اس لئے کہ اسی کی مدد سے ایسی مرکزیت ایجاد کی جا سکتی تھی۔

اس طرح دین ایک آئینہ یا لوجی کی شکل میں آگیا۔ لیکن اسکا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین سماج اور حکومت کو چلانے میں موجودہ نظام کے آئینہ یا لوجی کی ضرورتوں کے پیش نظر جواب گو ہو بلکہ بیشتر ایک پشت پناہ کی حیثیت سے تھا جو کم و کاست اور ضعف کی تلافی کر سکے، البتہ یہ

تلائی اس وقت ممکن تھی کہ جب موجودہ نظام میں ظاہری اعتبار سے ہی شرع کی رعایت کرے، بیہاں اس بات کا امکان نہیں تھا کہ لوگوں کو اعتقادی اعتبار سے حاکم کے مقابلہ میں قیام کا حکم دیا جاتا اور وہ دین کا دفاع کے عنوان لے کر اٹھ کھڑے ہوتے، جبکہ یہ نظام کلی طور پر اس کے خواہر سے بے پرواہ تھا۔ (۸۹)

### جدید اعتراضات

اس نکتہ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا مناسب ہے کہ ہارون کے بعد عباسی خلفاء فوجی اعتبار سے کسی ضعف کے شکار نہیں تھے اہل سنت کی فقہ و کلام کی جب بازگشت سیاسی و حکومتی مسائل کی طرف ہوتی ہے تو اس کی شکل بدل جاتی تھی، یہ موضوع ہم عصر زمانے سے پہلے تک اہل سنت کی طرف سے کسی اعتراض کا باعث نہیں بنایا لیکن ان آخری سالوں بالخصوص آخری دہائیوں میں بہت سارے اعتراضات کا باعث ہوا اور اب ان کے مظاہر کا سیاسی اور انقلابی گروہوں کے نوشوتوں اور مصر، شمالی افریقا اور بعض عرب کے اسلامی ممالک میں موجود گروہوں میں خواہ اسلامی گروہ ہو یا غیر اسلامی سراغ ملتا ہے۔ (۹۰)

لیکن شیعہ طرز فکر نے شروع ہی سے ایسی کوئی راہ طنہیں کی، اس لئے کہ اس کے اصول اس طرح نہیں تھے کہ جو موجودہ حاکم نظام حتیٰ جہاں پر شیعی حکومتیں برقرار تھیں، بدل جاتے۔ جب موجودہ نظام کی مشروعیت ان اصول و قوائد کی بنیاد پر ہو جو اس کے شرائط کے مطابق تھے، ایسی صورت میں یہ آئندی یا لوگی موجودہ نظام کی آئندی یا لوگی سے تبدل نہیں ہو سکتی اور

اپنے آپ کو اسکی توجیہ میں استعمال کرے۔ اہل سنت کے دینی نظریات کے نظری اصول و مبانی کچھ اس طرح تھے کہ جو موجودہ صورتحال کو مشروع دکھانے اور اس کی توجیہ کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ کا نہیں رکھتے تھے۔

یہ اس وجہ سے تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان نظری اور اعتقادی اصول و مبانی تاریخی اور سیاسی واقعیتوں کے تحت تاثیر واقع ہوئے ہیں باخصوص اس جگہ جہاں صدر اسلام کی طرف بازگشت ہو رہی ہو تو شکیل پائی اور پروان چڑھی ہو یا بھارت دیگر یہاں پر ایڈ پولو جی اس سے ماخوذ واقعیت کی فرع تھی۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے اشارہ کیا ہے کہ اہل سنت مسئلہ امامت اور ہبہ میں شیعوں کے برخلاف کہ جو پہلے ہی مرحلہ میں شان نہیں بلکہ ذی شان کی دریافت کرتے اور اس کے بعد اس کی تفسیر کرتے ہیں، ان لوگوں کی نظر میں مخصوصاً وہ مسائل جو صدر اسلام میں واقع ہوئے ہیں وہ مشروعیت اور حقانیت رکھتے تھے، لہذا یہ ایک حقیقت تھی کہ وہ ان کی تعریفیں بھی انھیں کے دائرے میں کریں اور دوسرے یہ کہ وہ لوگ دین کی حفاظت حکومت اور اس کے حکومتی نظام کے سایہ میں ممکن سمجھتے تھے۔ (۹۱) اور چونکہ انھوں نے اس مسئلہ کو ایک اصل کے عنوان سے قبول کیا تھا لہذا اسے توجیہ کرنے اور اس کی مشروعیت کو ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ ان کے افکار و اذہان ابتداء ہی سے اسی قابل میں ڈھلنے اور رپے بے تھے نیز انکی نظر میں اصحاب، تابعین اور ان کے بعد آنے والے علماء کا اجماع، قرآنی نصوص اور سیرہ نبوی بھی اسی کی تائید کرتی تھی۔ (۹۲) یہاں ہم یہ نہیں تھا کہ انھوں نے ایسی اصل کو قبول کر لیا ہے اور اس طرح ان کے اذہان سوچنے لگے

ہیں۔ بلکہ قبل اہمیت یہ ہے کہ انھوں نے اسے اسلامی تعلیمات اور دینی دستورات کے عنوان سے ایک جزو سمجھ لیا تھا، لہذا وہ لوگ اس کی اس طرح تفسیر کرتے تھے۔ اور یہ مسلم ہے کہ ان کے درمیان ایسے لوگوں کی کثرت تھی جو دنیا دوستی، سوئے استفادہ اور حکام سے نزدیک ہونے کے لئے اسے قبول کرتے اور اس کی ترویج کرتے تھے لیکن انھیں کے درمیان کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے مخصوص دلائل کی بنیاد پر جس کا ذکر آئے گا قبول کر لیا تھا۔ (۹۳)

بہر حال یہ مبانی شیعوں کے نزدیک ایک دوسری شکل میں تھے جو اپنے ضوابط، معیار اور اپنی اقدار کے علاوہ کسی دوسرے اعتبار سے فکر نہیں کیا اور تسلیم نہیں ہوئے یعنی دین کی حفاظت کا تنہار استہ موجودہ صورت حال کو بدلتے اور حاکم کی قدرت کو کمزور بنانے نیز جس طرح اہل سنت حاکم کی قدرت بڑھانے کے قابل تھے نہیں سمجھتے تھے، بلکہ تاریخی ادوار کے بعض دور میں اس کے برخلاف عمل کیا اور اعتقاد رکھا ہے۔ اسی وجہ سے موجودہ صورت کو اسی صورت میں قبول کرتے تھے جب وہ ان کے اصول و قواعد کی بنیاد پر ہوں یا اس کے شرائط اس طرح ہوں کہ جب دین کی حفاظت اور حراست موجودہ نظام کی عدم مخالفت پر منحصر ہو، ایسی صورت میں نہ تو اسے رسمی طور پر قبول کرتے تھے اور نہ ہی اس کے مقابل قیام کرتے تھے۔ (۹۴)

ان دو اصول و مبانی کے درمیان موجود تفاوت شاید پہلی نظر میں چند اس اہمیت نہ رکھتا ہو لیکن دور جدید کے بدلتے حالات نے اپنی اہمیت کو آشکار کر دیا ہے اہل سنت کی حکومت میں دور

حاضر کی اسلامی تحریک کی نظری مشکلات اور ان مشکلات کا شیعوں میں نہ ہونا اسی تقاوٹ کا نتیجہ ہے جس طرح سے نئی نسل کی تنقیدوں کے مقابل الہست کی مغلبوں کا معنی دار سکوت اسلام کی حمایت کے پیش نظر تھا اور ان کے توسط سے کی گئی فسیر کے کیوں گذشتہ اور حال میں فاسق و فاجر حکام کی حمایت کرتا رہا ہے اور آج بھی کرتا ہے؟ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ (۹۵)

اگرچہ بعض روشن فکر شیعہ حضرات و خواہ ایران میں ہوں یا دوسرے ممالک میں انہوں نے تقریباً ایسے ہی اعتراضات شیعہ علماء پر وارد کئے ہیں، لیکن یہاں پر معاملہ اور اس کے اسباب و علل کچھ اور تھے لہذا قبل حل تھا۔ اگرچہ ایام سابق میں شیعہ علماء شیعہ حکام کے درباروں میں حاضر ہوئے ہیں، جس کی ایک خاص اور بعنوان ثانوی علت تھی کہ اس زمانے میں شیعیت کے علاوہ قدرت کو مضبوط کرنے کے لئے صرف شیعی ہی مرکزیت تھی نہ اس لئے کہ وہ انھیں مشرع یا اسے واجب الاطاعہ فرض کرتے ہوں، اس لئے کہ مذهب حقہ کے دفاع اور ضروری مصلحتوں نے انھیں وقتی طور پر ایسی موقعیت کو اپنانے کے لئے مجبور کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ دور حاضر میں ایسے کوئی شرائط مہیا نہیں تھے لہذا دین کی حمایت میں حکام کے مقابلہ پر مجبور ہو گئے لہذا ان کے خلاف قیام کیا، خواہ وہ حکام شیعہ ہی کیوں نہ ہوں انہوں نے دین کی مصلحت کے مطابق وہی کیا جو کرنا چاہئے تھا۔

## شیعہ کا موقف

بہر حال طول تاریخ میں بادشاہوں کے دربار میں شیعہ اور سنی علماء کا حضور مکمل طور پر عمل و اسباب کی تبعیت میں متفاوت ہے۔ ایک شیعہ عالم کسی بھی حال میں ایسے حاکم اور اس کے حاکمانہ نظام کو قبول نہیں کر سکتا تھا کہ جس نے ناجائز طریقہ سے قدرت حاصل کی ہو اور دین و شرع کے مخالف طرز عمل ہو۔ اور اگر کبھی اس کی حمایت اور تائید کیلئے مجبور ہو جاتا تھا تو وہ بھی ایک خاص دلیل اور ایک امر ثانوی کی وجہ سے تھا۔ (۹۶) لیکن ایک سنی عالم دین کے لئے ایسی کوئی مشکل درپیش نہیں تھی، اس کی نظر میں حاکم چونکہ ایک حاکم ہے اور قدرت و حکومت اسی کے ہاتھ میں ہے لہذا امشروع اور اس کی اطاعت واجب ہے یا کم از کم اس کی نظر میں اس کے خلاف قیام کرنا یا اس کی مخالفت کرنا حرام ہے اور اگر ادوار گذشتہ میں بعض علمانے حاکم کو ایک حاکم ہونے کی وجہ سے اس کے واجب الاطاعت ہونے میں شک و تردید کا اظہار کیا ہے تو اسی کے بال مقابل ان کے نزدیک یہ بھی مسلم ہے کہ ایک حاکم کے مقابلہ میں قیام کرنا حرام قرار دیا گیا۔ (۹۷)

البتہ یہ بھی مسلم ہے کہ اخلاقی عوامل بھی اہل سنت کے علماء و متقی و پرہیزگار فقہاء کے لئے بادشاہ کے تقرب میں مانع ہوئے ہیں، چونکہ حکومت و سلطنت عموماً دنیا پرستی، عیش و نوش، ظلم و تعدی اور آخرت و قیامت سے غفلت کے ہمراہ ہوتی ہے لہذا اس سے دوری اختیار کی۔ چنانچہ وہ لوگ بھی جو اس طرح کی زندگی گزار رہے تھے وہ بھی ان سے دوری اختیار کرتے تھے۔ جیسا

کہ ہم نے بیان کیا کہ یہ روشن کسی اعتقاد کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ایک اخلاقی پہلو ہے۔ درحقیقت ان سے دوری اختیار کرنا دنیا اور دنیا پرستی سے پرہیز علامہ اہلسنت کے نزدیک مددوچ اور مطلوب تھا۔ ان لوگوں نے اس مسئلہ میں اسی موضوع کے تحت احادیث یعنی سلاطین سے دوری کو اپنے لئے نصب اعین قرار دیا تھا۔ (۹۸)

مذکورہ بالانکات کے مذکورہ اس مسئلہ کے تحت بحث کریں گے کہ کیوں بعض علامہ اہل تشیع اپنے دور بلکہ آئندہ ادوار میں ممتاز موقعیت کے مالک ہوتے ہوئے بھی سلاطین کے دربار میں حاضر ہوتے۔ اور عملی طور پر صفویوں کے دور میں اکثر علامہ ایسے ہی تھے۔

اس مسئلہ کی دلیل اس دور میں سیاسی حالات اور نیز عثمانیوں اور صفویوں کے درمیان دائیٰ کشمکش ہے۔ عثمانیوں یعنی صفویوں کے دشمن شیعہ تھے۔ لہذا یہ ان کے فائدہ میں تھا کہ تشیع کو اسلام سے خارج اور اسلام سے نا آشنا اور اس کے مخالف ہونے کے عنوان سے متعارف کرائیں، وہ لوگ اس کے ذریعہ عوام کی جماعتیوں اور انھیں ان کے خلاف بھڑکانے کے مالک ہوئے۔ انھیں دین کا دفاع کرنے اور اخروی درجات سے بہرہ مند ہونے کے لئے میدان جنگ میں کھینچا اور انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ (۹۹) لیکن اہم تو یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے دشمنوں کے خلاف ابھارنا تنہا صفویوں کے خلاف نہیں تھا اور ہو بھی نہیں سکتا تھا بلکہ ان کی مملکت میں رہنے والے شیعوں کو بھی شامل تھا اور یہی وہ علت تھی کہ ان کی سلطنت میں رہنے والے شیعہ ہمیشہ قتل و غارت گری ذہنی دباو اور اذیت کا شکار رہے بلکہ بعض اوقات یہ قتل عام اس قدر وسیع تھا کہ بعض مناطق سے شیعوں کا نام و نشان تک مت گیا بطور مثال جب سلطان

سلیم اول نے اپنے باپ سلطان بایزید ثانی کی بادشاہت چھین لی اور اس کے بھائیوں کو قتل کر کے تخت سلطنت پر بیٹھ گیا تو اس نے سب سے پہلے چالیس ہزار شیعوں کے قتل عام کا حکم جاری کیا۔ (۱۰۰)

درحقیقت ان دونوں کے درمیان سیاسی رقبابت دینی رقبابت اور دشمنی کا موجب ہو گئی۔ اور واقعیت تو یہ ہے کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ ان دونوں نے سیاسی رقبابت بڑھانے میں ایک جیسا کردار ادا کیا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین کے نام پر جنگ و جدال کی آگ بھڑکانے میں صفویوں سے کہیں زیادہ عثمانی پیش پیش رہے ہیں اس لئے کہ صفوی شیعہ تھیا اور شیعوں نے کبھی بھی اہل سنت کو اسلام سے خارج قرار نہیں دیا جس کی وجہ سے ان کے مقابلہ میں کبھی قیام بھی نہیں کیا۔ (۱۰۱)

لیکن اس کے برخلاف متعدد دلائل کی وجہ سے صحیح ہے کہ جس کی بیہاں پر بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اہل سنت اکثر و پیشتر ہوا ہے کہ خود فروش، دنیا پرست اور مزدور علماء یا علماء و سفاک حاکم کے بھڑکانے پر شیعوں کے خلاف اقدام کیا ہے، بیہاں بھی مسئلہ یہی تھا عثمانی سلطانین اسی ذہنیت اور سوابق کے پیش نظر آسانی ان کی حکومت میں رہنے والے شیعوں کے خلاف انھیں ابھار دیا لیکن اس کے نتیجہ میں سامنے آنے والے نقصانات ان کی توقع سے کہیں زیادہ اور طولانی تھے جس کی تمام محکمین اور سلطان کو امید تھی۔ (۱۰۲)

## شیعہ علماء اور صفوی سلاطین

ایسے حالات میں فطری طور پر علمائے شیعہ مجبور تھے کہ وہ تشیع کے واحد مرکز کے دفاع میں سلطان وقت کی خدمت میں رہیں۔ (۱۰۳) تاکہ اس کے ذریعہ ایسی قدرت کو جو مسلسل گوناگون رقبوں اور مختلف دباؤ کا شکار تھی کا تحفظ کریں اور اس کی حفاظت اور مرکزیت اور شان و چوکت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ایک مانع بینیں وہ بھی عثمانی کی حکومت میں ہونے والے بے رحمانہ قتل عام کے مقابل کیوں کہ ان کی طاقت روکنے والا ایک عامل تھا عثمانی شیعوں کی ہٹک حرمت اور ان کے قتل و غارت ہونے کے لئے ان بجرانی ایام میں شیعوں کی سرنوشت خواہ ایران کے اندر ہو یا باہر اس درجہ صفویوں کی قدرت اور قوت سے وابستہ ہوئی کہ ان کے تحفظ کے لئے ان کی تقویت کرنے کے کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ اس بحث کو اس دور کے تاریخی حالات کی عکاسی کرنے والے نمونوں پر ختم کریں گے۔

سلطان مراد چہارم (۱۰۴۹-۱۰۳۲ق) کہ جو اس وقت صفویوں کے قبضہ میں تھا اس نے خواہش کی اور اس نے اپنے ہدف کو پانے کے لئے ایران سے جنگ کے لئے آمادہ ہو گیا، لیکن اسے یہ نکتہ خوب معلوم تھا کہ وہ اتنی آسانی سے صفویوں کو شکست نہیں دے سکتا ہے زداں نے قبلی اور مذہبی فتنے کو ہوادینے کی ٹھان لی اور علماء سے شیعوں کے خلاف جنگ کا فتو اطلبل کیا لیکن علماء اہل تسنن نے ایسا فتوادینے سے انکار کر دیا لیکن ایک نوح آندی مقامی جوان اس کے لئے تیار ہو گیا اور اس نے ویسا ہی فتواد یا جیسا سلطان مراد نے چاہا تھا۔ جو بھی ایک

شیعہ قتل کرے اس پر جنت واجب ہے۔

اس فتوا کا ایک دوسرا حصہ یہ ہے کہ: خدا آپ کو اس گروہ کے مقابل سعادتمند بنائے جو کافر، بااغی، فاجر، جنحیں نے ہر قسم کا عناد، فسق، زندقة، الحاد اور کفر و عصیان کو اپنے اندر رجع کر لیا ہے اور جو بھی ان کے کافر، ملحد ہونے، وجوب قتال اور انھیں قتل کرنے جواز میں تامل کرے وہ بھی انھیں کی طرح کافر ہو گا۔ اور پھر اس طرح کہتا ہے: انھیں قتل کرنے کا جواز ان کا بااغی اور کافر ہونا ہے، وہ اس لئے بااغی ہیں کہ وہ خلیفہ، خلدہ اللہ تعالیٰ ملکہ، کی اطاعت سے قیامت تک کے لئے خارج ہو گئے ہیں اور خدا فرماتا ہے: سرکشوں اور اطاعت نہ کرنے والوں سے اس وقت تک جنگ کرو جب تک کہ وہ حکم خدا کے سامنے تسلیم نہ ہو جائیں اور یہاں پر امر و حجوب کے لئے ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو صیغہ استعمال ہوا ہے اس کے واجب ہونے پر دلالت کرتا ہے لہذا سزاوار ہے کہ جب خلیفہ ایسے بااغی اور طاغی گروہ سے جنگ کرنے کی دعوت دے جسے زبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سے کافر اور ملعون کہا گیا ہے اس کی آواز پر لبیک کہو بلکہ ان پر واجب ہے کہ اس کی نصرت کریں اور اس کے ہمراہ ان سے جنگ کرنے کے لئے قیام کریں اور آخر میں اس طرح اضافہ کرتا ہے: لہذا ایسے کافر اشرار کا قتل کرنا واجب ہے چاہے تو بہ کریں یا نہ کریں نیز جزیہ لے کر یا موقف امان یا دامُ امان دے ان کے قتل سے بازاً آنا جائز نہیں ہے نیز ان کی عورتوں کو کنیز بنانا جائز ہے کیونکہ مرتد کی بیوی کو جودا راحرب میں ہیں جہاں کہیں بھی ہوں امام یا برحق خلیفہ کی حکومت سے باہر ہے تو انھیں کنیزی میں لینا جائز ہے، اس لئے کہ دارالحرب کے علاوہ جہاں بھی وہ ہیں وہ بھی دارالحرب کی مانند ہے۔

اسی طرح ان کے بچوں کو غلامی میں لینا ان کی ماوں کے ہمراہ جائز ہے۔ (۱۰۴) یہی فتوا ایک ایسی جنگ کا باعث ہوا اور سات ماہ تک طولانی جنگ ہوتی رہی اور دونوں طرف سے ہزاروں کے قتل عام کا موجب بنایا تک کہ یہ جنگ ۱۷ رب جمادی ۱۰۴۸ سے ۳ محرم ۱۰۴۹ تک جاری رہنے کے بعد ایران اور عثمانی کے درمیان مقام شہر قصر شیرین پر معاہدہ صلح کے ذریعہ تمام ہوتی۔

اس جنگ کے تمام ہونے کے بعد اسی فتوا کی بنیاد پر عثمانی حکومت میں رہنے والے شیعوں کے خلاف جنگ چھپڑ دی گئی، جس میں جہاں تک چاہا قتل عام کیا، ان میں بدترین اور ہولناک قتل عام شہر حلب کے شیعوں کا تھا اس لئے کہ یہ شہر حمدانیوں کے دور سے شیعہ نشین رہا ہے، یہ قتل عام اس قدر دردناک اور وسیع پیمانہ پر تھا کہ ان کی کشیر تعداد قتل کردی گئی اور جو لوگ آس پاس کے گاؤں میں فرار کر گئے صرف انھیں کی جانیں محفوظ رہ گئیں، اس جنگ میں تنہا شہر حلب میں چالیس ہزار شیعہ شہید ہوئے کہ جن میں ہزاروں کی تعداد میں سادات تھے۔ نجف کے عالم بزرگ سید شرف الدین علی ابن جحیۃ اللہ شوستانی نے اس قتل عام کے خلاف ایران میں فتوا صادر کیا تاکہ اس ہولناک قتل عام سے روکا جاسکے۔ (۱۰۵)

### شیعوں کی گوشہ نشینی اور اس کے تابع

اس مقام پر اس نکتہ کی یاد ہانی ضروری ہے کہ اہل تسنن کے مقابلہ میں شیعہ ہمیشہ اقلیت میں رہے ہیں۔ اہل تسنن کے سماج میں ایک اقلیت کی صورت میں انھیں کے درمیان اپنا گذر

اوقات کرتے تھے حتی وہ مقامات کہ جہاں وہ اکثریت میں تھے اور قدرت بھی انھیں کے ہاتھ میں تھی، اپنے ہمسایوں کے درمیان ایک جزیرہ کی مانند زندگی گذاری ہے۔ شیعوں کی گوشہ نشینی مخصوصاً ایران میں جب شیعہ سلاطین نے قدرت سنبھالی، تو ایران سے خارج دنیاۓ اسلام کے مذہبی سماج سے قطع رابطہ کا باعث بنی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایران کا داخلی سماج پہلے سے زیادہ دیگر سماجوں سے دور ہوتا گیا اور جب اسلامی ممالک مخصوصاً شیعی حکومتوں کی ایک نئی تاریخ شروع ہوئی تو ایرانی معاشرہ اپنی اصلاحت کے تحفظ کی خاطر اپنے ہی دائرے میں محدود ہو گیا۔ (۱۰۶)

اگرچہ یہی صورت حال اہل تسنن کے درمیان بھی مشاہدہ کی جاسکتی ہے لیکن اہل تسنن کی گوشہ نشینی شدت اور عمق کے لحاظ سے شیعوں کے برابر بھی بھی نہ رہی ہیا اور اس تفاوت کے نتیجہ میں ظاہر ہونے والے آثار ان دو گروہوں کی فرقہ گنگی، سیاسی اور اسلامی افکار، مخصوصاً علماء اور دینی مفکرین جو رسمات کے دفاع کی ذمہ داری لئے ہوئے تھے اس خاص گروہ کے درمیان بخوبی قبل دید ہے۔ اگرچہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ شیعوں کے درمیان اسلامی تفکر اہل سنت سے کہیں زیادہ محکم، اصلی اور پائدار ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سنی مفکرین کا وسیع پیمانہ پر تمدن جدید سے تعلق رکھنے کی بنا پر ہے کیونکہ ان کے درمیان ہم عصر مفکرین کی شیعوں کی نسبت تعداد زیادہ ہے لہذا ان کا طرز تفکر بھی زیادہ عین غیر انتزاعی ہے سنیوں کے درمیان اصلاح طلبی اور تجدید خواہی جیسے تفکرات کی تاریخ کا طولانی ہونا احتمال انھیں اسباب کا نتیجہ ہے، جب یہ مسلم ہو جائے کہ اپنی حقیقت و اصلاحت کی برقراری ماضی پر افسوس کرنے، اجنبی اور

بیگانوں کو بدوں چون و چرا دور کرنے کے ہم پلے ہے تو اس صورت میں اصلاح اور تجد کا کوئی امکان باقی نہیں رہ سکتا، ایسے تفکرات دین اور دینی اصول و مبانی سے آنے کے بجائے زیادہ تر خلوت طلب شیعوں کے تاریخی تجربہ اور شیعہ مذہبی سماج سے پیدا ہوئے ہیں۔

البتہ شیعوں کی کنارہ کشی اور دور رہنے کے اسباب کم از کم ایران میں متعدد ہیں۔ شیعی گروہوں اور جماعتوں کا دیگر مذہبی تشکیلات سے ارتباٹ نہ رکھنا، نیز موجودہ حاکم سیاسی قدرت نے اس میں ایک دوسرے عنوان سے شدت پیدا کر دی اور اس گوشہ نشینی پر مجبور کیا۔ ان دونوں کے آپس میں ارتباٹ نہ رکھنے نے جدید تاریخ میں اجنبیوں اور جدید فرہنگ کے اثر و رسوخ کی زیادتی انھیں کے مقابل تھی کیونکہ استعماری سابقہ نہیں رکھتا تھا اور جدید فرہنگ اور تفکر کے جو عملی طور پر اسی حاکم قدرت اور ان کے پڑھوں اور ہبھی خواہوں کے ذریعہ سماج میں داخل ہو گئی لہذا ان دونوں کا مقابلہ مذہبی سماج اور جدید گلچھرو تہذیب کے عنوان سے انجام پایا لہذا اس تہذیب و ثقافت نے بھی خود کو مذہبیوں کے قالب میں استعمار، فائدہ طلبی اور فساد اور بے دینی سوا کچھ ظاہر نہیں کیا لہذا انھوں نے اس سے کلی طور پر احتراز ہی میں عافیت سمجھی لہذا اپنے آپ کو سمیٹ کر شور و غل سے دور اپنے معاشرہ کو سمیٹنے کی کوشش کی تاکہ اپنی اور اپنی اولاد کی حفاظت کر سکے قوی احتمال کی بنیاد پر ایسے حالات اور شرائط میں کوئی قدم اٹھانا نہ مناسب تھا اور نہ ہی مفید۔ (۱۰۷)

لیکن سنیوں کے مذہبی سماج کا جدید فرہنگ سے تعلق ایسا نہیں تھا چونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا اس سماج سے گھر اگاؤ اور ان پر حاکم سیاسی قدرت نے کم و بیش انھیں افکار اور تغیرات کے

رو برو کر دیا تھا تاکہ جس سے حاکم نظام دو چار تھا، دوسرے یہ کہ ان کا جدید فرہنگ سے ڈائریکٹ رابطہ تھا۔ سنیوں کا تمام معاشرہ، ہند سے لے کر مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقا تک استعمارگروں کے زیر اثر تھا، وہ لوگ تمدن جدید کی تمام خصوصیت کو اس کے تمام ابعاد و جوانب کے ہمراہ اپنی اولاد کی صورت میں مشاہدہ کرتے تھے۔ لیکن ایران میں اس کے نمونے عمومی طور پر بلکہ کلی طور پر ایک کم ظرف اور خود باختہ انسان تھے جونہ انھیں پہچانتے تھے اور نہ ہی ایسی شناخت کی فکر میں تھے۔ ان کا اس سے تمکن کی اصلی غرض اخلاقی، اجتماعیاً و دینی قیود سے فرار کرنا تھا یعنی اسے اپنے لئے ایک امتیاز اور تشخیص کا ذریعہ اور لوگوں پر برتری جتنا کاوسیلہ بنالیا تھا۔ (۱۰۸)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ تاریخ معاصر میں سنی اور شیعہ سماج کا دور بالکل مختلف رہا ہے، ان دونوں نے تمدن جدید اور جدید فکر و فرہنگ کو دو متفاوت صورت میں مشاہدہ کیا تھا اور ان دونوں نے فرہنگ و تمدن نیز نئے افکار کا دو طرح سے تجربہ کیا تھا لہذا اس فرہنگ نے بھی ان پر دو الگ عنوان سے حکومت کی اور اپنے زیر اثر رکھا درحقیقت یہ دو تجربوں کے وارث اور دو تغیرات کے فرزند ہیں، ان دونوں کی دینی حالت مخصوصاً موجودہ صورت حال ان کی اسلامی تحریک کے سلسلہ میں تحقیق آخری نکتہ کو منظر رکھے بغیر ناممکن ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب تک جو کچھ اہل سنت اور اہل تشبیح کے سیاسی مبانی کے سلسلہ میں وضاحت دی گئی ہے ان میں اسلامی تحریکوں کا کیا حال تھا، ان میں کیا فرق تھا اور ان کے اسباب کیا تھے۔

## دباو اور نئی ضرورتیں

واقعیت تو یہ ہے کہ شیعیہ حکومت میں اسلامی تحریک کسی خاص نظریات مشکل سے رو برو نہیں تھی اعتقدادی اصول، فقہی قواعد، تاریخی تجربہ سے حاصل شدہ اور نفسیاتی اور اجتماعی ڈھانچے اس طرح نہیں تھے کہ جو تاریخِ جدید کے سیاسی اور انقلابی تقاضوں کے تحت اسلامی جواب حاصل کرنے کے لئے سیاسی اور انقلابی اقدامات پر منی ہوں شیعوں میں اتنی طاقت تھی کہ وہ علماء دین کی رہبری اور اپنے دینی تفکرات کے سایہ میں ظالم اور وابستہ حکمرانوں کے مقابلہ میں کھڑے ہو جائیں اور اس کی نابودی تک اس کا مقابلہ کریں، یہ صورت حال ذخیر کے مالک ممالک کی نفسیاتی، فزونگی، اخلاقی آثار اور آخری دہائیوں میں اجتماعی، اقتصادی اور سیاسی تحولات و تغیرات سے موافق ہونے اور اس کے مواہب سے مالا مال ہونے کی وجہ سے تھی۔ یہاں تنہا مسئلہ یہ نہ تھا کہ دین اور اس کے اقدار کی حفاظت کی خاطر ان حکام سے مقابلہ کیا جائے جو انھیں کوئی اہمیت نہیں دیتے یا اس کے مخالف ہیں۔ جیسا کہ ہم پچاس یا سو سال پہلے تک شاہدر ہے ہیں، آخری دہائیوں میں اسلامی تحریک میں تنہاد و آخری دہائیوں کے علاوہ صرف اس وجہ سے وجود میں آئی تھیں کہ حکومت وقت جو دینی مصلحتوں کو مد نظر رکھے بغیر اقدامات انجام دیتی اور ممن مانی کرتی تھی کا مقابلہ کیا جاسکے، بلکہ اہم تو یہ تھا کہ ایسے مبارزہ اپنے آخری ہدف پر نظر رکھنے کے بغیر موضوع رکھتے تھے۔ یہاں یہاں یہ ہم نہ تھا کہ دین سے دفاع اور فاسد نظام کو صحیح بنانے کے لئے ان کا مقابلہ کرنا چاہئے، بلکہ ہم یہ تھا کہ مختلف تحولات و تغیرات اور سماج میں مختلف پارٹیوں کا سیاسی اور انقلابی اقدامات انجام دینا جوانوں اور مسلمانوں کے

ذہن میں ایک ایسی فضابنا رہا ہے کہ جس کے پیش نظر اسلامی اصول کے مطابق ایک روشن کا انقلابی اور جہادی ہونے کے ساتھ ساتھ وجود میں آنا ضروری تھا۔ اس لئے کہ اس راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ تھا پیاسی روحلیں، دین خواہ، عدالت پسند جوان جو اپنے اندر ایک مبارزہ طلب اور عدالت خواہ نظریہ سے بھن رہے تھے سیراب ہو جائیں نیز وہ لوگ اس درجہ پیاسے اور پریشان تھے کہ اگر خدا نخواستہ اسلام میں اپنا جواب نہیں پاتے تو کسی دوسرے مکتب کی طرف چلے جاتے تھے الہذا دین اپنے فرزندوں کے تحفظ کے لئے مجبور تھا کہ انقلابی اور مبارزانہ نظریہ پیش کرے۔ (۱۰۹)

جیسا کہ ہم نے اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ شیعی تفکر اور اسکے تاریخی تجربہ میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اپنے اندر کسی تغیری و اصلاح کے بغیر اس احتیاج کا جواب دے یا اس احتیاج کو پورا کرنے کے لئے وہ خلاف اجماع کوئی عمل انجام دے یا اپنی ظرفیت سے بڑھ کر توجیہوں اور ویلوں کا سہارا لے مخصوصاً قاعده اشورا لوگوں کے خون، احساسات اور عواطف سے خیر ہو چکا تھا۔ جس کا ہر لمحہ کارآمد اور ایک ایسے پیغام کا حامل ہے کہ جو ظالم اور فاسد حاکم خواہ کتنا بھی قوی ہو اس کا مقابلہ کرنا چاہئے اور اسے نابود کرنے کے لئے آخری سانسوں تک ایستادگی اور مقابلہ کرنا چاہئے۔ یہ واقعہ نسل جدید کی راہنمائی کے لئے ایک اہم منبع ہے کہ جس کے ذریعہ اس مشکل کو حل کیا جاسکتا ہے جدید نسل دوچار ہے۔ (۱۱۰)

لیکن اہل سنت کے درمیان ایسی کوئی صورت نہیں تھی۔ ان کے سامنے ایک طرف عصر جدید کا دباؤ اور جوانوں کی شیفہت اور پیاسی روح تھی کہ جو اپنے سیاسی، دینی اور انقلابی جواب حاصل

ہی کر کے تھی تو دوسری طرف ان کی فقہ اور کلام نیز تاریخ کے تجربہ عملی طور پر ایسی ضرورتوں کو پورا کرنے سے معدود و مجبور تھے کیونکہ مشکل بھی نظری اور خیالی اعتبار سے تھی اور عملی، تاریخی اور اجتماعی اعتبار سے بھی، سئی تفکر اپنے زیادہ سے زیادہ انقلابی شکل میں ہونے کے باوجود بھی بھی زبانی امر بالمعروف اور نبی از منکر کے دائرے سے وہ بھی اسلامی قدرتوں کے زیر نظر کبھی آگے نہیں بڑھی البتہ وہاں پر جہاں بادشاہ مسلمان ہو نیز طول تاریخ میں اہل سنت کی آزادو اور جوانہ مرد شخصیتوں میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے زمانہ کے ظالم حکام کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا اور مخلوق کی رضاایت کی خاطر خالق کے غصب کو نہیں خریداً ان کی دینا کی خاطر اپنا ایمان نہیں بیچا، حاکم کی شان و شوکت اور اس کا لامحہ دلانا نیز دھمکی دینا آنکھوں میں نہیں سماں کا بلکہ پوری صلاحیت اور اقتدار کے ساتھ ان کے توقعات اور آرزوں کے مقابلہ میں ڈٹے رہے، سلطان کی مرضی کے خلاف حق بات کہی اور تمام مشکلات اور سختیوں کو اپنی جان کے بدله خرید لیا۔ (۱۱)

اہل سنت کے عظیم اور بزرگ انقلابی یہی لوگ ہیں۔ ان میں یہ اخلاقی قدرت اور روحی توانائی پائی جا رہی تھی کہ وہ دنیا پرستوں اور دنیا کے مقابلہ میں اپنے ثبات قدم کا مظاہر کریں اور یہ امر دورانِ جدید کی ضرورتوں سے شدیداً متفاوت تھی، موجودہ دور میں یہ عوام امام حسین، زید ابن علیاً و دیگر امر بالمعروف اور نبی از منکر کرنے والوں اور شیعی شخصیتوں کی تلاش میں ہے جو دین و ایمان کی خاطر ظالم حکام کا مقابلہ کرے اور لوگوں کو ان کے عالی اہداف کی جانب دعوت دے، نہ ابن حنبل، سعید ابن مسیب اور دیگر محدثین جیسے لوگ جنہوں نے ایام الحجۃ

میں بڑی سختیاں کا ٹھیں لیکن پھر بھی اپنے عقیدہ پر باقی رہے۔ (۱۱۲)

حکام کے مقابلہ میں ان لوگوں کا انکار قبیلی اور قوی تھا نہ فعلی۔ البتہ انکار قوی بھی ان مقامات پر بہت کم تھا کہ جہاں اس سے مقصود صرف حاکم پر تنقید ہو۔ اس لئے کہ وہ انکار فعلی کو جائز نہیں سمجھتے تھے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے بیان کیا کہ امر بالمعروف اور نبی ازم نکر کے لئے ان کا اقدام کرنا بھی دکھاوے کے لئے نہیں تھا بلکہ وہ اپنے اعتقاد کے مطابق یہ کام کرتے تھے۔ لہذا اس میں زمانہ کے تحوالت و تغیرات کا کوئی دخل نہیں تھا اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا تھا، سنیوں کے سیاسی تفکر نے اس بات کو ایک اصل کے عنوان سے قبول کر لیا تھا کہ مسلمان حاکم کے سامنے قیام اور مسلحانہ مقابلہ کرنا جائز نہیں ہے خواہ وہ ظالم جابر اور جابر و فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ (۱۱۳) لیکن دور حاضر کی ضرورت کے علاوہ کوئی دوسرا چیز پوری نہ کر سکی۔

مسئلہ یہ نہیں ہے کہ موجودہ حکام کہ جن سے مقابلہ کے لئے سنی جوان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں گذشتہ ان کے جیسے حکام سے ظلم و ستم اور فسق و فجور میں بڑھے ہوئے ہیں اور ان اسباب کی وجہ سے وہ ایسی آرزوں کو اپنے دل میں لئے ہوئے ہیں بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ کلی طور پر اس دور کے حالات گذشتہ ادوار کے حالات سے کہیں زیادہ متفاوت اور جدا ہیں۔ گذشتہ ادوار میں ظالم و فاسق حکام کے مقابلہ میں کھڑے ہوتے تھے تاکہ سماج میں دین اور عدالت کو برقرار کر سکیں، عدل و دین کو قائم کرنے کی ضرورت کا اقتضاء یہی تھا۔ اور یہ امر اس بات کا مستلزم تھا کہ ان کے مقابلہ میں کھڑے ہوں اور اس راستے کے علاوہ ان کے سامنے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس لئے کہ سماج میں پیدا ہونے والے فسادات اور اخحرفات حاکم کی وجہ سے

تھے اور اجتماعی، سیاسی، فکری اور فرہنگی احتیاج کو پورا کرنے کے لئے ایک انقلابی اور کبھی مسلحانہ تفکر کو پیش کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، تاکہ اس کی روشنی میں جوانوں کو دین سے منحرف ہونے پر روکا جاسکے۔ (۱۱۴)

لیکن ہمارے دور میں یہ مسئلہ ایک دوسری شکل اختیار کر چکا تھا، اس دور کے حاکم یا یک بازیچہ یا مطیع یا کم از کم بڑی حکومتوں سے متعدد تھے۔ یہ حاکم دراصل نظام کو نہیں چلاتا تھا، بلکہ وہ ان دستورات کو جاری کرتا تھا کہ جو دوسروں کی طرف سے اس کے لئے صادر ہوتے تھے، لیکن گزشتہ ادوار میں حاکم ہی سب کچھ ہوا کرتا تھا، جو اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے مطابق حکم صادر کرتا تھا اور اس دور میں حقیقی قدرت کہیں اور تھی اور اس دور کے حاکم صرف اور صرف ایک مجری کی حیثیت رکھتے تھے اور بس۔ (۱۱۵)

اس کے علاوہ اس دور میں سیاسی، اجتماعی اور فرہنگی و نفسیاتی حالت بالکل بدل چکی تھی۔ اس دور کے نافٹنے بہ حالات و شرائط کے مقابل ہر مکتب ایک راہ حل پیش کرتا تھا اور ان میں سے ہر ایک اسے حل کرنے کی صلاحیت کا دعویدار تھا۔ ایسے حالات میں اسلام بھی خاموش نہیں رہ سکتا تھا، یہ راہ حل عموماً موجودہ حالت کے مطابق ہونا چاہئے تھا جس میں جوانوں کی مبارزہ طلبی اور انقلاب پسندی جیسی خصوصیات پائی جاتی ہوں، ایسی خصوصیات کہ جو تضاد و کشمکش سے بھر پور صنعتی شہری معاشرہ ہی میں اکٹھا ہو سکتی تھیں اور ایک واقعی نیاز کی صورت اختیار کر سکتی تھیں۔ (۱۱۶)

اگر ایسے دور میں اسلام اپنا راہ حل پیش نہ کرتا تو یہ مسلم تھا کہ یہ بھی اپنا اعتبار کھو بیٹھتا۔ اور کوئی

بھی دین اسی وقت اپنے اثر و رسوخ کو محفوظ رکھ سکتا ہے کہ جب وہ واقعیتوں اور ضرورتوں کے مقابلہ میں لا پرواہ نہ ہو، یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ دین کی شانستہ موقعیت فعال اور خلاق تبادل کی مر ہوں منت تھی، جب تمام مکاتب و ادیان بطور صحیح یا ناصح موجودہ حالت کی اصلاح کے مدعی یا اس کی جگہ ایک مطلوب اور صحیح صورت کو قائم مقام بنانے کے لئے پیش قدم نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے جوانوں کا بے شمار طبقہ ان کی طرف جذب ہوا جا رہا تھا، ایسی صورت میں اسلام خاموش رہ کر تماشائی بنانا نہیں چاہتا تھا۔ اس لئے کہ نہ یہ صورت ممکن تھی اور نہ ہی متددین و دیندار حضرات، علماء، دانشور، روشن فکر اور طالب علم کی دینی غیرت اور عہدائی اجازت نہیں دیتا تھا۔ (۱۱۷)

ان دو عاملوں کے علاوہ ایک تیسرا الزام آور عامل بھی موجود تھا اور یہ ایک عامل داخلی تھا، ان آخری دہائیوں میں اکثر مظاہر حیات تغیرات کے جال میں گرفتار ہو چکے تھے اور ایسی صورت میں یہ امر طبیعی تھا کہ اپنی شرائط کے مطابق روح و فکر اور شخصیت کی پرورش کرے۔ دوران معاصر کے جوان اپنے آباء اجداد کے ماحول اور فضائے بالکل الگ ماحول میں پلے بڑھے تھے، اس کی روح و شخصیت، ذہنی اندیشه، احساس، احتیاج، آرزو و ارماناں و فہم و اخذ نتیجہ دوران معاصر کے سریع التاثیر اجتماعی و اقتصادی اور فکری و سیاسی تحولات و تغیرات کی ضد میں تھے یہاں تک کہ فہم دینی بھی اپنی ممکن نوع التزام میں گذشتہ افراد کی فہم دینی سے متفاوت تھی، بلکہ وہ ایک دوسرے زمانے، تجربہ اور ضرورتوں کے فرزند تھے۔ (۱۱۸)

سیاسی، معاشرتی اور تاریخی اسباب کی بنیاد ہی شخصیت، روحی اور اصلی جلوہ گاہ، دینی اور سیاسی

مباحثت تھے۔ دینی فہم و شعور کے تحت نسل جدید اور اس سے پہلے والی نسلوں کے درمیان فرق مباحثت دینی کے سمجھنے میں ہے۔ اور چونکہ صورت حال ایسی تھی، اس سلسلہ میں اہل سنت کے تفکرات اپنے تمام ممکنہ ترقی اور جدت تفکر اس کا تعارف نہیں کر سکی، ان کے درست طرز تفکر جس کے شرائط دیگر زمانہ میں تمام ہو چکے تھے لہذا اس کے بعد کارآمد نہیں رہے مخصوصاً یہ بحث کہ جو اپنے ایک خاص مصراٹات کی حامل تھی، اہل سنت کی سیاسی فکر کا ایک عظیم حصہ اجماع پر قائم ہے اور یہ بات مسلم ہے کہ نسل جدید کے اعتراضات، اشکالات اور سوالات اور تقيیدوں کی تاب تحمل نہیں رکھتی اور نہیں لاسکتی تو عملی طور پر بہت سارے فرضی اصول اور مبانی بلکہ من گھڑت کا خانہ خراب کر دیا۔ (۱۱۹)

بہر حال ان عوامل و اسباب اپنے ساتھ دیگر نئے الزامات ضرورتیں پیش کیں۔ بنیادی مشکل یہ تھی کہ یہ ضرورتیں گذشتہ کی میراث اور ان کے افکار سے بالکل تکر اور رکھتی تھیں ایک عظیم اور وسیع فقہی اور کلامی نیز تاریخی اور حدیثی مجموعہ کہ اگر برفرض پورے طور پر حاکم یا حاکم نظام چارہ جوئی نہیں کر رہا تھا تو کم از کم اسے کمزور کیا جا رہا تھا وہ چاہتے تھے کہ اس کا کوئی جواب دریافت کریں انہوں نے پہلی بار اپنی پوری تاریخ میں حاکم کے سامنے جیت بلکہ دینی الزام کے ساتھ بیٹھیں اور گذشتہ تاریخ اور فقہا کے فتووں کے نمونے تلاش کریں تاکہ اس کی مدد سے ان کے قیام کی توجیہ کریں اور اُسے مشروعیت بخشیں اور ایسا ناممکن تھا کیونکہ واقعی ضرورت بھی ناقابل انکار تھی اور اعتقادی بنیادیں اور تاریخی تجربہ ایک دوسرے سے تضاد رکھتے تھے۔ ایسی ہی بھول بھلیاں نے اسے تھیوری اور راہ حل پر مجبور کیا کہ جس کا کوئی سابقہ بھی نہیں تھا اور

اسی حد تک اعتقادی کلیت اور اہل سنت کے متفق علیہ اور اجماع سے دور بھی تھا۔ سید قطب کی معالم فی المطريق نام کتاب میں ذکر شدہ تھیوریوں سے لے کر غیر معتدل گروہ کی انفارمکٹ الکتھیر والہجرۃ مصطفیٰ شکری کی کتاب نے عبدالسلام کی الفریضۃ الغائبۃ سے فرج حاصل کی الامارة والاطاعة والبیعت نامی تھیں کی کتاب تک سلسلہ جاری رہا ہے۔

معلوم نہیں ہے کہ آئندہ کن نظریات سے وابستہ ہونا ہے، کیوں یہ تمام نظریات کسی خاص اصول کے پابند نہیں ہیں تاکہ اسے دیکھتے ہوئے آئندہ حالات کی پیشین گوئی کی جاسکے۔ جو نکتہ اس مشکل کا راہ حل بن سکتا ہے وہ موجودہ شرائط اور جہادی را حل حاصل کرنے کا مبارزہ طلبیوں کی جانب سے دباؤ ہے نیز ان لوگوں کی ذہنیت ہے جو اپنی مشکلات کے سلسلہ میں فکر کرتے ہیں۔ ایک روز سماج کو جاہل معاشرہ سے مشاہدہ قرار دیتے ہوئے اس سے مقابلہ کو واجب سمجھتے ہیں اور دوسرے روز آنحضر صلی اللہ علیہ وآلہ ت کی سوانح حیات میں سے بعض پہلوؤں کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے اس بات کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کے ذریعہ جو ایسے معاشرہ سے کنارہ کش ہو گئے ہیں ان کی مدد سے سماج کو اسلامی بنائیں۔ کبھی ابن تیمیہ کے فتوؤں کا سہارا لیتے ہیں اور ایک ایسے معاشرہ سے مقابلہ کو واجب قرار دیتے ہیں۔ جس میں مسلمان رہتے ہیں اور قابل تکفیر نہیں ہیں لیکن بہر حال ظالم حکام اور ان کے طاغوتی قوانین اور نظم و نظام کے تحت زندگی گذر رہے ہیں اور کبھی حاکم کی جانب سے بیعت کے شرائط کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے اس کی مشروطیت کو ساقط اور اس سے مقابلہ واجب قرار دیتے ہیں۔ (۱۲۰)

ہم بخوبی مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہر ایک کا ایک ہی ہدف ہے لیکن اسے حاصل کرنے کے لئے ہر ایک نے ایسے راستوں کا انتخاب کیا جن میں کسی قسم کی کوئی مشاہدہ اور موافقت نہیں ہے۔ یہ صورت خود ہی ہمارے اس مدعای کی دلیل ہے کہ ایک طرف ناقابل تحلیل اور ناقابل تعدیل اور انحراف دباؤ پایا جاتا ہے جو خود ایک واضح اور قطعی جواب کا خواہاں ہے اور دوسری طرف اس کا کوئی راہ حل بھی نہیں ہے اور چونکہ صورت حال کچھ ایسی ہی ہے لہذا ہر ایک اس مشکل کی تمامیت کو منظر رکھے بغیر راہ حل کی تلاش میں مشغول ہے، اگر ہر ایک قرآنی آیات اور احادیث نیز تاریخی نمونہ کی روشنی میں کوئی حکم اخذ کرے تو اس صورت میں اس بات کا امکان ہے کہ اسے باطل کرنے کے لئے اسی قرآن اور روایات اور تاریخ سے اس کے برخلاف تھیوری سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ اسلام کے سلسلہ میں تمام وہ مطالعات جو اس کے اصول، مبانی، روح اور کلیست کو نظر انداز کرے اور اس کے مجموعہ اور بے بنیادوں سے سازگار نہ ہو تو وہ نادرست، ناقابل اعتماد اور دائم نہیں رہ سکتا ایسے صاحبان نظر اور ان کے نظریات کی مشکل اسی نکتہ میں پوشیدہ ہے۔ (۱۲۱) یہی وجہ ہے کہ ایسے نظریہ چند جوان کو چند دنوں تک اپنی طرف جذب تو کر لیتے ہیں لیکن کچھ ہی متوالی میں ناپید ہو جاتے ہیں۔ اس مسئلہ کو بہتر سمجھنے کے لئے بہتر ہے کہ ہم ان افکار کو تاریخی لحاظ سے موردمطالعہ قرار دیں۔

## اسلامی حکومت کی فکر

اہل سنت کی تاریخ میں اسلامی حکومت کی فکر اور اسے قائم کرنے کی کوششیں عتمانی خلافت کے

سقوط تک پہنچتی ہیں۔ آغاز اسلام سے عثمانی خلافت کے سقوط تک برابر اسلامی سر زمینوں پر اسی کے قوانین حاکم رہے بلکہ اہم تو یہ ہے کہ پوری تاریخ میں خلیفہ کا ہونا دینی و معنوی اعتبار سے ایک عظیم پشت پناہ ہوا کرتا تھا جو مسلمانوں کی تسلیم کا باعث اور اس نکتہ کی یاد دہانی کرتا رہا ہے کہ اسلام کے قوانین و ضوابط ان کی زندگی کے تمام شعبوں میں جاری و ساری رہے ہیں اور انہوں نے اس وظیفہ پر عمل بھی کیا ہے۔

عثمانی خلافت کے سقوط سے پہلے اسلام کی اپنی تاریخ میں، سیوطی کی تعبیر کے مطابق فقط تین سال مسلمان خلیفہ کے بغیر رہے ہیں۔ (۱۲۲) اس کوتاه مدت کے علاوہ اسلامی سر زمینوں پر کہیں نہ کوئی کوئی خلیفہ رہا ہے۔ یہ خود ہی اپنے مقام پر اسلامی نہ ہونے یا اس کے پائیدار ہونے کی فکر کو ختم کر دیا تھا تاکہ اس کے بعد ایسی حکومت کی بنیاد ڈالیں، اس کے علاوہ خود خلیفہ کا ہونا اس امر کا موجب تھا کہ اسے شرعاً اور وجوہاً مان لیا جائے، اس کے سامنے تسلیم اور اس کے فرائیں کے سامنے گردن جھکا دی جائے اور اس کی بیعت کی جائے، اس لئے کہ ان کی نظر میں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس کی گردن پر کسی امام یا خلیفہ کی بیعت ہو اس لئے کہ اگر ایسا نہ ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ (۱۲۳)

ان حالات میں مسئلہ، سیاسی تبیعت کا نہیں تھا بلکہ اس کے سامنے تسلیم ہو جانے اور اس کی بیعت کرنے کا مسئلہ تھا یعنی ایسا ہر گز نہیں تھا کہ وہ خلیفہ کے سیاسی نفوذ کے زیر سایہ زندگی گذاریں، اٹھارویں صدی کے اوآخر کے بعد جب عثمانی خلافت میں بڑی تیزی سے انتظام اور ضعف پیدا ہو گیا تو اکثر مسلمان استانبول میں مستقر خلیفہ کے ماتحت نہیں رہ گئی تھے اور

اس کے بعد سے اس نے اپنی گذشتہ شان و شوکت، قدرت اور افتخار سے ہاتھ دھولیا تھا۔ ان تمام نقصانات کے باوجود اس کی دینی عظمت رسمی اور قانونی حیثیت سے مانی چکی تھی اور اس کی بیعت کو ایک عظیم فریضہ سمجھتے ہوئے انجام دے چکے تھے۔ (۱۲۴)

## خلافت کا اختامہ

عثمانی خلافت کا سورج ۱۹۲۴ء میں ترک جوانوں کے ذریعہ غروب ہو گیا۔ مسلمانوں کے لئے خلاف تو قع ایک عظیم سانحہ تھا۔ سارے مسلمان اس بات کا احساس کرنے لگے کہ ان کا عظیم پشت پناہ چل بسا ہے اور سب سے اہم فریضہ ترک ہو گیا ہے، اب ان کے لئے خلیفہ کے بغیر تین اور اعزاز کے ساتھ مسلمان ہو کر زندگی گذارنا دشوار۔ اس وقت عثمانی خلافت کے زوال سے جواہسات اور ہیجان عثمانیوں میں پیدا ہوئے بطور نمونہ ملک اشعراء شوقيہ کے اشعار کی طرف رجوع کرنے سے بخوبی اندازہ ہو گا۔ (۱۲۵)

عثمانی خلافت کے گرتے ہی عالم اسلام بالخصوص مصر میں جو تغیرات اور تبدیلیاں وجود میں آئیں، اس کی طرف ایک اشارہ کرنا ضروری ہے۔

مصر میں اس دور کے مشہور و معروف حوادث میں سے خلافت کی تشکیل کے لئے مجمع عام اسلامی کے عنوان سے ایک دائیٰ کمیٹی کی تشکیل تھی۔ کہ اس نے الخلافۃ الاسلامیۃ کے عنوان کے مجلہ (رسالہ) بھی نکالا۔ اس کمیٹی کا ہدف یہ تھا کہ اسلامی ممالک میں موجود حاکموں میں سے کسی ایک کو خلیفہ کے عنوان سے انتخاب کر لیں۔ (۱۲۶) اس کمیٹی اور اس کے مجلہ کے

علاوہ بہت سی علمی محققوں میں امامت و خلافت کے عنوان سے بحثیں ہوتی رہیں۔ اس بحث و گفتگو کا نجام یہ ہوا کہ اشارہ بلکہ قاطعیت کے ساتھ اس بات کا اعلان کر دیا کہ اتنا ترک کے ہاتھوں عثمانی خلافت کا خاتمہ سے اسلامی سماج کی اسلامیت ختم ہو گئی ہے اور تمام مسلمان خطا کار ہیں یہاں تک کہ کسی دوسرے خلیفہ کی بیعت کریں، یہ گناہ اپنے اخروی عذاب کے باوجود دنیاوی عذاب میں گرفتاری کا باعث ہو گا جو بہت جلد ہی ان تک پہونچے گا۔ اور یہ کہ مسلمان منصب خلافت کے ختم ہوتے ہی جاہلیت کی طرف پلٹ گئے ہیں اور جو بھی اس دور میں مرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔

اس موضوع کے تحت بے شمار مجلے مقامے اور فتوے منتشر ہوئے اور یہ بھی کہا: اس زمانہ میں بھی گذشتہ ادوار کی طرح امام کا نصب کرنا ہر ایک پر واجب ہیا اور تمام مسلمان ایسے امام کو منتخب نہ کرنے پر جس سے وحدت برقرار ہو جائے، تاحد ممکن گنہ گار بھی ہیں۔ اور اس دنیا میں جو کچھ اہل بصیرت جانتے ہیں عذاب میں بیتلہ ہوں گے اور آخرت میں بھی جو کچھ خدا جانتا اسکی وجہ سے عذاب کے مستحق ہوں گے... وہ جماعت کہ جس کی پیروی کا ہم کو حکم دیا گیا اسے اس وقت تک ہمیں مسلمان نہیں کہا جا سکتا جب تک اس کا کوئی امام نہ ہو اور اپنے ارادہ و اختیار سے اس کی بیعت کی گئی ہو... مسلمانوں کا امام ان کی حکومت کا نہیں بھی ہے اور ان پر واجب بھی ہے کہ اس کی عزت، قدرت اور شان و شوکت بڑھانے میں لگے ہوں۔ (۱۲۷)

عثمانی خلافت کے سقوط کے بعد بعض مسلمان مفکرین اور علماء کو رشید رضا کی تعبیر کے مطابق جس حد تک اس دور میں مسلمان خلافت کا احیاء کر سکتے ہیں اسی حد تک کوشش کریں (۱۲۸)

اس کے مطابق خلافت کو احیاء کرنے کے لئے ابھارا، لیکن بے شمار دلائل کی بنیاد پر انھیں یہ توفیق حاصل نہ ہو سکی۔ گذشتہ ادوار اور اس دور میں بہت بڑا فرق تھا، گذشتہ ادوار میں جب کسی موقع پر خلافت ختم ہو جاتی تھی تو دوسرے مقامات پر اسے احیاء کر دیا جاتا تھا۔ لیکن عثمانی خلافت کے خاتمہ کے بعد حالات بدل چکے تھے۔ تنہا مسلمان نہ تھے بلکہ غیر بھی اس امر میں دخیل اور مؤثر تھے اس لئے کہ ایسے حالات میں وہ بھی خاموش تماشائی نہیں بن سکتے تھے۔

اس کے علاوہ ایک نئی نسل پڑھی لکھی اور دانشور ظہور میں آچکی تھی۔ سیاسی اور اجتماعی اہم پوٹھیں انھیں کے ہاتھ میں تھیں۔ اس مسئلہ میں ترک جوانوں کی طرح سوچتے تھے وہ صرف خلافت کی بازگشت کی جانب مایل نہیں تھے بلکہ شدت سے اس کے خلاف بھی تھے، جیسا کہ مصر کا اخبار نویس اور سیاست داں محمد حسین ہیکل، بھی انھیں افراد میں سے تھا۔ اس نے عبد الرزاق کے افکار کی شدت سے حمایت کرتا تھا اور حکومت کے گرتے ہی اس کے دفاع کے عنوان سے کتاب فوراً بعد ہی منظر عام پر آگئی تھی، اس پر تقيید کرنے والے کے مقابلہ میں صفات آرائی کرتا اور خلافت کو احیاء کرنے والوں کو اپنی تقيیدوں کا نشانہ بناتا اور وہ اس طرح کہتا ہے: علماء اسلام میں سے اس عالم کے لئے کیا کہا جائے گا جو مسلمانوں کے لئے خلافت کے نہ ہونے کا خواہاں ہے اور وہ بھی ایک زمانہ میں کہ جس میں تمام مسلمان حکام خلیفہ بننے کی فکر میں ہوں۔ (۱۲۹)

اس سمیت دوران معاصر میں مصر اور اسلام کے مقابل روابط کو محمد حسین ہیکل کی سوائج حیات بیان کرتے ہوئے تحقیق و بررسی کرتا ہے: اس دوران مصر میں ہر ایک سیاسی، اجتماعی اور

اقتصادی تبدیلیوں سے متاثر تھا۔ ان میں سے ہر فرد ایک حد تک ۱۹۲۰ء میں مدنیت کی جانب سے ہونے والے ان اقدامات سے متاثر تھا جو اسلام اور مسلمانوں کی قدرت کو محدود کرنا چاہتے تھے ایسے اقدامات جو عبدالرزاق کی کتاب الاسلام و اصول الحکم نیز فی الشعر الباھلی طہ حسین میں منعکس ہو چکے تھے۔ (۱۳۰)

بہر حال حد درجہ کوشش اور بعض خلافت کے واجب شرعی ہونے کے پچ مقصد کے باوجود ناکامی سے دوچار ہوئی، خلافت کا دور ختم ہوا اور اسے دوبارہ احیاء کرنے کے لئے تمام کوششیں بے ثمر ثابت ہوئیں۔ مسلمانوں نے خلافت کو اپنی خواہش اور چاہت کے باوجود اس امر کو قبول کر لیا کہ اب خلافت کو دوبارہ احیاء نہیں کیا جاسکتا۔ اگرچہ اس وقت بعض اسلامی ممالک کے حکام اس عنوان کے لئے خود کو نامزد کرنے کے بارے میں وسوسہ میں مبتلاء ہوئے۔ لیکن ان وسوسوں کو زیادہ حیات نہ مل سکی اور اس خواب نے واقعیت کو اپنا قائم مقام بنادیا۔ اور یہ فکر فراموشی کے حوالہ کر دی گئی۔ (۱۳۱)

اس حادثہ کے ختم ہوتے ہی ایک دوسرا حادثہ وجود میں آیا اور پروان چڑھنے لگا اور وہ اسلامی حکومت کی فکر تھی کہ جو اکثر مذہبی علماء اور دانشوروں کی نظر میں اسلامی خلافت اور اس کے استمرار کے سوا کوئی چیز نہیں تھی۔ (۱۳۲) خلافت کے سقوط سے پہلے اس فکر کو کوئی مقام حاصل نہیں تھا۔ گذشتہ خلفاء اور سلاطین اگرچہ فاسق و فاجر تھے لیکن دین کے مقابلہ میں جس طرح وہ لوگوں کے درمیان رانج تھا نہیں آئے، حتیٰ کہ بہت سے موارد میں ان کے منافع کا اقتضاء یہی تھا کہ اس کی ترویج کریں۔ جس طرح سے کہ معاشرہ کی دینی واقعیت کے مقابلہ میں

خارجی یادا خلی اہم اسباب بھی واقع نہیں ہوئے۔ ہر شی ایک حد تک دین اور دینی میراث کے مطابق موافق تھی۔

لیکن زمانہ کے گذرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل گیا تھا۔ صنعتی، علمی اور فلکری تغیرات اور مذہبی محدود یتوں کا وسیع ہو جانا، پورے طور پر بیگانوں کا تسلط، بالواسطہ یا بلا واسطہ استعمار سے حکام یا صاحبان قدرت کا وابستہ ہونا، ان تمام اسباب و علل نے ایک جدید تغیراً بجاد کر دیا تھا گویا دین ہر طرف سے حملوں کا شکار ہے، یہاں اہم مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ یہ عثمانی خلافت اسلامی معاشرہ کی سیاسی، اجتماعی اور نظामی اسلامیت کا آخری مظہر درہم برہم ہو چکا تھا، بلکہ سب سے اہم تو یہ تھا کہ بنیادی اعتبار سے حالات بالکل بدل چکے تھے اور واقعہ اس وقت کے مسلمان اس بات کا احساس کر رہے تھے کہ ان کا سب کچھ لٹ چکا ہے۔ (۱۳۳)

ایسے حالات میں ایک دوسرے جدید مفہوم کی نگاہیں جی ہوئی تھیں اور وہ حکومت کا موضوع تھا۔ لیکن یہ کوئی نیا مفہوم نہ تھا۔ ہاں! اس کا اسی شکل میں محقق ہونا جیسا کہ قرن حاضر کے وسط میں واقع ہوا اور ایک دینی و سیاسی ہدف کی شکل میں ظاہر ہونا یقیناً ایک جدید مسئلہ تھا۔ اس مفہوم نے بڑی تیزی سے کثیر تعداد میں حامیوں کو اکٹھا کر لیا نیز اصلی اور قابل قبول اور متفقہ طور پر ایک سیاسی ارمان کا خلا اسلامی معاشرے کے سیاسی ارمان سے پڑ ہو گیا اس کے بعد بہت سے حوادث رونما ہوئے جو اسے عمومیت بخشئے اور محبوب بنانے میں نہایت مددگار ثابت ہوئے۔ (۱۳۴)

## مغربی قوانین کا نفوذ

انھیں حالات کے ساتھ ساتھ تیزی سے غربی قوانین اسلامی ممالک میں نفوذ کر گئے البتہ خلافت کے خاتمہ سے اس کا کوئی ربط نہیں تھا اس لئے کہ اگر عثمانی خلافت باقی بھی رہتی تو بھی غربی قوانین تمام اسلامی ممالک بلکہ خود ترکی میں نفوذ کر جاتے، بلکہ اس دور میں بھی ایک حد تک نفوذ کر چکے تھے۔ یہ اس دور کے مجموعی حالات کی وجہ سے تھا اور اس میں عثمانی خلافت کا کوئی کردار نہیں تھا اگرچہ بعض نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا لازم و ملزم قرار دیا ہے۔ (۱۳۵)

اس دور میں اسلامی ممالک میں رہنے والے تمام مسلمان اپنے محدود دعاشرہ میں بیدار ہو چکے تھے۔ بدلتے حالات، حد سے زیادہ دباؤ، غربیوں کے مقابلہ میں ناتوانی جیسے عوامل نے انھیں منتاثر ہونے اور عکس اعمال دکھانے پر مجبور کر دیا تھا، منکرین اور دین کے مخالفین، مغربی نظام اور اس کے قوانین اور فرہنگ و تمدن کے مدعی کھلم کھلانہ اس میدان کے شہسوار تھیا اور کوئی نہ تھا جو انھیں روکتا اور ان کی من مانیوں کے سامنے قیام کرتا، بلکہ کوئی ایسا بھی نہیں تھا جو اس طبقائی موج کا سامنا کرتا اور انھیں روکتا۔ (۱۳۶)

ایسے حالات میں یہ فطری بات تھی کہ اسلامی ممالک کے اساسی قوانین مغربی قوانین کے پرتو میں بنائے جائیں اور ان پر نظر ثانی کی جائے اور چونکہ تمام اسلامی ممالک آزادی خواہی کی اٹھنے والی موج کے ہمراہ تھی ایک جدید تاریخ میں قدم رکھ رہے تھے لہذا اس دور میں کوئی بھی

ہوتا تو اس کی نظر سب سے پہلے قانون اساسی پر جاتی، اب ایسے حالات میں مغربی قوانین کے علاوہ اور کون سے قوانین تھے کہ جس سے جدید قوانین اقتباس کئے جاتے۔ (۱۳۷)

یہ موضوع چونکہ توضیح طلب ہے لہذا ہم اسے جاری رکھتے ہیں، اسلام کی پوری تاریخ میں مسلمان جہان سوم میں جیزے والے انسانوں کی طرح ہمیشہ اپنے حکام کے ظلم و ستم کا شکار رہے ہیں ظلم و ستم اور استبداد کی سب سے بڑی خصوصیت قانون اور مخالفت ہے، جو کسی قانون کا نہ تو پابند ہوتا ہے اور نہ ہی کسی قانون کے سامنے تسلیم ہوتا اور اسے قانونی حیثیت بھی نہیں دیتا ہے۔ اب ایسے حالات میں انقلابات آتے گئے اور لوگوں کی آنکھیں کھلنے لگیں کان متوجہ ہوئے اور جب ان کی آنکھیں کھلیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہ نہایت بچھڑے ہوئے، سیاسی و اجتماعی اعتبار سے بدترین شرائط میں جی رہے ہیں۔ البتہ ان احساسات کو ہوادینے میں دانشمندوں کی نئی نسل نے بڑی کوششیں کی ہیں، اس وقت کے مسلمان ظاہری اعتبار سے اپنے سماج کا اس وقت کے مغربی ترقی یافتہ ممالک سے مقابلہ کرتے ہوئے اس نتیجہ پر پہنچ کر اور اپنی اس بدجنتی کا سبب سیاسی استبداد ہیا اور اس کا اصلی سبب حقوقی اور قانونی نظام کا فقدان ہے لہذا جس حد تک آزادی خواہی کی فکر کو ہوادے سکتے تھے دیا اور اپنے ہدف تک رسائی کے لئے قانون اساسی اور دیگر قوانین کی تنظیم و تدوین پر زور دیا۔

ان کی نظر میں پورے طور پر مشکل آزادی کے نہ ہونے اور استبداد کی حاکیت کی وجہ سے تھی کہ جس سے چھٹکارا اساسی قانون کا وجود تھا، ایسے حالات میں فطری طور پر تشفی بخش قانون و، ہی مغربی قانون تھے۔ (۱۳۸) شاید یہ ان کے انتخابوں میں ایک بدترین انتخاب تھا جسے

اسلامی سماج انجام دے سکتا تھا کہ جس کے بعد بے شمار ناگفتہ بے حالات کا سامنا تھا، ہم اس مقام پر اس انتخاب کے صحیح نہ ہونے کے سلسلہ میں گفتگو نہیں کرنا چاہتے بلکہ اہم تو یہ ہے کہ اس انتخاب کے بعد لاتعداد قوانین کسی احتیاج کے بغیر اسلامی ممالک میں پھیل گئے جبکہ اسلامی ممالک کو ان قوانین کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اگرچہ یہ مسلم ہے کہ اس دور میں کوئی قانون تدوین کرنے والا نہیں تھا لیکن کم از کم یہ ہے کہ اس کے منابع فقہ اور اسلامی قوانین ہیں ان کے پاس ضرور تھے۔ جن کی مدد اور سہارے اپنی مختلف مشکلات کو حل کر سکتے تھے جیسا کہ بعض اسلامی ممالک میں ایسا ہی ہوا۔ (۱۳۹)

بہر حال اسلامی ممالک میں نظام کو موجودہ صورت حال کے مطابق حقوقی اور قانونی نظام کو مارڈن انداز میں سنوارنے کا پہلا موقع تھا اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ یہ تجربہ مومن اور متدين حضرات کی عدم موجودگی میں انجام پایا اس لئے کہ وہ وحشت رعب و اور دبدبہ میں زندگی گذار رہے تھے اور دشمن کے لئے میدان کو خالی کر چکے تھے لیکن جب انھیں ہوش آیا تو دیکھا کہ بہت سے قانون اسلامی اصول و مبانی کے برخلاف اس کے باوجود اور اس کے مقابل جدید قوانین کے سامنے تسلیم ہیں۔

یہاں مناسب ہو گا کہ ولیم شیفرڈ کے نظریات کو بیان کریں، کہ کس طرح مسلمان تاریخِ جدید میں وارد ہوئے اور ان کے ساتھ کیا ہوا وہ کہتا ہے: یہ فوجی طاقت تھی کہ جس کی مدد سے پہلی مرتبہ اسلامی حکام تک تغییرات کو راستہ ملا، جسے اٹھارویں اور انیسویں صدی کی ابتداء میں ہند میں انگلینڈ کی فتوحات، روس کے ہاتھوں، ۷۴-۱۷۶۸ء کی جنگوں میں عثمانیوں کی شکست،

اگرچہ عثمانی دارالحکومت والے اسی صدی کے آغاز ہی میں مغربی نظام کی فوقيت و برتری کے پیش نظر اپنے سماج کو ایک حد تک مغربی شکل و صورت میں ڈھانے کے لئے قدم اٹھا چکے تھے۔ لہذا سب سے پہلے جنگیں اصلاحات موجب بنیں کہ جس کی وجہ سے عثمانی اصلاح طلب جدوجہد پر مجبور ہو گئے، لیکن جب یہ اصلاحات شروع ہو گئیں تو پھر جو حدود ان کے رہبروں نے معین کئے تھے اس میں محدود نہیں رہ سکتی تھیں۔ (۱۴۰)

اس کے بعد اپنے بیان کو اس طرح جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے: اگر عیسائی الہیات اس دنیا میں خدا اور اس کے افعال کی ماہیت کو معلوم کرنے کی تلاش میں تھی تو مسلمان فقہاء خداوند عالم کے ارادہ، قوانین اور شریعت الہیہ کو سمجھنے کی کوشش میں تھے کہ جس میں تمام انسانوں کے وظائف کو بیان کر دیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نئے حالات کے مطابق قوانین کو مخصوصاً اجتماعی و سیاسی اعتبار سے ڈھانے کیلئے تمام کوششیں ہو رہی تھیں لیکن الہیات پر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی، وہ تنک و شبہات کہ جسے غرب میں داروین نے ابھارا تھا اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا، جب کہ قرآن نے خلقت کے سلسلہ میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ کتاب مقدس کے مطابق ہے۔ (۱۴۱)

یہی وہ مرحلہ ہے جہاں اہل سنت کی حکومت میں اسلامی تحریکوں کی فکری آغاز کا سردباب ہو جاتا ہے اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے وضاحت کی ہے کہ ان کے نزدیک فقہ و کلام اور تاریخی تجربوں کی عمارت ایسی نہیں تھی جو ظاہری مسلمان حاکم کے سامنے قیام کی اجازت بس اتنا تھا کہ قلبی اعتبار سے ان کے سامنے تسلیم نہیں تھے، اس سے دور ہوئے اور اس کی

خدمت میں نہ رہیا اور یہ حد درجہ گستاخی تھی کہ اس کے سامنے زبان اعتراض کھولیں اور اس کی جانب سے ہونے والے مظالم اور بدعتوں اور زیادتیوں کے خلاف اقدام کریں، لیکن حاکم اور اس کے نظام کے مقابلہ میں کھڑے ہونے کی مختلف دلائل سے اجازت نہیں دیتے تھے کہ سیاسی اور نظامی اعتبار سے کوئی قدم اٹھائیں۔ اس زاویہ سے نظام حاکم کے خلاف اعتراض کرنا درست نہیں تھا اور نہ ہی اس کا کوئی راہ حل تھا لیکن دور حاضر میں غیر اسلامی قوانین کے ظہور کرتے اسے حاکمیت عطا کرتے ہی حاکم پر اعتراض کا ایک نیا باب کھول دیا کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام سنی ہم عصر تحریکوں کو موقع مل گیا کیونکہ یہ ایک نئی راہ حل تھی کہ جس نے انھیں حیات و فعالیت کا موقع فراہم کیا۔ (۱۴۲)

### شریعت کی مطابقت

ان کی نظر میں اسلامی معاشرے میں غیر اسلامی قوانین کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ سب کو اسلامی قانون تسلیم کرنا ہو گا اس لئے کہ تہایہ قانون ہے کہ جسے حاکمیت حاصل ہے، اس راہ میں جدو جہد ایک ایسا عظیم فریضہ ہے جس میں چون و چرا اور تغییر و تبدیل کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ وہی مفہوم ہے جسے بعد میں تطبیق شریعت کا نام دے دیا گیا۔ جس نے اپنی طرف انقلابی اور متدين اہل سنت کے افکار کو متوجہ کر لیا تھا اور جو تحریکیں اس غرض سے وجود میں آئی تھیں ان کی توجیہ کا موقع مل گیا۔ (۱۴۳)

موجودہ صدی کے اوآخر میں اہل سنت کی طرف سے جتنی تحریکیں اور قیام وغیرہ وجود میں آئے

ہیں وہ سب اسی ہدف کے پیش نظر تھے۔ ان کے نزدیک اسلامی حکومت یعنی وہ حکومت کہ جس میں اسلام کے تمام احکامات جاری و ساری ہوں۔ لہذا حکومت کو اساسی بنانا یعنی اسلامی قوانین کو انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام مراحل اور شعبوں میں جاری کرنا اور انھیں حاکمیت عطا کرنا پس یہ ایک ایسی فکر ہے کہ جو خود ہی اصلاحی ہے نہ کہ انقلابی۔ جو موجودہ نظام کی ضد نہیں ہے بلکہ موجودہ قوانین کے خلاف ہے۔ اس کا ہدف صرف قوانین کو بدل دینا ہے نہ کہ حاکم کو بدلنا مقصود ہے اور اگر حاکم وقت قوانین کے بد لئے پر راضی ہو جائے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اور اس کی بقا کے ساتھ قوانین کی تغیری قبل قبول ہے۔ اور اگر موجودہ قوانین کے دفاع میں عوام کے سامنے ہٹڑا ہو جائے اور کسی بھی صورت میں اس کی تغیری کو قبول نہ کرے تو اس صورت میں اس بات کا امکان ہے کہ اسکے خلاف قیام کا فتوادے دیا جائے۔ (۱۴۴)

اس تحریک کا اصلی ہدف اور مقصد سماج کے حقوقی اور قانونی نظام کے ذریعہ اسے اسلامی بنانا ہے۔ نہ کہ سیاسی حاکمیت کی تبدیلی کی آڑ میں اسے اسلامی بنانا مقصود ہے۔ یہاں اصل مشکل اس تغیری کے لئے حاکم کی رضايت ہے اور اگر وہ خود ان تغیرات کو انجام دے تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے، اسی نظریہ کے مطابق سعودی حکام اور دوسرے حکام ۸۰ء میں کہ جس میں اسلام خواہی اپنے اوچ پتھی، اپنی شریعت کی تطبیق کرنے لگے، پاکستان میں ضیاء الحق نے، سوڈان میں نمیری نے اور مصر میں سادات نے اور دیگر خلیج فارس کے شیوخ نشین مقامات مطلوب ہیں۔ (۱۴۵)

البته یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ طرزِ تفکر چالیس پچاس سال پہلے کہ جب غیر اسلامی قوانین راجح اور غالب تھے، اگرچہ وہ ایک اصلاحی تفکر کی حیثیت سے جانا جاتا تھا لیکن اس دور میں اسے ایک انقلابی تفکر مانا جاتا تھا۔ لیکن یہی تفکر آج کے دور میں کہ جس میں حالات پوری طرح بدل چکے ہیں اور جوانوں کی نفسیاتی اور مذہبی آرزوں کی اور رجحانات دگرگوں ہو چکے ہیں، ایسے حالات میں ان کی جہادی اور انقلابی روح کو سیراب نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ یہ لوگ اس دور میں اس تفکر کی ظرفیت سے کہیں زیادہ متوقع اور عظیم اہداف کو حاصل کرنے کی تلاش میں ہیں، یہ لوگ زندگی کے تمام شعبوں میں اسلامی قوانین اور اقدار کے جاری ہونے کے خواہاں ہیں۔ اور تنہا حیات اجتماعی میں قوانین اسلامی کی حاکیت کے قائل نہیں ہیں کہ شریعت اپنے قوانین کو اجتماعی امور سے مطابقت دے، اہل سنت کی حکومت میں موجودہ تحریکوں کی اصل مشکل اسی ایک نکتہ میں پوشیدہ ہے۔ دور حاضر میں ان لوگوں کے لئے فقہ و کلام میں جو چھوٹ ملی ہے وہ موجودہ نسل کی قطبی اور شدید ضرورتوں کو برطرف کرنے اور اس کا جواب دینے سے معدور ہے۔ (۱۴۶)

اسی محدودیت کی بنا پر اکثر اسلامی تحریکوں کے سربراہ خواہ وہ سید قطب ہوں یا عتبی یا عبد السلام فرج، ہر ایک نے اپنے لئے توجیہ کا باب کھول لیا ہے جو اہل سنت کے نزدیک گلی طور پر ان کے اصول اعتمادات اور اجماع سے اجنبی ہیں۔ ان سربراہوں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنے اعمال کی توجیہ میں قرآنی شواہد اور سنت نبوی کے علاوہ گذشتہ علماء کے فتاویٰ مخصوصاً بن تیمیہ اور ابن قیم کے نظریات کا سہارا لے کر ایک ایسے تفکر کو پیش کرنے کی

کوشش کی ہے کہ جو موجودہ حاکم کے خلاف قدم اٹھانے کو مشرع قرار دیتا ہے بلکہ اسے واجب بھی سمجھتا ہے۔ اگر سنی علماء یہ تفکرات کو شک و شہمہ کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں یہاں تک کہ اس کے دعویداروں، وضع کرنے والوں اور سربراہوں کو اعلانیہ طور پر خوارج کا لقب دیتے ہیں۔ تو یہ سنیوں کا طرز عمل اپنے تحفظ اور عافیت طلبی کے عنوان سے نہیں ہے بلکہ ان کے کلام و فقہ میں متفق علیہ اصول و مبانی پر اعتماد کے پیش نظر ہے اور انکا سہارا لے کر انہیں خوارج کہتے ہیں۔ (۱۴۷)

وہ لوگ کو جو کچھ کہتے ہیں وہ حق ہے اس لئے کہ قرآن و سنت، سلف صالح اور سیرہ صحابہ کہ جس پر تمام سنیوں نے زمان دراز تک عمل کیا ہے اور اسے درک کیا ہے انہیں مذکور رکھتے ہوئے ایسے نظریات کو قبول نہیں کیا جا سکتا، اس لئے کہ یہ نظریات قرآن و سنت اور سیرہ صحابہ سے نہایت مفرط ترین نتیجہ تھا جسے ان لوگوں نے حاصل کیا تھا۔ اگرچہ اس بات کا امکان ہے کہ ان لوگوں کے درمیان ایسے لوگ بھی رہے ہوں گے کہ جن کی نیتوں میں کھوٹ یا ان میں کسی قسم کی کوئی وابستگی ہوگی جب ہی ایسی بات کہتے ہیں حتیٰ کہ اس کا سہارا لیا بلکہ ایسا ہوا بھی ہے، اس دور میں سعودی اور وہابی علماء سی فکر کے طرفدار ہیں، بہر حال حقیقت جو بھی ہے، اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ اس کا قائل کون ہے یہ بات اپنی جگہ پر صحیح اور درست ہے۔ (۱۴۸)

یہ تھے چند نظری مسائل لیکن انکے علاوہ کچھ اور بھی مسائل ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ تاریخ معاصر میں سنی اور شیعی تحریکوں میں فرق صرف ان کے افکار و

نظریات میں نہیں ہے بلکہ اجتماعی اور نفسیاتی فکر میں بھی ہے۔ ہر ایک نے اپنے اصول اور خصوصیات کے مطابق نفسیاتی اور اجتماعی عمارت بنارکھی ہے۔ اور یہ فرق صدیوں کے دو متفاوت نظریہ تحریکوں کا نتیجہ ہے۔ لہذا حتیٰ عظیم اور وسیع تحریک میں بھی ان دو گروہوں میں اٹھیں گیں وہ سب انھیں دو متفاوت مجموعہ سے متاثر ہوں گیں اور حقیقت بھی یہی ہے اور جب کہ ایسا ہے تو پھر یہ موقع یجا ہے کہ ان تحریکوں کے اسلامی ہونے کی وجہ سے ان دونوں کے مظاہر اور ان کے اثرات یکساں ہونا چاہئے۔ یہ بات درست ہے کہ یہ دونوں تحریکیں اسلامی ہیں اور اسلام کو حاکیت عطا کرنے کو اپنا ہدف بنائے ہوئے ہیں لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ دونوں نظریات اسلام کی مختلف تفسیریں ہیں جواب تک چلی آ رہی ہیں اور ابھی بھی واقعیت وہی ہے جو پہلے تھی۔ (۱۴۹)

اہل سنت کی انقلابی اور اسلامی تفکر کی پہلی مشکل فقہی و کلامی محدودیت ہے کہ جو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ظالم حکام کے مقابلہ میں قیام کیا جاسکے اور دوسری طرف سرعت سے بدلتے ہوئے حالات ہیں بعض اسلامی ممالک میں جوان نسلوں کی اسلام خواہی نے انھیں جہاد اور مبارزہ کی دعوت دی ہے۔ یہی دو اسباب موجب بنے کہ جس کی وجہ سے اہل سنت کے علماء اور دین کے ولدادہ تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کی ہمراہی نہ کر سکے۔ (۱۵۰)

لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ حکام کا علمی و دینی مرکز پر قبضہ کرنا اور انکے استقلال کو سلب کر لینا نیز انھیں اپنی خدمت کے لئے مجبور کرنا بھی ایسے حالات کو وجود بخشنے میں موثر ہے ہیں۔ سنی ممالک میں صاحبان قدرت مخصوصاً عربی ممالک جو اسلامی تحریکوں کے عظیم مرکز ہیں وہ خواہ

تونس ہو یا مرکش، مصر ہو یا سوریہ یا سعودی عرب (عربستان) اور یمن، ان آخری دہائیوں میں ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ علمی و دینی مرکز اور تعلیم کو جدید اصول و قوانین کے تحت قرار دینے کے بہانے سے انھیں اپنے قضے میں لے لیں اور وہ اپنے اس ہدف میں ایک حد تک کامیاب بھی رہے ہیں، اہم یہ نہیں تھا کہ یہ تغیرات ان مرکز پر تسلط کا باعث بنے بلکہ اہم تو یہ تھا کہ وہ اپنی پایداری دینی اصالت اور علمی شمول کھو بیٹھے اور یہ روش ضرورت روزگار کے خلاف تھی جب کہ دینی ضرورتوں اور علمی و اخلاقی ضرورتوں کو اسی حد تک پورا کرنا واجب تھا کہ جتنا جیئے اور اس کے درکرنے کا محتاج ہیا اور یہ بات مسلم ہے کہ وہ لوگ جو مختلف میدانوں میں اسلام کی عظیم میراث سے بے خبر ہیں وہ اس دور کی مختلف ضرورتوں کا شاستہ جواب دینے سے قاصر ہیں۔ (۱۵۱)

یہ مشکلات ۱۹۶۰ء کے درمیان وجود میں آئیں اور ۱۹۷۱ء کے حالات نے انھیں عروج بخشنا اور پھر انقلاب اسلامی ایران نے اسے کمال تک پہونچایا، اصل مشکل اسلام کی ایک جدید تفسیر کی تلاش تھی جو انھیں انکے جہادی تفکر میں مددگار ثابت ہو سکے۔ انھیں اسلامی معاشرہ کی برقراری میں رہنمائی کرے اور ان سے کہے کہ اسلامی معاشرہ تک رسائی کے لئے کیا کرنا چاہئے اور کس طرح ان سے مبارزہ کریں، انھیں حالات میں ایک علمی و دینی، آگاہ اور قبل اعتماد شخصیت کی مدد سے قیام کر بیٹھے، لیکن اصل مشکل یہ تھی کہ انھیں قلت کا احساس تھا اور جو کچھ انھیں انجام دینا تھا اسے پورا کرنے کا ارادہ بننا چکے تھے کہ انھیں کیا کرنا ہے اور کیا حاصل کرنا ہے۔ ان کی مختصر معلومات ان سوالوں کا جواب بن گئی کہ جس کا جواب پہلے دیا جا چکا تھا

اور ہدف یہ تھا کہ ان کے جواب کے لئے تائید حاصل کریں۔ (۱۵۲)

ایسے حالات میں یہ جوابات پورے طور پر اسلامی نہیں ہو سکتے تھے۔ ہاں انھیں ایک اسلامی رنگ مل سکتا تھا اور چونکہ یہ جوابات جوانوں اور طالب علموں کے اعتقادات و افکار اور نفیسیات کے مطابق تھے لہذا انھیں تیزی سے اپنے طرف جذب کر لیا اور انہوں نے اسے ایک اسلامی راہ حل سمجھ کر قبول بھی کر لیا۔ لیکن اس میں دو ایسی بنیادی مشکلیں تھیں کہ جس کی وجہ سے بدلتے حالات کا مقابلہ کرنے اور اسے دوام بخشنے سے عاجز تھا۔ ایک نظریہ کی میزان مقاومت بالخصوص انتقلابی اور جنگجو افراد کے نظریات، زمانہ کے حوالہات کے مقابلہ میں اسی وقت ٹھہر سکتا ہے جب دور حاضر میں پیش آنے والی مشکلات کا جواب دینے پر قادر، منسجم اور اصول و قوانین پر قائم ہو، لیکن یہ فکر ایسی خصوصیات سے عاری اور خالی تھی۔

## چوتھی فصل کے حوالے

(۱) اس طرز تفکر کے عملی نمونہ کتاب العواصم ابن عربی اور مخصوصاً محب الدین خطیب کے حواشی میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ دونوں کہ جہاں تک ان لوگوں کی خطاؤں کی توجیہ و تفسیر کرتے ہیں جو ان سے دفاع کرتے ہیں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ عملی طور پر واقعیت کو معیار قرار دیتے ہیں، ان لوگوں کی نظر میں عدالت وہی ہے جو اپنی ابتداء سے تھی نہ یہ کہ کوئی عظیم مفہوم ہے کہ جسے موجودہ صورت حال سے مطابقت دے۔

آپ زیاد کی طرف سے معاویہ کے تعارف کو ملاحظہ کریں جس میں صرف اور صرف ایک سیاسی پہلو ہے اور اس کی قدرت کو دوام بخشا منظور ہے۔ الجو ہر لغیس فی سیاست الرئیس ص ۷۳۔

مثلاً آپ ابن عربی جو معاویہ کا دفاع کرتا ہے کی توجیہ کا مطالعہ کریں جب کہ اسی نے ابن عدی کے قتل کا حکم دیتا ہے کہ جس پر ہر ایک نے اعتراض کیا یہاں تک کہ عائشہ نے بھی اعتراض کیا اعلیٰ و بنوہ ص ۲۱۹ پر ابن عربی کی توجیہ کو ملاحظہ کریں: اگر یہ مان لیا جائے کہ ابن حجر کو قتل کرنا ظلم تھا مگر یہ کہ قتل کا موجب فراہم ہو جائے تو میں کہوں گا: اصل یہ ہے کہ امام کا قتل کرنا حق ہے اور جو اس قتل کے ظلم ہونے کا قاتل ہے اسے اپنے اس مدعای ثابت کرنا ہو گا اور اگر یہ ظلم تھا تو پھر معاویہ پر تمام گھروں میں لعنت کرنا چاہئے تھا۔ جب کہ بغداد جو عباسیوں کی خلافت کا مرکز تھا اور امویوں سے ان کی رقبہت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی بغداد کی

- مسجدوں کے دروازوں پر یہ جملہ لکھے ہوا ہے آنحضر صلی اللہ علیہ وآلہ ت کے بعد بہترین لوگوں میں ابو بکر پھر عمر پھر عثمان پھر علی اور پھر خالا المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ ص ۲۱۳۔
- (۲) اس طرح کے فکری نمونہ ابن تیمیہ، ابن قیم اور ابن حنبل کے نظریات اور آثار میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ السیاستہ والشریعتہ ص ۲۱۹؛ اعلام الموقعین، ج ۳، ص ۳۔ الاحکام السلطانیہ اور نیز گذشتہ فصل کی ۴۵ ویں توضیحات کو ملاحظہ کریں۔
- (۳) المواقف فی علم الاصول ص ۳۲۳
- (۴) مزید وضاحت کے لئے من العقیدۃ الی الشورۃ نامی کتاب، ج ۱، ص ۳۱۔ ۴۱ کے مقدمہ ملاحظہ ہو۔
- (۵) ملاحظہ کریں۔

#### 5..2,ppAmir H.Saddiqi Caliphate and kingship

- (۶) یہ بات شیعوں کے نزد یہی بھی قابل قبول ہے، رجوع کریں الشیعۃ والحاکموں ص ۷، ۸۔ اسی طرح الفکر السیاسی الشیعی ص ۲۶۸۔ ۲۷۱۔
- (۷) ابتو نمونہ مراجعاً کریں، عدالت کے سلسلہ میں امویوں کی تفسیر سے متفاوت مفہوم کے تحت غیلان مشقی کا ارمنستان کے لوگوں کو قیام کے لئے دعوت دینا۔ ذکر باب المعتزلہ ص ۱۱۶۔ اسی طرح عدالت کی برقراری کے لئے ہونے والے شیعوں اور معتزلہ کے قیام اتفاقاً ضات الشیعۃ ص ۹۷۔ ۱۱۰۔
- (۸) مطلوب حاکم اور حاکم کے مطلوب نظام نیز یہ کہ عدالت کو اس کا مقام نہیں مل سکا ہے جو

ہونا چاہئے الہذا اہل سنت کے مضبوط اور پختہ افراد کی پریشانیوں کو دریافت کرنے کے لئے مناقب الامام احمد ابن حنبل ص ۴۳۸، اسی طرح طبقات الحنابلہ ج ۲، ص ۳۱ ملاحظہ ہوا اور کس طرح یہ لوگ عمر ابن عبدالعزیز کی طرح متکل جیسے فاسق و فاجر، ظالم و جابر سفاک اور ستمگر کی صرف اس وجہ سے تعریف کرتے ہیں کہ اس نے بدعتوں کا مقابلہ کیا تھا۔

(۹) تحقیقت تو یہ ہے کہ شیعوں کے عقائد کا تمام پابندیوں کے باوجود سماج میں انفوڈ اہل سنت کے عقائد سے کہیں زیادہ ہے کہ جس سے صرف اور صرف موجودہ حاکمیت ہی نے فائدہ اٹھایا ہے۔ من العقدۃ الی الشورۃ ص ۱، ۲۶۔

(۱۰) معزلہ کی مذمت اور تعریض نیزان کے اعتقادات کو شکل دینے سے متعلق اہل سنت کی پریشانیوں کو طبقات الحنابلہ ج ۲، ص ۳۱، ۳۰ اسی طرح کتاب الابانیہ عن اصول الدینۃ ص ۱۳، ۱۶ نامی جیسی کتابوں میں ملاحظہ کریں

(۱۱) فقہ السنۃ ج ۱، ص ۲۰۹ و ۲۱۰ الحجی ج ۴، ص ۲۱۳، ۲۱۴ اور اس سلسلہ کی تفصیل کو الجمہد و خاتمۃ المقصد ج ۱، ص ۱۴۷، ۱۴۸ کے آغاز میں ملاحظہ کریں۔

(۱۲) اس سلسلہ میں امام باقر سے نماز جماعت کے بارے میں کئے گئے سوال کی کیفیت کو معلوم کرنے کے لئے وسائل الشیعہ ج ۵، ص ۳۸۱ حدیث نمبر ۵ نیز ص ۱۳۷۷ اسی طرح مستدرک وسائل الشیعہ ج ۶، ص ۴۵۷ ملاحظہ کریں۔

(۱۳) حنابلہ نماز جماعت میں شرکت کو واجب سمجھتے ہیں۔ الفقه علی المذہب الاربعة ج ۱، ص ۳۷۵ نامی کتاب ملاحظہ ہو، ظاہر یہ فرقہ بھی مکلفین پر نماز جماعت کو واجب سمجھتا ہے

بدایتہ الحجہ ج ۱، ۱۴۳ء۔

- (۱۴) غیبت کے زمانے میں نماز جماعت و جمود کے جواز کے قائلین کی دلیلوں کی رد جامع المقاصد نامی کتاب کی ج ۲، ص ۳۸۰، ۷۴ ملاحظہ ہو نیز کتاب رسالت صلوٰۃ الجموعۃ حیدر ابن المولیٰ محمد الدزوفی، شیخ انصاری کی تقریظ کے ہمراہ اسی طرح رسالت فی صلوٰۃ الجموعۃ کرکی، کو کتاب رسائل الحجۃ الکرکی ج ۱، ص ۱۱۷، ۱۴۰ ملاحظہ ہو۔
- (۱۵) کنز العمال ج ۷، ص ۵۸۱ و ۵۸۲۔

- (۱۶) ابو بکر کی پیش نمازی باعث بنی تھی کہ جس کی وجہ سے حسن بصری، ابن حزم اور اہل حدیث کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہو گئی کہ ابو بکر کی خلافت منصوصاً و آنحضر صلی اللہ علیہ وآلہ ت کی سفارش اور تائید سے تھی معالم الخلافۃ فی الفکر السیاسی الاسلامی ص ۱۳۳۔
- (۱۷) مزید وضاحت کے لئے البدرا الزاهری صلاۃ الجموعۃ والمسافر ص ۶۔ ۸ ملاحظہ ہو۔
- (۱۸) رسائل الحجۃ الکرکی، ج ۱، ص ۱۴۴۔

(۱۹) Shorter Encyclopaedia of Islam, p.350

(۲۰) الامامة والسياسة، ج ۱، ص ۴، فقه السنّۃ ج ۱، ص ۲۰۹

(۲۱) 50,P, Vol 2nd, Goldziher Muslim Studies

(۲۲) عيون الاخبار، ج ۲، ص ۲۸۲

(۲۳) گذشتہ حوالہ، ص ۲۸۱

- (۲۴) اس مسئلہ پر اہل سنت اور شیعوں کا اجماع ہے کہ آنحضر صلی اللہ علیہ وآلہ ت نماز

جماعت سے اعراض کرنے والوں کو سرزنش ہی نہیں بلکہ تمدید بھی کی ہے اور ڈرایا بھی ہے،  
کنز العمال ج ۷، نماز جماعت میں شرکت کرنے کے وجوہ کے باب میں، ص ۵۸۲  
۵۸۱۔ نیز نماز جمعہ میں شرکت کے وجوہ کے باب میں، ج ۵، ص ۳۷۶، ۳۷۷ نیز جامع  
المدارک ج ۱، ص ۴۸۹، کہ جو منقول ہے الشهادات وسائل الشیعیة نامی کتاب سے۔

(۲۵) اس مسئلہ میں عباسیوں کی روشن بھی امویوں کی جیسی تھی کہ جو کچھ نماز جماعت و جمع  
سے مربوط تھا اسے اپنی ذات سے مخصوص کر لیا تھا خلفاء عباسی کے آشکار ترین دینی مظاہر  
سیادت میں ایک یہ تھا کہ پنج گانہ نمازوں کے اوقات میں ان کے گھروں کے سامنے طبل بجا یا  
جاتا تھا تاکہ اس کے ذریعہ نماز کے وقت کا اعلان کریں، یہ عمل صرف اور صرف خلفاء سے  
مخصوص تھا اور کسی دوسرے بلکہ ولی عہد کو بھی یہ اجازت نہیں دی جاتی تھی کہ اپنے گھر کے  
سامنے طبل بجا سکیں تاکہ اس مظہر سیادت میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا خلیفہ کا شریک نہ ہونے  
پائے۔ نظام الوزارت فی الدوّلۃ العباسیۃ محمد سفر الزہرانی کی تحریر کردہ کتاب ص ۲۶ جو کہ ابن  
جوزی ج ۷، ص ۱۹۲ لمنتظم نامی کتاب سے منقول ہے۔

(۲۶) فقہ السنن ج ۱، ص ۲۷۲، مؤلف شعبی کے بقول اس طرح نقل کرتے ہیں: جب معاویہ  
کا پیٹ بڑا ہو گیا تو وہ نماز جمعہ کے خطبہ کو کھڑے ہونے کے بدله بیٹھ کر دینے لگا۔ اس مطلب  
کو کتاب وسائل الشیعیة ج ۵، ص ۳۱، حدیث ۱، سے مقایسہ کریں۔

(۲۷) امامت کے سلسلہ میں فاسق اور بدعتگزار کی امامت اور اس مسئلہ میں مذاہب اربعہ  
کے نظریات کے لئے الفقه علی المذاہب الاربعہ نامی کتاب کی ج ۱، ص ۴۲۹ ملاحظہ کریں۔

- (۲۸) وسائل الشیعہ ج ۵، فاسق کی اقتدا کی حرمت کے باب میں ملاحظہ کریں، ص ۳۹۲، ۳۹۵۔
- (۲۹) وسائل الشیعہ ج ۵، ص ۳۸۱، ۳۸۲۔
- (۳۰) بطور نمونہ الفصل فی الملل والادوائے والخل، ج ۴، ص ۸۷، نیز اعلام الموقعین ج ۱، ص ۴۸۔
- (۳۱) البدرا الزاہر، ص ۷، ۸ نیز مسن العقیدۃ الی الشورۃ، ج ۱، ص ۲۲ و ۲۳، جس میں حاکم کی طرف سے نماز جمعہ و جماعت کے امام کے منصوب ہونے کی کیفیت اور ان دونوں میں متقابل روابط کی تقدیمہ انداز میں تحقیق و بررسی کی گئی ہے۔
- (۳۲) الائمة الاربعة ج ۴، ص ۱۱۹، ۱۲۰۔
- (۳۳) الحجی ج ۴، ص ۲۱۴۔
- (۳۴) الحجی ج ۴، ص ۲۱۳۔
- (۳۵) سابق حوالہ ص ۲۱۴۔
- (۳۶) مجمٌ لفقی الحسنی الجزء الثانی، ص ۵۷۵ نیز الابانۃ عن اصول الدین ص ۲۳۔
- (۳۷) وسائل الشیعہ ج ۵، ص ۳۷۲ حدیث ۹۔
- (۳۸) اموی خلفاء اور ان کے عمال کا دین سے بے گانہ ہونے اور دوری کا اندازہ اس نمونہ سے ہو سکتا ہے: بعض اموی خلفاء کی جانب سے طارق مدینہ کا حاکم تھا، میں نے اسے دیکھا کہ اس نے کھانا منگوایا اور اسے منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ پر تناول کیا، اس کے کھانے میں

ایک مغزدار ہڈی تھی، وہ ان ہڈیوں کو منبر رسول پر توڑتا اور اس کے مغز کو کھاتا۔ عيون الاخبار ج ۲، ص ۴۶۔ جب مدینہ کے حاکم کا یہ حال ہے تو پھر دوسرے شہروں میں منصوب والیوں اور حکام کا کیا حال ہو سکتا ہے۔

(۳۹) یہ شرکت نہ تنہا حاکم کی مشروعیت کو قبول کرنے کے معنی میں تھی بلکہ حاکم سے مربوط تمام امور کو قانونی قبول کرنے کے معنی میں بھی تھی۔ بطون نمونہ مدینہ کے حاکم سعید ابن مسیب کے نظریہ کو وفیات الاعیان ج ۲، ص ۱۱۷ پر ملاحظہ کریں۔

(۴۰) المصنف، ج ۲، ص ۱۴۸۔

(۴۱) السیاست الشریعیة ص ۴۲۔

(۴۲) آپ اسی سلسلہ میں دین کے بھیں میں دنیا طلبی اور مفاد پرستی کے نمونہ مشاہدہ کر سکتے ہیں جو صدر اعظم سلطان سلیمان قانونی، لطفی پاشا کو امامت و خلافت کے درجہ تک لے جانا چاہتا تھا: وہ اپنے رسالہ خلاص الاممۃ فی معرفۃ الائمه میں سلطان سلیمان کو ان القاب سے نوازتا ہے: امام زمان، رسول خدا کا جانشین، اسلام کا مدافع، دین خدا کا قدرت مند حامی، مسلمانوں کا سلطان، کافروں کے منہ میں لگام لگانے والا، عادل پیش نماز، شریعت کے قوانین برقرار کرنے والا، نیز ایسا شخص جو برکت الہی اور انسکی سعادت سے بہرہ مند ہے اور خدا کے الطاف اور اس کی بے کراں عنایتیں اسکے ساتھ ساتھ ہیں، یہ تمام باقیں اس دنیاوی موقعیت کی تقویت تکمیل کے لئے دین سے فائدہ اٹھانے کے عنوان سے ہے۔ مجلہ دانشگاہ ادبیات و علوم انسانی دانشگاہ مشہد، شمارہ مسلسل ۵۷، ۲۵۸، ص ۷۔ ۸۔

(۴۳) الاسلام بین العلماء والحكام، ص ۱۳۳، ۱۳۸۔

(۴۴) الحکای، ج ۴، ص ۲۱۴۔

(۴۵) فقہ السنۃ، ج ۱، ص ۲۰۹، ۲۱۰۔

(۴۶) الحکای، ج ۴، ص ۲۱۴۔

(۴۷) وسائل الشیعیة، ج ۵، ص ۳۸۳، حدیث ۹۔

اس مطلب کی تائید مسند رک وسائل الشیعیة ج ۶، ص ۴۵۶۔ اور العواصم والقواصم ج ۳،

ص ۴۲، ۴۴، ۲۴۴۔ جس میں اہل سنت کے تمام اسناد ذکر کئے گئے ہیں دریافت کریں۔

(۴۸) من العقيدة الی الشورۃ۔ ج ۱، ص ۲۶۔

(۴۹) الاتفاضات الشیعیة عبر التاریخ، ہاشم معروف الحسینی، ص ۱۰۹، ۸۰۸، ۱، جو کتاب و عاذ

السلطانین سے منقول ہے۔ جس میں سنیوں کی پانداری اور باقی رہنے کو بدون تعصب بیان کیا گیا ہے رجوع کریں، ۱۰۹، ۱۱۰۔

(۵۰) بطور نمونہ کنز العمال، ج ۷، ص ۵۹۱، ۵۹۷ ملاحظہ ہو۔

(۵۱) الاقتصاد في الاعتقاد، ص ۲۰۶، ۱۹۷، نیز فاتحۃ العلوم ص ۱۱ اسی کتاب سے ملاحظہ ہو۔

(۵۲) السياسة الشرعية، ص ۲۳۔

(۵۳) ادب الدنيا والدين، ماوردی، ص ۱۱۵۔

(۵۴) مقدمة ابن خلدون، ص ۰۸۰۔

(۵۵) طول تاریخ میں مسلمانوں اور عیسائیوں اور ان کی ایک دوسرے کے دین کی تفسیر کے

سلسلہ میں رقبابت جو آج تک باقی ہے، اطلاع کی خاطر نقد تو طبعہ کتاب آیات شیطانی اور مخصوصاً ۹۶ صفحہ ۱۶۲ The Legacy Islam pp, ۱۸۵، ۲۰۲۰ء مصروفون اسلام کا آج تک باقی رہنا اور مسلمانوں کی تفسیر کی بُنیت انتقاد کے لئے ملاحظہ ہو پیا ممبر فرعون ص ۱۰۶۔ ۱۲۰۔ در جہان معاصر ص ۱۰۶۔ ۱۲۰۔

(۵۶) (الامام زید محمد ابوھرہ، ص ۹، ۱۰۸، ۱۰۹)

(۵۷) چونکہ عیسائیت اسلام کو گذشتہ ایام میں ایک الہی مذہب کے عنوان سے قبول نہیں کرتی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافروں کے زمرہ میں سمجھتے تھیا اور ان کے لئے دینی اور غیر دینی کسی بھی قسم کے حقوق کے قائل بھی نہیں تھے۔ ایک اندرس کے عیسائی کے قول جو مسلمان ہوا تھا کہ اس نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے جو کہ، ق، ۸۲۳، ۱۴۲۰ء میں لکھی تھی یوں بیان کرتا ہے کہ: اندرس کے بنو نیہ نامی شہر میں ایک مسلمان جو اپنی جان بچانے اور اپنے وطن میں رہنے پر مجبور ہو گیا ہذا اس نے اپنے اسلام کو مخفی رکھا اور پادریوں کی جماعت میں شامل ہو گیا تھا اور خود کو نیقو لا اور مرتیل کہتا تھا۔ مجلہ دانشگاہ ادبیات و علوم انسانی دانشگاہ مشہد، شمارہ مسلسل ۵۷، ۵۸، ص ۹

میسیحیت نے جب ۱۹۵۰ء کے درمیان اپنا دوسرا اجلاس رکھا تو اس میں اسلام کو ایک الہی مذہب کے عنوان سے قبول کر لیا

The Conciliar and Post Conciliar  
42- Documents, PP, 738

. Islamic Futures,Ziauddin Sardar

لیکن آج بھی اسلام کے خلاف اپنی کینہ تو زیوں سے دست بردار نہیں ہوئے ہیں، بطور نمونہ، جوزف کراف کے مقالہ کی طرف جو وائٹلینڈ پوسٹ ۱۹۸۱ء میں کون پاپ کو قتل کرنا چاہ رہا تھا کے عنوان کے تحت شائع ہوا تھا ملاحظہ ہو۔

اسی طرح John Loffin The Dagger of Islam اس دشمنی کا سبب معلوم کرنے کے لئے آپ رجوع کریں اس کی طرف

, Islam and the west:The Making of an Image Daniel

ملاحظہ ہو 14-PP.

(۵۸) اسی مجلہ کا شمارہ ۵۶، ص ۷۵۳ ملاحظہ ہو۔

(۵۹) سابق حوالہ، ص ۷۵۳۔

(۶۰) سابق مجلہ، شمارہ ۵۷، ص ۱۱ اور ۵۸۔

(۶۱) واقعیت تو یہ ہے کہ شہروں اور مخصوصاً سرحدوں کی امنیت خلیفہ یا سلطان کی قدرت و طاقت کے ذریعہ پہلے زمانہ میں ایک اہم مسئلہ تھا جو بہت سے اہل سنت علماء کو ان کی حمایت اور ان کی قدرت کو بڑھانے اور اسے قوت پہونچانے کے لئے ایک دینی وظیفہ کے عنوان سے ابھارا۔ اس لئے ان کی نظر میں سلطان کی قدرت اور اس کی شان و شوکت اسلام اور مسلمین کی قدرت تھی جو اسلام کے دشمنوں غیروں اور کفار کے خل و تصرف کرنے سے مانع تھی۔

ہارون جیسے فرد کی موقعیت اور شان و شوکت کا سبب یہی ایک عامل تھا اگرچہ وہ ایک ظالم اور جابر شخص تھا کہ جس کے ظلم کی داستان کا ہزارو یک شب والی کتاب میں ایک گوشہ ہے بیان کی گئی ہے، بلکہ بہت سارے علماء اہل سنت کی نظر میں وہ مسلمانوں کی عظمت و قدرت اور قہروں سطوت کا مظہر تھا، جس کی وجہ سے ہر ایک اس کا احترام کرتا تھا اور اس کی تکریم بجالاتا تھا۔ وہ شہنشاہ روم سے مقابلہ کی طاقت رکھتا تھا۔ اور اسے اطاعت کے لئے مجبور کر سکتا تھا۔ اس واقعیت کو درج ذیل داستان سے بخوبی معلوم کیا جاسکتا ہے۔

۱۸۷ ق میں شہنشاہ روم نے ہارون کے نام ایک خط لکھا اور جو عہد نامہ روم اور ہارون کے درمیان منعقد ہوا تھا اسے فتح کر دیا، یہ عہد نامہ گذشتہ حاکم جو کہ ایک عورت تھی اس نے باندھا تھا، اس نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا کہ اس عہد نامہ کے مطابق جو اسکے سلف کے ضعف و حماقت بلکہ عورتوں کی خصلت میں سے ہے اب تک جو کچھ بعنوان خراج دیا ہے اسے لوٹا دیا جائے یا پھر جنگ کے لئے آمادہ ہو جائے۔ جب ہارون نے یہ خط پڑھا نہیاں غصبنا ک ہوا کہ کسی میں اتنی جرأت نہ تھی جو اس کی آنکھوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا یا اس سے بات کرتا، فوراً قلم و دوات منگوایا اور کہا کہ اسی خط کی پشت پر لکھو: بسم اللہ الرحمن الرحيم، ہارون امیر المؤمنین کی جانب سے نقور سگ روم کی نام! اے کافر عورت کے بچے! میں نے تیر اخط پڑھا، پس اس کا جواب ایسا ہو گا کہ تو اسے ضرور دیکھے گا نہ وہ ہو گا جو تو سنے گا۔ اور اسی روز اپنے لنگر کے ساتھ روم پر چڑھائی کر دی اور ایک گھسان کی جنگ کے بعد اس پر غالب آگیا اور شہنشاہ روم کو شکست دے کر اس پر اپنا خراج معین کر دیا۔ تاریخ اخلاقی،

ص ۲۸۸۔ ذکر محاسن کے باب میں اور بلکہ اس کے فضائل کہ جو اس وقت کے علماء کے تصورات کی عکاسی کرتے ہیں، اطلاع کی خاطر رجوع کریں سابق حوالہ کی طرف، ص ۲۸۳، ۲۹۷۔

اسی طرح نقل کرتے ہیں کہ ایک روز ہارون قرآن پڑھ رہا تھا کہ اس آیت پر پہنچا کیا یہ ملک مصر میرا نہیں ہے، کیا یہ نہریں میرے پیروں کے نیچے جاری نہیں ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے۔ فرعون کے یہ حملات دیکھتے ہی اس نے یہ جملہ کہ کہا اس کم ہمت اور خسیں انسان پر لعنت ہو جو ملک مصر میں خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، لہذا میں اسی مصر کو ایک ایسے والی کے حوالہ کروں گا جس نے میری خدمت ہر ایک سے کم کی ہو لہذا اس نے حمام کے مالک خصیب کو بلا یا اور مصر کی امارت اس کے حوالہ کر دی، خلعت و منشور کے ساتھ اسے مصر کی جانب روانہ کر دیا اور خصیب ایک ایسا شخص تھا جس میں مصر کی امارت کی الہیت تھی نیز اس کے دماغ میں نخوت اور ہمیت کا غبار تھا۔ اغراض السیاست فی اعراض الریاست، ص ۳۲، مضنکہ نیز تو یہ ہے کہ مؤلف ہارون کے اس عمل کو اس کی طبیعت کی بلندی اور عظمت شان تصور کرتا ہے لہذا ایسے طرزِ تفکر کا سابقہ جس کا اثر کافی عمیق اور گہرا ہو طولانی رہا ہے۔

(۶۲) الائمة الاربعة، ج ۴، ص ۱۱۹۔

(۶۳) اغراض السیاست فی اعراض الریاست، ص ۲۸۵۔

(۶۴) الاقتصاد في الاعتقاد، ص ۱۹۸، ۱۹۹۔

(۶۵) المواقف في علم الكلام، ۳۹۶، ۳۹۷۔

(۶۶) اس مطلب کی وضاحت کے لئے رجوع کیا جائے مصطفیٰ شکری کی صریح تقدیروں کی طرف جسے کتاب پیغمبر و فرعون میں ذکر کیا ہے، ص ۸۷، ۹۰۔ نیز عالمانہ تقدیم کے لئے مراجعہ کریں حسن حنفی کی کتاب من العقیدۃ الی الشورۃ کے مقدمہ کی طرف، ج ۱، ص ۲۰، ۳۲۔

(۶۷) الاحکام السلطانیۃ ابو بیعلی، ص ۲۱؛ الخلافۃ والا مامۃ، ص ۳۰۰۔

(۶۸) ایام الحجۃ میں امام حنبل اور ان کے ہم فکر ساتھیوں نے جو سختیاں جھیلی ہیں، ان کے متعلق معلومات کے لئے الائمة الاربعة ج ۴، ص ۱۴۰۔ ۱۸۰ نیز الخلافۃ والا مامۃ، ۳۰۰۔ ۳۰۹ کی طرف رجوع کریں بلکہ حکام کی طرف سے علماء نے جو سختیاں جھیلی ہیں ان کے متعلق معلومات کے لئے ہر ایک سے بہتر یہ ہے کہ کتاب الاسلام بین العلماء والحكام ص ۱۲۹، ۲۱۴، نیز کتاب مناقب امام احمد ابن حنبل ابن جوزی، ص ۳۹۷، ۴۲۰ کی طرف رجوع کریں۔

(۶۹) اگر یہ مان لیا جائے کہ نظام کی حفاظت دراصل حاکم کی حفاظت تنہا مصالح و مفاسد کی تشخیص دینے کا ضابطہ ہو تو ممکن ہے کہ اس کی حفاظت کے بہانہ دین اور عدالت سے انحراف اس درجہ بڑھ جائے کہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی بے حرمتی بھی کی جائے حضرت زہراء علیہا السلام کے مکان پر حملہ کیا گیا اور آپ کی بے حرمتی کی گئی، یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے کیا گیا کہ نظام اسلام باقی رہے اور امر خلافت میں کوئی خلل واقع نہ ہو نیز کسی میں خلیفہ کی مخالفت کی جرأت نہ رہے اور مسلمانوں کے اتحاد کو ٹھیس نہ پہنچے۔ شرح ابن ابی الحدید، ج ۲۰، ص ۱۶، اس نمونہ کے علاوہ دوسرے نمونے بھی بعد والے صفحات میں ملاحظہ کئے جاسکتے

ہیں، ان خلفاء کی تقدیم کے باب میں جو خلق قرآن کے قائل تھے، العواصم من القواسم، ۲۴۹، ۲۵۱ ملاحظہ ہو۔

(۷۰) الخلافۃ والامامة، ص ۳۰۱۔

(۷۱) یزید اور اس کے درباری علمائے سوء نیزان کے اخلاف نے بعد کے زمانے میں امام حسین اور ان کے چاہنے والوں کو نے یہ کہہ کر متمہم کیا کہ یہ لوگ دین سے خارج ہو گئے ہیں اور امام و خلیفہ کی مخالفت کے لئے قیام کیا ہے، لہذا ان سے جنگ کرنا چاہئے اور ان کا صفائیا کر دینا چاہئے۔ تاریخ طبری ص ۳۴۲ پر ملاحظہ ہو

(۷۲) اعلام المؤذین، ج ۳، ص ۳۳ اور ۴۔

(۷۳) بطور نمونہ کتاب ہندو پاکستان ص ۳۸، ۳۷ ملاحظہ ہو۔

(۷۴) بطور نمونہ رشید رضا کا مشہور و معروف خطبہ غرام لاحظہ ہو جو کہ میدانِ منی میں شریف حسین کی خلافت سے متعلق ثورۃ اعراب ضد الاترائک ص ۳۲۰۔ ۳۲۶ نیز اسی جگہ رشید رضا کی تقریر کے بعد شریف حسین کی تقریر کا مطالعہ کریں، ص ۳۴۲، نیز کتاب العواصم من القواسم پر محب الدین الخطیب کے مقدمہ کو ملاحظہ کریں جس میں اس نے اموی خلفاء کی صرف اس وجہ سے تعریف کی ہے کہ انہوں نے اپنی قدرت اور سران و شوکت کے سہارے اسلام کی حکومت کو پھیلانے میں کوششیں کی تھیں (ص ۳) اور کتاب ماذ اخسر العالم با نحطاط امسالین، ۲۹۹، ۳۱۹۔

(۷۵) بہترین نمونوں میں سے ایک نمونہ وہ خط ہے جسے مصر کے مشہور مجاہد اور مصنف زینب

الغزالی نے یا سر عرفات کے نام لکھا تھا، اس وقت کہ جب تونس میں اسرائیلی جہازوں نے فلسطین کی آزادی بخش گروہ کے کمپ پر حمل کیا تھا۔

(۷۶) اسلام میں مختلف فرقوں کے درمیان خونین جنگوں کی فہرست بڑی طولانی ہے، اور اس میدان میں حنابلہ کا کردار ہر ایک سے زیادہ رہا ہے، یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ ان کے اعتقادات عوام پسند، خشک اور ایسے تشدد آمیزہ ہیں دباؤ اور دفاع کرنے والے جس نے ان عقائد کو ختم دیا یہاں تک کہ اشاعرہ جو اپنے تھسب میں مشہور و معروف ہیں وہ بھی ان لوگوں کی شیطنت، خشک مزاجی اور قساوت و سنگدلی سے گلہ مندر ہے ہیں۔ جیسے کہ ایک زمانہ میں چند اشعاری علماء اپنے زمانہ کے فرقہ اشعری کے رئیس ابو القاسم قشیری کی حمایت میں خواجہ نظام الملک کو ایک خط لکھتے ہیں اور اس میں حنابلہ کی شرارتیوں کی شکایت کرتے ہیں اور اس سے اشاعرہ کی بہ نسبت حمایت کی خواہش کرتے ہیں، لیکن تعجب تو یہ ہے کہ یہ خط اس وقت لکھا گیا ہے کہ جب اشاعرہ اور شافعی کا بول بالا تھا۔ اس خط کے ذریعہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کس حد تک حنابلہ اپنے علاوه مذهب والوں پر سختی کرتے تھے۔

بغداد میں عوام الناس اور کچھ حشویہ گروہ کے لوگ اور چند ادباش اور پست فطرت لوگوں نے جو اپنے آپ کو حنبلی کہتے تھے ایسی ایسی بدعین اور ایسی بدکرداریاں انجام دیں کہ جسے ایک ملحد بھی انجام نہیں دے سکتا تھا چہ جائیکہ کوئی موحد انجام دے اور خدا کی طرف ہر اس چیز کی نسبت دی کہ جس سے وہ عاری ہے خواہ وہ نقش ہو یا حدوث و تشبیہات۔ ان لوگوں نے گذشتہ اماموں کی بے حرمتی کی، دینداروں اور اہل حق کو طعنہ دیئے۔ مساجد، بازار، مخالف اور

خلوت و جلوت میں ان پر لعنت کی۔

المملک انخل، استاد سجافی، ص ۲۷۹۔ ۲۸۲ ایسی سیکڑوں داستانوں کو طبقات الحنابلہ نامی کتاب میں دیکھا جاسکتا ہے جسے خود انھوں نے لکھا ہے اور جس میں انھوں نے اپنے علماء کی سوانح حیات اور عظمت و شان بیان کی ہیا اور یہ داستان ان کی شرارتیوں اور فتنہ انگیزیوں کا ایک نمونہ ہے: طبرستان سے بغداد کی طرف طبری کے دوسرے سفر میں ایک روز طبری مسجد جامع میں پہنچ گئے، وہاں حنبلیوں نے امام احمد ابن حنبل اور خدا کے عرش پر بیٹھنے کے سلسلہ میں وارد ہونے والی روایت کے بارے میں طبری سے سوال کر لیا تو اس نے جواب دیا کہ احمد ابن حنبل کی مخالفت کو اہمیت نہیں دی جاسکتی اور مشابہ بھی نہیں ہے تو حنبل نے کہا: لیکن علمانے اپنے اختلافات ہیں اسے بیان کیا ہے، تو طبری نے کہا کہ نہ میں نے اسے اس روایت کو نقل کرتے ہوئے دیکھا ہے اور نہ ہی ان کے اصحاب میں کسی سے سنا ہے جو کہ معتمد شخص رہا ہو، لیکن خدا کا عرش پر بیٹھنا محال ہے۔

حنبلی اور اہل حدیث نے جیسے ہی طبری کا نظریہ سنا، اس پر حملہ آور ہوئے اور اپنے قلم و دوات اس کی طرف پچینک دیئے، طبری نے بھاگ کر اپنے گھر میں پناہ لی، چونکہ حنبلیوں کی تعداد ہزاروں میں تھی لہذا ان لوگوں نے اس کے گھر کے سامنے اس قدر پتھر بر سائے کہ پتھروں کا ایک ٹیلہ ہو گیا ہے۔ بغداد کے پولیس افسرانا زوک نے اسی وقت ہزاروں کی فوج لیکر وہاں پہنچ گیا اور طبری کو حنبلیوں کے شر سے نجات دی اور پورے دن وہیں پتھرا رہا، اس کے گھر سے پتھروں کو اٹھانے کا حکم دیا، وہ بیان، ص ۲۷۱ اسی طرح آپ ملاحظہ کریں، ساتویں صدی

کے مشہور مجاہد اور عظیم شخصیت عزابن عبد السلام کی مصیبتوں کو کہ جسے حنبلیوں کی جانب سے متھمل ہوئے تھے الاسلام بین العلماء والحكام ص ۱۹۲۔

(۷۷) یہ بالکل شیعوں کے آئندہ کی ضد میں اپنایا گیا ہے، ان لوگوں کی نظر میں عوام کو فاسد بنانے میں نظام حاکم کا کوئی نقش نہیں ہے اسی وجہ سے وہ لوگ جس طرح اجتماع کی اصلاح کے قائل تھے اسی طرح ہر فرد کی اصلاح کے قائل تھے۔ یہاں تک کہ وہ موارد جس میں میر حق سے انحراف ہیں ذاتی شیطنت کے علاوہ دوسرے عوامل دخیل تھے اور ایسی خصوصیت کے ساتھ قدرت کسی فرد یا نظام کے ہاتھ میں تھی ایسے افراد سے مقابلہ کے لئے کوئی خاص عکس اعمال کا اظہار نہیں کرتے جیسا کہ امام علی نے اپنے بعد خوارج کے سلسلہ میں یہ وصیت کی: میرے بعد خوارج سے جنگ نہ کرنا اس لئے کہ جو حق کی جستجو میں ہو اور بھٹک جائے، اس شخص کے جیسا نہیں ہے کہ جو باطل کی تلاش میں ہو اور اسے حاصل کر لے۔ خطبہ، ۶۱ نجع البلاغۃ، صحیح صحمی صالحی۔

دین اسلام اپنی ابتداء سے ہی لوگوں کو اپنی خدمت میں لینے مخصوصاً جوانوں کو اپنی خدمت میں لینے میں کامیاب رہا ہے، کسی بھی دین کا ایسی خصوصیات سے سرفراز ہونا انسانی خصوصیات سے ہم آہنگی انسان کی طرف ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا اثر اور جاذبہ ہے جو ابھی تک باقی ہے اور باقی رہے گا۔ اس سلسلہ میں حجازیوں کے سامنے ابو حمزہ خارجی کی تقریر ملاحظہ کی جاسکتی ہے کہ جس پر اس کے چاہنے والوں کے جوان ہونے کی وجہ سے تنقید کی گئی تھی۔ ... اے اہل حجاز! کیا تم میرے چاہنے والوں کے جوان ہونے پر مجھے ملامت کرتے ہو، کیا ایسا

نہیں تھا کہ آنحضر صلی اللہ علیہ وآلہ ت کے اصحاب جوان تھے۔ خدا کی قسم یہ اپنی جوانی میں بھی بزرگ ہیں، جن کی آنکھیں شر سے محفوظ اور کان امر باطل کے سننے سے سنگین ہیں، جو شدت عبادت اور زندہ داری کی وجہ سے لاغر اور کمزور ہو چکے ہیں، خدارات کی تاریکیوں میں ان پر نظر کرتا ہے اس حال میں کہ ان کی پشت قرآن کی طرف جھکی ہوئی ہے، جب ان کی نگاہیں قرآن کی ان آیات پر پڑتی ہیں کہ جن میں بہشت کی خبر دی گئی ہے تو شدت شوق سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اور جب ان آیتوں سے گذرتے ہیں کہ جن میں جہنم کا تذکرہ کیا گیا ہے تو شدت خوف سے چخ مارتے ہیں گویا وہ جہنم کی وحشتناک آواز کو سن رہے ہوں... جنگ کے ہولناک ترین لحظات میں لشکر میں پیش پیش افراد جب موت کے خوف سینہ پر شمشیر کی چکاورنیزہ کی کھنک دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں تو دشمن کے خوف کو خدا کے ترس کے مقابلہ میں اسے اپنا کھلونا بنالیتے ہیں۔ وہ لوگ ایسے حالات میں برابر آگے بڑھتے جاتے ہیں اور اپنے ہی خون سے اپنی داڑھیوں میں خضاب لگا لیتے ہیں، درندے ان کی جسموں کی طرف دوڑتے ہیں اور پرندے ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، لکن آنکھیں ہیں جوشب کی تاریکیوں میں خوف خدا میں گریاں ہوئیں وہ پرندوں کی چونچ کا نشانہ بن گئیں؟ اور وہ ہاتھ جورات کی تاریکی میں سجدوں کے طولانی ہونے کے وجہ سے زمین پر پڑے رہے، وہ گٹے سے جدا ہو گئے؟... البیان والتبیین، ج ۲، ۱۰۲، ۱۰۳، اس نے اپنے جوان پیروکاروں کی جو تعریف کی ہے کہ وہ دین کی سر بلندی کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچتے اور جان و دل سے اس کی راہ میں فدا کاری کے لئے آمادہ ہیں، یہ توصیفات ہر زمانہ میں صحیح ہیں۔ بطور

نمونہ مجلہ النذر عضو اخوان مسلمین سوریہ کے مختلف شماروں کی طرف نیز ان کتابوں کا بھی مطالعہ کریں کہ جن میں اسلام کے فدائیوں کے حالات زندگی بیان کئے گئے ہیں اسی طرح پیغمبر و فرعون۔ نامی کتاب بھی ملاحظہ ہو

(۷۸) مزید وضاحت کے لئے: مخصوصاً ص ۳۱-۳۴ On Being a Christian ملاحظہ ہو

(۸۹) گیب ان خصوصیات کی درستگی کا سرچشمہ اسلام کو جانتا ہے اسلام کا اعتقادی نظامِ محکم، ثابت اور مؤکد ایک مجموعہ ہے اور یہ تمام خصوصیات قرآن، حدیث اور سنت و شریعت کی مرہون منت ہیں

(۹۰) سعودی اخوان کی اخلاقی اور دینی اور ذہنی خصوصیات اور ان کے اقدام کے سلسلہ میں تحقیق کرنا بہتر ہے جو ایک بہترین نمونہ ہے لہذا رجوع کریں کتاب وہابیان ص ۴۶-۴۷ مثلاً حافظ وصبہ جو خود زندگی سے انھیں جانتا ہے اور ان کی جنگوں کا چشم دید گواہ ہے وہ ان کے سلسلہ میں کہتا ہے: اخوان موت سے نہیں ڈرتے۔ شہادت اور خدا سے ملاقات کے لئے موت کے منہ میں پہنچ جاتے ہیں اور جب ایک ماں اپنے بیٹے کو میدان جنگ کی طرف روانہ کرتی ہے تو اس سے کہتی ہے جاؤ کہ خدا ہم دونوں کو بہشت میں ایک دوسرے سے دوبارہ ملاقات کا موقع دے، جب وہ اپنے دشمن کی طرف حملہ کرتے ہیں تو ان کا شعار (ایک نعبد و ایک نستعن) ہوتا ہے، میں خود ان کی بعض جنگوں کا مشاہدہ کر چکا ہوں، میں نے خود دیکھا کہ وہ کس طرح میدان جنگ کی طرف جاتے تھے، دشمن کی صفوف کو درہم برہم

کرتے ہوئے انھیں شکست دینے اور انھیں قتل کرنے کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچتے، ان کے دلوں میں ذرہ برابر بھی شفقت و مہربانی کا نرم گوشہ نہیں ہے ان کے ہاتھوں سے کوئی بچ نہیں سکتا جہاں بھی وہ پہنچ جائیں موت کے قاصد ہیں وہابیان ص ۴۵۲، جو کتاب العرب فی القرن العشرين ص ۳۱۴، سے منقول ہے اور جان فیلیپی ان کے سلسلہ میں اس طرح بیان کرتا ہے: اخوان نے قبائل عرب سے قتل و غارت گری، عیاشی اور ہرزنی کو ختم کر دیا اور وہ لوگ جو کچھ بھی کرتے تھے اپنی آخرت کے لئے کرتے تھے۔ اپنے علاوہ ہر ایک کو بلکہ بقیہ تمام اسلامی فرقوں کو مشرک اور بت پرست سمجھتے تھے۔ وہابیان ص ۴۹ جو تاریخ نجد کے ص ۳۰۵۔ ۳۰۸ سے منقول ہے۔

(۸۱) حنفیوں اور شافعیوں کے درمیان رقبت جو خونین جنگوں کا باعث بنی، درج ذیل داستان کو پڑھیں: جسے ہندو شاہ نقل کرتا ہے: امام اعظم شافعی کے مذہب کا پابند تھا اور سلطان ملک شاہ نے اصفہان کے محلہ کران میں ایک علمی مدرسہ کی بنیاد رکھی، جب دستور لکھنا چاہا کہ اس مدرسہ میں کون رہے گا تو سلطان سے سوال کیا تو اس نے جواب دیا کہ اگرچہ میں ایک حنفی ہوں لیکن میں نے اسے خدا کے لئے بنایا ہے لہذا کسی ایک فرقہ سے مخصوص نہیں کر سکتا۔ کسی قوم سے مخصوص کرنا اور کسی کو محروم کر دینا معقول نہیں ہے لہذا الکھدو کہ اس میں دونوں امام کے اصحاب رہیں اور جب لکھنا چاہا تو خواجہ نے منع کر دیا اور ایک مدت تک حالت ایسی ہی رہی آخر کاریہ طے پایا وقف علی اصحاب الاممین الائمه صدری الاسلام مجلہ دانشکدہ ادبیات و علوم انسانی

دانشگاہ مشہد، شمارہ، ۵۶، ص ۷۴۲ جو کتاب تجارت السلف ص ۲۷۷-۲۷۸ سے منقول ہے۔

(۸۲) شافعیوں اور حنفیوں، ماتر دیوں اور اشعریوں، اہل سنت اور شیعہ و محتزلی کے درمیان شدید تھبب مسلمانوں کی کمزوری کا ایک عظیم سبب ہے۔ جو بھی مقدسی کے سفرنامہ اور یاقوت کی مجمع البلدان کا مطالعہ کرے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ تھببات کس قدر قتل و غار تگری، فتنہ و فساد، ہنگامہ آرائی اور شور شرابہ کا باعث بنے ہیں۔ ظہر الاسلام، ۴، ص ۱۰۲۔ ۳۵ میں ایک طرف اہل سنت اور سوڈانی سپاہیوں میں تو دوسری طرف شیعوں میں ایک عظیم اختلاف اور کشمکش پیدا ہوئی۔ سوڈانی سپاہی سڑکوں پر جسے بھی پاتے اس سے سوال کرتے کہ تمہارا ماموں کون ہے اگر وہ جواب میں معاویہ نہیں کہتا تو اس کی بری طرح ناقابل تحمل پٹائی کرتے اور اسے گالم گلوں سے نوازتے بلکہ کبھی کبھی یہی چیز اس کی موت کا سبب بن جاتی تھی۔ اسی طرح ۴۰۸، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۹۰، ۴۹۱ میں وحشتناک فتنہ اٹھے اور دونوں گروہوں سے ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے۔ الفکر السیاسی الشیعی، ص ۲۸، اس کے مزید نمونوں کے حصول کے لئے اسی کتاب کا ص ۳۸۱، ۲۷۹ نیز کتاب اسلام بلا مذاہب ص ۲۸۵-۲۸۸ ملاحظہ ہو۔

(۸۳) تمام اسلامی فرقوں میں شیعہ ہر ایک سے زیادہ اپنے دشمنوں کی جانب سے حملوں کا شکار رہا۔ اور اس کے بھی مختلف اسباب تھے مجملہ یہ کہ ابتداء اسلام میں مسلمان ائمہ اطہار کی جانب اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ ہونے کی وجہ سے ان سے نزدیک اور انھیں اپنا

محبوب بنائے ہوئے تھے جو عباسیوں اور امویوں کے اقتدار کے لئے ایک خطرہ تھا جس کی بنیاد پر وہ کسی بھی آزار و اذیت سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ کتاب اسلام بلاندا ہب ص ۲۸۵۔

(۸۴) اکثر وہ لوگ جو ہندوستان، افریقا اور دور دراز شرقی ممالک میں شیعوں کے خلاف منصوبہ بندی کرتے اور اپنی طاقتوں کا استعمال کرتے ہیں، وہ اسی فکر کے زیراثر ہیں۔ وہ اپنی گردنوں پر اسلام کی نسبت ذمہ داری کو پورا کرنے کی فکر میں ہیں لہذا جان کی حد تک اسلام اور اس کی سر بلندی کی خاطر سعی و تلاش کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کے پاس اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے نیز جہالت کی وجہ سے وہابیوں کی زہریلی اور جھوٹ و فساد سے مملو شیعوں کے خلاف تبلیغ کی زد میں ہیں لہذا شیعوں سے مقابلہ کو اپنا فرض سمجھتے ہیں، ان سے جنگ کو اپنا ہدف اور اسے بطور صحیح انجام دینے کی کوشش میں ہیں پس انھیں ان وہابیوں سے جدا کرنا ہو گا جو اپنے منافع کی خاطر ایسا اقدام کرتے ہیں، افریقا: میراث گذشتہ و موقعیت آئندہ نامی کتاب ص ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ ملاحظہ ہو۔

(۸۵) ۱۴۳ھ میں علماء اسلام نے حدیث و فقہ اور تفسیر کی کتابیں لکھنا شروع کیں، اسی دور میں ابن جریح نے مکہ میں لکھا، مالک نے مدینہ میں موطاً تحریر کی اور او زاعی نے شام میں اسی طرح ابن ابی عربہ اور حماد ابن سلمہ اور دوسروں نے بصرہ میں لکھنا شروع کیا، معمراً میں میں، شفیعیان ثوری کوفہ میں، ابن اسحاق نے کتاب مغازی تحریر کیا اور ابوحنیفہ نے فقہ و رأی نامی کتابیں لکھیں اور مختلف علوم کی تدوین اور نشر و اشاعت عام ہو گئی اس طرح مختلف کتابیں

عربی علوم، لغت، تاریخ، وغیرہ کے سلسلہ میں بے شمار وجود میں آئیں۔ اس دور سے پہلے علماء پنے حافظہ کے سہارے مطالب بیان فرماتے تھے اور غیر تدوین شدہ صحیح صحیفوں سے نقل کرتے تھے۔ تاریخ خلفائی، ص ۲۶۱۔

اس بات کی تحقیق کرنے کے لئے کہ صدر اسلام میں احادیث بنوی کے نہ لکھنے میں کن عوامل کا ہاتھ تھا، کتابِ اُممل و انخل ص ۵۱-۷۱ نیز کتابِ اضواء علی السنۃ الحمدیۃ ص ۲۶۱، ملاحظہ کر سکتے ہیں اور جب یہ دور ختم ہو گیا تو اس کے بعد کے علماء کتابیں لکھنے پر چندان مائل نہیں تھے لیکن جب ہشام نے زہری کو لکھنے پر مجبور کیا تو اس کے بعد سے علمانے قلم سنپھالا اور لکھنا شروع کیا۔ سابق حوالہ ص ۲۶۲۔

(۸۶) مقدمہ وسائل الشیعہ ج ۱، ص ۴۹، ۳۵ اور عباسیوں کی دینی سیاست کے سلسلہ میں مؤسسه آل الہیت سے چھپی کتاب کی طرف رجوع کریں۔

. 75-77. pp., Muslim Studies Goldziher

(۸۷) اوائل اسلام میں عباسیوں کے ابتدائی ادوار میں غیر عرب مخصوصاً ایرانیوں کے نفوذ کا اس روایت سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ منصور نے عید نوروز کے دن امام موسی بن جعفر سے تقاضا کیا کہ عمومی ملاقات کے لئے تشریف رکھیں اور زیارت کرنے والوں کے تھفون کو قبول فرمائیں، لیکن امام نے انکار کر دیا تو منصور نے جواب میں کہا کہ یہ رسم سیاسی مصلحت اور لشکریوں کو خوش آمد کہنے کے لئے ہے۔ جواہر الكلام ج ۵، ص ۴

(۸۸) اس آخری صدی میں اہل سنت کے تفکرات بالخصوص وہ تفکر جو علماء اور سلاطین و خلفاء

سے مربوط تھے، شدت سے تنقید کا نشانہ بننے ہیں اور تنقید کرنے والے مختلف گروہوں اور جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں اور مختلف اسباب کی بنیاد پر انھیں اپنی تنقیدوں کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بعض دینی علماء ہیں جیسے شیخ گٹشک، خالد محمد خالد اور اخوان المسلمين سے وابستہ دوسرے علماء دین مخصوصاً سید قطب، ان لوگوں کے علاوہ بقیہ مختلف جماعتوں اور آزاد فکر حضرات ہیں، ان میں سے بعض کی تنقیدوں جو پہلے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں اصلاحی، سنوارنے والی اور ہمدردانہ ہیں۔ لیکن دورے گروہ کی تنقیدیں تباہ کن، نقصان دہ، فتنہ انگیز اور بزدلانہ ہیں شیخ گٹشک کے نظریات کو معلوم کرنے کے لئے رجوع کر سکتے ہیں پیامبر و فرعون ص ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ خالد محمد خالد کے نظریات معلوم کرنے کے لئے رجوع کریں الشیعہ فی الہمیز ان ص ۳۷۵، ص ۳۷۸ اخوان المسلمين کے طرفدار علماء کے نظریات کے لئے رجوع کریں الاخوان المسلمون والجماعات الاسلامیہ ص ۲۶۲۔ ۲۷۰۔ دوسرے گروہ کے نظریات معلوم کرنے کے لئے الاسلام والخلافۃ فی العصر الحدیث ص ۹۔ ۳۴ مخصوصاً، ص ۱۸۔ ۲۳ اور کتاب الاسلام واصول الحکم میں محمد عمارہ کا مقدمہ ملاحظہ ہو۔

(۸۹)۔ چوتھی صدی کی ابتداء میں حکومت عباسی کی اکثر سر زمینیں محلی حکومتوں کے تابع تھیں، ان سر زمینیوں میں ظاہری رابطہ بس اتنا ہی تھا کہ صرف خلیف کا نام لیا جاتا تھا اور اس کا خطبہ پڑھا جاتا تھا اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا رابطہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے عباسی حکومت بغداد اور اس کے اطراف میں محدود ہو کر رہ گئی تھی نظام اوزارۃ فی الدوّلۃ العباسیہ ص ۱۹۔

(۹۰) مثلاً آپ سلجوقی بادشاہوں کا دینی سیاست کو اپنانے اور اسے اپنی سلطنت کو مضبوط

بنانے کے لئے ایک وسیلہ قرار دینے کے سلسلہ میں معلومات کے لئے نظام وزارتہ فی الدوّلۃ العباسیۃ ص ۴۷۔ ۰۔ ۵ ملاحظہ ہو، ابہن اشیران لوگوں کی دینی سیاست کے سلسلہ میں اس طرح کہتا ہے: جب حکومت کی باغ ڈور سلجوقیوں کے ہاتھ میں آئی، اس وقت عظمت خلافت کا رنگ پچیکا پڑھکا تھا، انہوں نے اسے دوبارہ وہ عظمت بخشی مخصوصاً نظام الملک نے اپنی وزارت کے دوارن اسے ایک خاص شکل میں جلوہ دیا جوالتاریخ الباہر فی الدوّلۃ الاتابکیۃ ص ۵۱، سے منقول ہے۔ نیز انقصص ص ۴۸۔ ۴۷،

اس کتاب میں ان ثابت نظریات کے ساتھ ان کے اقدامات کو نقل کرتا ہے یہی سیاست خود عباسیوں نے بھی اپنائی تھی۔ البداری کہتا ہے: یہاں اس کی مراد چھٹی صدی ہجری ہے، عباسیوں نے اس حد تک خلافت کی ہیبت بڑھادی کہ بغداد کو فتح کرنا اس کے دشمنوں کے لئے ناممکن ہو گیا جس کی وجہ سے کسی بادشاہ نے اسے فتح کرنے کے لئے اقدام نہیں کیا نظام وزارتہ العباسیۃ ص ۶۴ جو کتاب آل سلجوقی ص ۳۶۸ سے منقول ہے اور مزید وضاحت کے لئے اسی کتاب کا ص ۶۲، ۶۷ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں،

(۹۱) اعلام الموقعين، ج ۱، ص ۴۸، ۴۷، ۰۔ اسلامی حکومت کی عمارت کی اصلی خصوصیات کے نام پر گروہی ہونے اور دینی اور اخلاقی اقدار کی حفاظت میں اس کے کردار کی اس طرح وضاحت کرتا ہے: (۱) انسان کی خلقت کا ہدف عبادت ہے۔ (۲) کامل عبادت مؤمنین کے اجتماع کی محتاج ہے۔ (۳) ایسی امت ایک حکومت کی محتاج ہے۔ (۴) حکومت کا پہلا وظیفہ عبادت کی راہ ہموار کرنا ہے۔

.p,127, E.Von Grunebaum Islam 1969.G

(۹۲) اجماع کی قدر اور قیمت اور اہمیت مخصوصاً صحابہ اور خلفاء راشدین کا اجماع کہ جو صحی صلحی کی تعبیر کے مطابق تشریع اسلامی کے مصادر میں سے تیسرا مصدر ہے اور یہ کہ کیسے بہت سارے مسائل کا مستند حکومت اور خلافت بن گیا ہے ایک سند کی شکل اختیار کر گئی۔ لفظم الاسلامیہ ص ۲۸۱۔ مؤلف کے اعتقاد کے مطابق خلافت کی ایک دلیل خود اجماع بھی ہے اور اس باب میں جور و ایات وارد ہوئی ہیں وہ اس مطلب کو ثابت کرتی اور تائید ہیں جو اجماع کے ذریعہ ثابت ہو چکی ہیں۔

(۹۳) ابن تیمیہ کے اس کلام کی طرف توجہ کریں: احمد ابن عینبل اپنی مندرجہ میں عبد اللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ ت نے فرمایا: کسی بھی انسان کے لئے حلال نہیں ہے مگر یہ کہ زمین کے کسی حصہ میں کسی کو امامت کے لئے انتخاب کر لیا جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ ت نے ایک شخص کی امارت اور حاکمیت کو اس چھوٹے سماج اور معاشرہ میں واجب قرار دیا تاکہ آئندہ برقرار ہونے والے بڑے بڑے اجتماع کے لئے بیداری کا باعث ہو، خدا نے امر بہ معروف اور نبی از مکر کو واجب قرار دیا اور یہ امر بغیر امامت اور قدرت کے انجام نہیں پاسکتا۔ اسی طرح تمام واجبات جیسے جہاد، اقامۃ عدل، حج و جمعہ، اعیاد، مظلوم کی نصرت، اس وقت تک حدود بھی جاری نہیں ہو سکتے جب تک کہ قدرت و حکومت برقرار نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے یہ نقل ہوا ہے کہ بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے۔ یا یہ جملہ جو نقل ہوا ہے کہ ساٹھ سال ظالم بادشاہ کے ساتھ زندگی گذارنا ایک رات

بادشاہ کے بغیر گذارنے سے بہتر ہے۔ اور تجربہ نے بھی اس بات کو ثابت کر دیا ہے۔ اور پھر اپنے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے: اسی وجہ سے سلف صالح فضیل ابن عیاض اور احمد ابن حنبل اور دیگر افراد کہا کرتے تھے اگر ہمارے لئے کوئی مستحباب دعا ہوتی تو ہم سلطان کے لئے دعا کرتے۔<sup>۱۳۹۱۳</sup> السیاست الشرعیۃ ص ۲۶، الحنابلہ، ص ۳۶۔

(۹۴) حقیقت تو یہ ہے کہ آں بویہ اور فاطمیوں کی سیاست شیعوں کے عقائد کو بیان کرنے والی نہیں ہے وہ اپنے ہی دور کی ایک حکومتیں تھیں الشیعۃ والحمد کمون ص ۷۔

... اسی وجہ سے وہ سلاطین جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے ان کا شیعوں کے عقائد سے کوئی ربط نہیں ہے اور شیعہ بھی اپنے اور سلاطین کے درمیان کوئی ربط نہیں دیکھتے۔ پس جو تصرفات بھی واقع ہوتے ہیں خود ان کی ذات سے مربوط ہیں، اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو صحیح و گرنہ وہ گنہ گار ہیں۔ اسی وجہ سے شیعہ اپنے آپ کو شیعہ سلاطین کے تصرفات سے بری سمجھتے ہیں اور چونکہ سیاست دین کے ساتھ ساتھ ہے اور انہم اظہار کی سیرت کے علاوہ کہیں اور مجسم نہیں ہوئی ہے۔ لہذا شیعوں کی کوئی بھی سیاسی فکر کبھی انہم علیہم السلام کے نظریات سے خارج نہیں ہو سکتی۔ اور اصولی طور پر شیعوں کی سیاسی فکر کو سیاسی مسائل سے جوڑ کر ان کے آراء و خیالات میں معلوم کیا جا سکتا ہے، پس ایک شیعہ کی جانب سے سرزد ہونے والا عمل یا عقیدہ اگر انہم معصومین علیہم السلام کی سیرت کے مطابق ہو تو وہ شیعوں کی سیاسی تفکر کا ایک حصہ ہے و گرنہ اس کا شیعوں کی سیاست سے کوئی ربط نہیں ہے۔ افکر السیاسی الشیعی ص ۲۸ اور مزید وضاحت کے لئے اسی کتاب کا ص ۲۶۸، ۲۷۱ ملاحظہ ہو۔

(۹۵) مصر میں جہادی تنظیم کی بنیاد رکھنے والے اہل سنت کے چار اماموں کی نسبت مصطفیٰ شرکری کی شدید لمحن تنقید کا مطالعہ کریں جو بعد میں گرفتار ہو کر پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ وہ دراصل اپنے کہ درواقع وہ اپنے اور اپنے بعد کے زمانے فقہا کو عدالت میں لاتا اور سلاطین کی مدد سے انھیں مقتول کرتا ہے۔ وہ اس سوال کے جواب میں کہ کیوں ان چار اماموں نے باب اجتہاد کو بند کر دیا تھا؟ تو جواب میں کہتا ہے: تاکہ وہ اور ان کے آثار کی تعریف کی جائے اور مشرکوں کے بتوں کی طرح وہ بھی پرستش کے قابل ہو جائیں، انھوں نے آپنے آپ کو خدا اور مومنین کے درمیان قرار دیا تھا اور اپنے آپ کو اسلام سے خارج کر دیا تھا بلکہ وہ زیادہ تر جاہلیت اور وحشیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور پھر اس طرح اپنے سلسلہ بیان کو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کیا وہ لوگ جنمیں نے باب اجتہاد کو بند کرنے کے درپیچے تھے آیا انھوں نے بھی ایسا ہی کیا؟ نہیں۔ انھوں نے عوام اور باقی مسلمانوں کے لئے باب اجتہاد کو بند کر دیا لیکن طول تاریخ میں کسی بھی سلطان کے لئے درباری فقہا نے دوبارہ حاکمیت سے متعلق احکام کو صادر کرنے لئے باب اجتہاد کی طرف رجوع کیا اور اس طرح انھوں نے اسلام کے نام پر حرام کو حلال اور فساد کو ہوادیبے کے موجب بنے۔ اگر ہم حال و گذشتہ سے ایسی مثالیں پیش کر دیں تو کسی میں اسے انکار کرنے کی جرأت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ زنا کی فقہا کی جانب سے تجویز، ربانخواری، قانون الہی کے برخلاف نامشریع قوانین کے تحت حکومتوں کو مشروعیت عطا کرنا، حتیٰ کہ اسلام کے نام پر فحشا، ربانخواری کو تجویز کرنا واضح ہے اور پھر اپنے زمانہ میں اسی قسم کے صادر کئے فتوؤں کو بطور نمونہ پیش کرتا ہے۔ پیغمبر و فرعون ص ۸۸، ۸۹۔

(۹۶) نجتین رویاروییہ اندیشہ گران ایران، ص ۳۲۳، ۳۶۶۔

(۹۷) اہل سنت کے فقہاء میں سے بعض اس حاکم کے سامنے قیام کی اجازت دیتے ہیں جسے راہ راست پر لانا شمشیر کے بغیر ممکن نہ ہو۔ اس مطلب کے لئے ابن حزم کے نظریات جسے اس نے امر بہ معروف اور نبی اzmکن کے باب میں بیان کیا ہے کتاب الفصل، ۴، ص ۱۷۳، ۱۷۴۔ اسی طرح امام حرمین جوینی کے نظریات شرح المقادنامی کتاب ج، ص ۲۷۱، ۲۷۵ پر ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ایسے فقہاء ہمیشہ اقلیت میں رہے ہیں جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے۔

(۹۸) ابن جوزی اپنی معروف کتاب تلبیس ابلیس، میں ابلیس کے ان تمام راستوں کو بیان کرتے ہیں کہ جس کی ذریعہ فقہاء کو وسوسہ کرنے کا امکان ہے، انھیں میں سے ایک راستہ سلاطین کا تقرب ذکر کرتے ہیں اور اس باب میں اس طرح تفصیل بیان کرتے ہیں:...فی الجملہ سلاطین کے دربار میں وارد ہونا ایک خطرناک فعل ہے۔ دربار میں تکریم اور انعامات، طمع اور حرص اور امر بہ معروف اور نبی اzmکن سے کوتا ہی شروع ہو جاتی ہے، ثقیان ثوری کہتے تھے: مجھے جس قدر سلاطین کی تکریم سے ڈر ہے اس قدر ان کی اہانتوں سے خوف نہیں ہے۔ اس لئے ان کے اس عمل سے میرا دل ان کی طرف مائل ہو جائے گا، گذشتہ علماء ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے دوری اختیار کرتے تھے لیکن وہ اپنی ضرورت کی وجہ سے ان کے فتاویٰ کے ذریعہ مدد طلب کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کا ایک ایسا گروہ وجود میں آیا جو زبردست دنیا پرست تھا اور ایسے علوم سیکھے جو صرف امیروں کے کام آسکتے ہیں...تلبیس

بلیس ص ۱۱۸ و ۱۱۹۔ اس طرح کی تنقیدیں حدیث، اخلاق اور تاریخی کتابوں میں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔

مثلاً خود غزالی سلاطین کے مقابلہ میں علماء کے اس موقف روشن کے سلسلہ میں بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ... اور یہ تھی امر بہ معروف اور نبی از منکر کے سلسلہ میں علماء کی روشن اور عادت نیز سلاطین سے ان کا خوف نہ کھانا۔ اور ان کا خدا پر بھروسہ کرنا خدا انھیں حفظ کرے خدا کے حکم پر راضی تھے تاکہ خدا انھیں شہادت نصیب کرے، اس لئے کہ ان کی نیتیں خالص اور دلوں میں ان کی باتیں زیادہ مؤثر واقع ہوتی تھیں اور انھیں نرم بنادیتی تھیں، لیکن اس دور میں طبع حرص نے علماء کی زبانوں کو بند کر دیا ہے اور انھیں خاموش رہنے پر مجبور کر دیا ہیا اور جب کوئی بات کہتے ہیں تو چونکہ وہ ان کے فعل کے مخالف ہوتی ہے لہذا مؤثر واقع نہیں ہوتی، اگر وہ اپنے قول میں سچے ہوں اور ان کی نیتیں خالص ہوں تو وہ بھی ضرور کامیاب ہوں گے، عوام کا فاسد ہونا سلطان کے فساد کی وجہ سے ہے اور سلاطین کا فاسد ہونا علماء کے فساد کی وجہ سے ہے اور خود علماء کا فاسد ہونا جاہ و مقام کی ہوس کے غلبہ کی وجہ سے ہے، جسے دنیا کی محبت اپنا اسیر بنالے، تو وہ ایک او باش اور پست کو راست نہیں لاسکتا تو پھر ایک سلطان اور صاحبان مناصب کو کیسے راہ راست پر لاسکتا ہے۔ احیاء علوم الدین، ۷ ص ۹۲۔

قابل توجہ یہاں ہے کہ غزالی صرف دو مقام پر علماء کو سلاطین کے دربار میں وارد ہونے کو جائز قرار دیتا ہے جو دین میں سیاست کے ہونے کی طرف ایک اشارہ ہے: سلاطین کے پاس جانا سوائے دو امر کے جائز نہیں ہے اول یہ کہ سلطان عالم کو اکرام کے بدلہ الزام کے لئے

طلب کرے اور اسے معلوم ہو کہ اگر وہ انکار کرے گا تو اسے شکنجہ کیا جائے گا یا سلطان کے پاس نہ جانے کی وجہ سے عوام کی سرکشی کا باعث ہو اور امر عیت اختلاف کا شکار ہو جائے گا ایسی صورت میں جانا واجب ہے۔ سلطان کی اطاعت کی غرض سے نہیں بلکہ لوگوں کی مصلحت اور حکومت میں فساد و اتعف نہ ہونے لئے سلطان کے پاس جائے۔ دو میرے کہ کسی مسلمان یا اپنے سے ظلم کو دفع کرنے لئے جائے...، احیاء علوم الدین، چھٹا باب فیما متعلق من مخالطة المسلمين الظلمة جو کتاب الاسلام بین العلماء والحكام ص ۱۱۲ سے منقول ہے نیز کتاب الفوائد ابن قیم

ص ۱۴۹-۱۵۳ نیز،

Studies on The ,Gibb.,P,165 Goldziher The Zahiris

145. P,Civilization of Islam کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔

(۹۹) اسی سیاست کے نمونہ عثمانی خلافت کے آخری ایام میں مسجد ایا صوفیہ کے امام جمعہ شیخ عبد اللہ کے خطبہ کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔... یہاں اسی مطلب کو بیان کروں گا کہ جسے میں نے پہلے بیان کیا ہے، ان میں فقرہ اور اپاہج لوگوں کے علاوہ وہ لوگ کہ جو اس بات کے مدعا ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے وارث ہیں، اسامید، مفتی، قضاۃ اور دراویش، تجارت، صنعتی لوگ، بلکہ تمام لوگ قرآن کے حکم کے مطابق کافر ہو چکے ہیں اور منافقوں کے زمرہ میں ہیں لہذا انکا قتل کرنا واجب ہے، اس لئے کہ انہوں نے جہاد کو ہزاروں آیات و شواہد کے باوجود جان و مال سے جہاد کرنا ترک کر دیا ہے، واجب ہے۔ ان لوگوں کے ایمان کی تجدید دو امر پر موقوف ہے۔ اول یہ کہ جنگ میں حاضر ہوں اور دوم یہ کہ

اگر صاحب مال ہیں تو نصف مال ترکی کے دار الخلافہ کے حوالہ کر دیں تاکہ وہ (ترک) اپنے داخلی اور خارجی دشمنوں سے انتقام لے سکیں اور اگر وہ اپنا نصف مال دار الخلافہ کے حوالہ نہ کر سیں تو ان کا دوبارہ ایمان لانا کفایت نہیں کرے گا اور روز قیامت مرتد اور کفار کے ساتھ محشور کئے جائیں گے اور جہنم میں جھونک دئے جائیں گے... ثورۃ العرب ضد الاتراک ص ۲۲۴ جو قوم جدید نامی کتاب کے ص ۲۵ سے منقول ہے۔

(۱۰۰) معالم الخلافة في الفکر السياسي الاسلامي، ص ۱۱۔ اس داستان کی تفصیل، عرب کا مشہور ناسیونالیسم ساطع حصری نے اپنی کتاب الملاّد العربیة والدولة العثمانیة میں درج کیا ہے۔ کتاب الفکر السياسي الشیعی ص ۳۰۱ اور ۳۰۳، میں اس داستان کا ایک مختصر خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ سلطان سلیم نے اہل سنت کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے لی اور خود فروش علماء سے شیعوں کے کفر اور ان کے قتل کے وجوب کے سلسلہ میں فتوا حاصل کیا، اور پھر یہ فرمان جاری کر دیا کہ اس کی حکومت میں جہاں بھی شیعہ ہوں ان کی گردن مار دی جائے۔ ص ۳۸، حائزی ساندرس کے بقول سلطان سلیم کے اقدامات کے سلسلہ میں اس طرح توضیح دیتے ہیں: سلطان سلیم جس نے آٹھ سال ۹۱۸ سے ۹۲۷ تک حکومت کی، اس مدت میں اس نے ایران پر حملہ کیا اور ۹۲۰ق، کے بعد کردستان اور آذربائیجان کو فتح کیا اور اس کی حکومت میں جو بھی شیعہ تھا یا اسے قتل کر دیا یا زندان میں ڈال دیا۔ اور سنی علمانے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ایک شیعہ کو قتل کرنا ستر عیسائیوں کے قتل کرنے سے بہتر ہے اور ایک قول کے مطابق چالیس ہزار شیعہ مارے گئے۔ مجلہ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاہ مشہد، شمارہ ۵۷۔ ۵۸

ص ۵۶۔

(۱۰۱) جیسے کہ سلجوقی حکام مختلف بہانوں سے شیعہ مخالف سیاست کو اپنانے ہوئے تھے نظام الوزارۃ فی الدوّلۃ العباسیۃ، ص ۷۴ اور خواجہ نظام الملک شیعوں کو کافر قرار دیتے ہوئے کہتا ہے: جہاں بھی انھیں پاً قتل کر دو یا جہاں بھی راضی میں انھیں منبروں پر لے جا کر سر برہنہ کیا جائے اور ان سے یہ کہا جائے کہ تم دین کے دشمن ہو، لیکن اس کے باوجود اس دور کے جلیل القدر شیعہ متکلم عبدالجلیل قزوینی سلجوقی حکام کے دین کو وسعت بخشنے کے سلسلہ میں اس طرح کہتے ہیں: حقیقت تو یہ ہے کہ اس عالم میں زمین کے تمام حصوں میں مسلمانوں کے درمیان جو مدارس، مساجد، خانقاہیں، منابر، احیاء سنت اور بدعتوں کا قلع قلع آں سلجوق کی برکتوں اور ان کی شمشیر براں کی وجہ سے ہے۔ مجلہ دانشکدہ ادبیات و علوم انسانی دانشگاہ مشہد، شمارہ ۵۶، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶۔ جو کتاب انقضی و سیاست نامہ سے منقول ہے۔ تاریخ تشیع میں ایسے ہزاروں نمونہ موجود ہیں اگرچا اسکے برخلاف نمونہ کم پائے جاتے ہیں۔

جیسے کہ، نادر شاہ نے، ۱۷۴۱ء، میں سلطان عثمانی کو قانع کرنا چاہا کہ وہ شیعیت کو پانچواں مذہب قبول کر لے یہاں تک کہ اپنی بات منوانے کے لئے اسے خلیفہ اسلام لقب دینے پر راضی ہو گیا لیکن سلطان عثمانی نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

(۱۰۲)۔ اکثر مقامات پر شیعہ حکام کے علاوہ دوسرے گروہوں کی جانب سے آزار و اذیت اور لوٹ مار کا شکار رہا کرتے تھے اور ان میں ہر ایک سے زیادہ خود فروش علماء کا نقش رہا ہے، یہ لوگ عوام کو بہکاتے تھے اور دین سے دفاع کے نام پر شیعوں کے خلاف دوسرے فرقوں کو

ابھارتے تھے۔ ابو محمد حسن بن علی بن خلف بر بہاری، بغداد کے حنبلیوں کے رئیس اور صاحب نظر تھا اور جو بھی اس کے نظریات کا مخالف ہوتا اس سے شدت کے ساتھ مقابلہ کرتا اور اپنے چاہنے والوں کو عوام کے ساتھ شدید مقابلہ کا حکم دیتا بلکہ بعض موقع پر لوگوں کے گھروں کو غارت اور ان کی خرید و فروش میں مزاحمت کا حکم دیتا اور جو بھی اس کی باتوں کا انکار کرتا تو اسے ڈرانے اور دھمکانے کا حکم دیتا تھا۔

اسی کی حرکتوں میں سے ایک حرکت یہ بھی ہے کہ اُس نے امام حسین پر رونا اور آپ کی زیارت کے قصد سے کربلا کا سفر کرنا منوع قرار دے دیا بلکہ نوحہ کرنے والوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی دور میں ایک نوحہ خوان تھا جو نہایت مشہور اور خوش آواز تھا اسی کے قصائد میں سے ایک شعر یہ بھی ہے کہ (ایحہ العینان فیضا۔ و استھل لالتفیضا) جسے امام حسین کے مرثیہ میں پڑھا کرتا تھا اور ہم نے اسے بغداد کے ایک رئیس کے مکان میں سناتھا، اس وقت کسی میں حکم کھلانوہ کرنے کی جرأت نہیں تھی مگر یہ پوشیدہ طور پر یا پھر اسے سلطان کی پناہ حاصل ہو، جب کہ نوحہ مرثیہ کے علاوہ کچھ اور نہ تھا اور سلف کے خلاف کوئی اس میں کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا، اس کے باوجود جب بر بہاری کو اس کا علم ہوا تو اس نے حکم دیا کہ اسے جہاں پاؤ قتل کر دو۔ وہاں یاں ص ۲۶۔ اس سلسلہ میں بر بہاری اور اسکے چاہنے والوں کی کارستانیوں سے زیادہ آگاہی کے لئے رجوع کیا جا سکتا ہے، سابق حوالہ ص ۲۶۔ ۳۳ نیز ابو الحسن الشعیری کے ساتھ مناقشہ، اور اسکے عقائد و انجام کی معلومات کے لئے رجوع کر سکتے ہیں طبقات الحنابلہ

(۱۰۳) حقیقت تو یہ ہے کہ ذکر کئے گئے عوامل کے علاوہ مذہبی عوامل بھی تھے کہ جس کی وجہ سے علماء صفوی بادشاہوں سے نزدیک رہا کرتے تھے، اس لئے کہ صفوی خود صوفی مسلک تھے اور انھیں صوفیوں کی مدد سے قدرت کی باگ ڈو رسمیجاہی تھی اور یہی سبب تھا کہ جس کی وجہ سے خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کے عقیدتمند تھے، اس دور میں شیعہ علمانے اسی عقیدت سے فائدہ اٹھایا اور انھیں شیعیت سے نزدیک کیا، اسی مہم کی غرض سے شیخ بہائی اور انکے والد بزرگوار صفویوں سے نزدیک ہوئے۔

(۱۰۴) اس فتویٰ پر اصرار اور اسکے انجام سے آگاہی کیلئے مجلہ تراشنا، شمارہ ۳۸، ۴۱، نیز الفصول الکمہہ فی تالیف الامام ص ۱۴۳، ۱۴۷ ملاحظہ ہوا اور دوسرے شواہد کے لئے اسی مجلہ کی طرف رجوع کریں ص ۳۲، ۶۱۔

(۱۰۵) تراشنا۔ شمارہ ۶، ص ۴۔

(۱۰۶) تحول اثبات، ص ۱۶۱، ۱۶۵۔

(۱۰۷) علماء دین کا اس دور کے روشن فکروں سے مقابلہ جوان کی واقعیت کی حکایت کرتا ہے، اس سلسلہ میں سید جمال سرفہrst ہیں: یہ دہریے یورپ کے دہریوں جیسے نہیں ہیں اس لئے جو مغربی ممالک میں دین کو ترک کرتا ہے۔ اس میں وطن دوستی اور دشمنوں سے اپنے وطن کی حفاظت کی جمیت وغیرت باقی رہتی ہے۔ اور وہ وطن کی مصالح کی خاطر جانفشاںی کرنے کے لئے آمادہ رہتا ہے۔ لیکن احمد خان اور اس کے پیروکار دین کی حفاظت کی خاطرا پنے وطن کی مصلحت سے غافل اور انھیں اجنیبوں کے تسلط کے لئے آمادہ کر رہے ہیں... ان کا یہ عمل عظیم

اجرا اور کسی شرف کی خاطر نہیں ہے بلکہ ایک پست زندگی اور ناچیز منفعت کے لئے ہے اور اس طرح یہ مشرقی دہر یہے غربی دہر یوں کے مقابلہ میں الخاد و کفر کے بعد پست و حقیر ہونے کے ذریعہ پہچان لئے جاتے ہیں۔ العروۃ الوثقی ص ۵۷۲۔ ۵۷۵ جو کتاب الفکر الاسلامی الحدیث وصلتہ بالاستعمار الغربی ص ۴۳ سے منقول ہے۔ المنار شمارہ ۱۳۵، اپریل ۱۹۲۵، ص ۳۱ جو کتاب الاسلام و اصول الحکم ص ۸، ۹ سے منقول ہے۔ خلافت کے سقوط کے اسباب اور مجمع کی جانب سے ہونے والی حمایتوں سے آگاہی کے لئے سابق حوالہ ص ۱۴، ۷ ملا حظہ ہو۔

(۱۰.۸) آئینہ یا لوگی و انقلاب، ص ۱۵، ۱۶۴۔

(۱۰.۹) سابق حوالہ ص ۱۶۹، ۱۸۴۔

(۱۱.۰) شیعوں کی تاریخ میں سیاسی اور معاشرتی تحولات اور انقلابات میں حماسہ عاشوراء ہمیشہ سے ممتاز رہا ہے۔ یہ بات ہمارے دور میں ایک عنوان کے تحت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ شیعی دنیا اور بالخصوص ایران میں تاریخ معاصر کے دوران افکار کی ضرورت سیاسی سرنوشت کو بدلتے کے لئے انقلابی راہ حل کی ضرورت ہمیشہ باقی رہی ہے۔

مثال کے طور پر مالک ابن انس کا موقف محس زکیہ کی بنیت محمل اور غیر واضح رہا اور قوی احتمال کی بنا پر اسی نکتے کے سبب وجود میں آیا تھا، مدینہ والے محمد کی مدد کرنا چاہتے تھے لیکن چونکہ پہلے منصور سے بیعت کر چکے تھے لہذا مالک ابن انس نے کہا کہ مجبوری میں بیعت منعقد نہیں ہوتی۔ جس کے بعد مدینہ والے محمد کے اطراف میں جمع ہو گئے، مالک کی یہ طرفداری باعث بنی کہ حاکم مدینہ کے حکم سے انھیں اس حد تک مارا گیا کہ اس کی وجہ سے ان

کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی، لیکن جب اسی مالک ابن انس سے حاکم کے خلاف خروج کے متعلق سوال کیا گیا تو جواب میں کہا: اگر یہ قیام عمر ابن عبد العزیز جیسے حاکم کے خلاف ہو تو جائز نہیں ہے اور دوسری روایت کے مطابق جائز نہیں کے بجائے: خدا انھیں قتل کرے کا جملہ پایا جاتا ہے اور اگر یہ قیام اسکے علاوہ کسی دوسرے حاکم کے خلاف ہو تو اسے اسی کے حال پر چھوڑ دو، تاکہ خدا ایک ظالم سے ایک دوسرے ظالم کے ذریعہ انتقام لے پھر اس کے بعد دونوں ہی سے انتقام لے افکرالسیاسی الشیعی ص ۳۲۱۔ علماء کے حکام کے خلاف قیام سے متعلق دوسرے شواہد کے لئے الاسلام بین العلماء والحكام، ص ۲۲۲، ۱۰۴ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

جن لوگوں کا مؤلف موصوف تعارف کرتے ہیں انھیں میں سے سعید بن مسیب ہے: جب عبد الملک نے سعید سے ایک ہی وقت میں اپنے دو بیٹوں ولید اور سلیمان سے بیعت لینا چاہی تو انھوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک ہی وقت میں دلوگوں کی بیعت کے لئے نبی فرمائی ہے۔ عبد الملک نے سعید کو بڑے بڑے شکنجے دیئے لیکن سعید تسلیم نہیں ہوئے سلاطین کے مقابلہ میں اس طرح ڈٹے رہنا امام حسین کا بیزید کے مقابلہ میں یا جناب زید کا ہشام کے مقابلہ میں قیام کرنے میں بہت فرق ہے۔ تقریباً اہلسنت کے تمام علماء حکام کے مقابلہ میں کہ جس کے سامنے قیام کرتے تھے اس کی حاکمیت کے نامشروع ہونے کا فتوانہ دیتے بس اتنا تھا کہ اس کے تقاضوں کو قبول نہیں کرتے تھے۔

(۱۱۱) بطور نمونہ الاسلام بین العلماء والحكام ص ۱۱۵-۱۳۲ ملاحظہ ہو لیکن اس مقام پر اہم یہ ہے کہ شیعہ اور سنی علماء یعنی وظیفہ کو دو دو جدا معانی میں تفسیر کرتے ہیں۔ اور ان کی تفسیروں کا یہ فرق بھی حکام سے تعلق اور اس کے ظلم و جور کے مقابلہ میں خاموش نہ رہنے سے متعلق ہے مثلاً آپ امام حسین کے کلام میں جو دینی علمائی ذمہ دار یاں بیان ہوتی ہیں انھیں تحف العقول ص ۱۷۲، ۱۷۱۔ وہ بھی اس طرح کہ جواب بن حنبل نے وظائف بیان کئے ہیں ان سے موازنہ کریں اعلام الموقعين ۱، ص ۹ جو کتاب الرد علی الزنا دقت و الحجۃۃ ابن حنبل سے ماخوذ ہے۔

(۱۱۲) الائمة الاربعة، ص ۱۴، ۱۸، ۴۳۷، ۳۹۷۔

(۱۱۳) اہل سنت کے فقہاء کے درمیان یہ اجتماعی مسئلہ ہے کہ حاکم کے مقابلہ میں قیام نہیں کرنا چاہئے بلکہ اس کے ظلم پر صبر کرنا چاہئے۔ شافعی اور ابن حنبل اسی قول کے قائل تھے الانتفاضات الشیعیة عبر التاریخ ص ۹۸، نسخی اپنی کتاب شرح العقائد میں اسی نظریہ کو ابوحنیفہ سے منسوب کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں: خلفاء راشدین کے بعد حکام کے درمیان فسق و فجور ظاہر ہو گیا اور سلف صالح نے بھی ان کی اطاعت کر لی اور ان کے ساتھ نماز جمعہ و جماعت پڑھی لیکن ان کے خلاف خرون ج نہیں کیا۔ سابق حوالہ ص ۹۹ جن فقہاء نے خروج کو حرام قرار دیا ہے تقریباً ہر ایک نے اسی ایک نکتہ کو اپنی دلیل بنائی ہے۔ مزید وضاحت کے لئے سابق حوالہ ص ۹۷-۱۰۷ نیز طبقات الحنابلہ ج ۲۲ ملاحظہ ہو۔

(۱۱۴) جوانوں میں ایک انقلابی فکر کی شدت کو معلوم کرنے کے لئے مجلات النذیر، الشورۃ، الاسلامیۃ، المطلقاً۔ الدعوۃ اور وہ تمام مجلات جو جوانوں اور مجاہدین کی جانب سے شائع

ہوتے ہیں ملاحظہ ہوں۔

(۱۱۵) ظالم حکام کی نسبت اہل سنت کے مجاہد جوانوں کے نظریات کو معلوم کرنے کے لئے عتبی کی تقدیروں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، کہ جس نے اول محرم ۱۴۰۰ میں خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا اور آل سعود کو نکال باہر کر دیا تھا اور ۱۹۷۸ء میں عبدالعزیز بن کے ذریعہ قید خانہ سے آزاد ہوا

### . 185- 180. Faith and Power.PP

(۱۱۶) اسلامی معاشروں کے متمدن ہو جانے کی وجہ سے جوانوں پر جواہر ظاہر ہوا اسے معلوم کرنے کے لئے پیامبر و فرعون ص ۲۷۳، ۲۹۵، ۱۷۸، ۱۶۹ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔  
بنام ایڈو لوٹھی و انقلاب، ص

(۱۱۷) پچاس اور ساٹھ کی دہائی میں اسلام نے جو پوری دنیا بخصوص مصر اور عرب کی مشکلات سے رو برو ہوا اس کا اندازہ لگانے اور کیفیت معلوم کرنے کے لئے انقلاب اسلامی الحدیث و صلۃ بالاستعمار الغربی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

(۱۱۸) اس دور کے آپسی فرق کو معلوم کرنے کے لئے دوران معاصر کے روشن فکر مسلمان کی فکری و عقیدتی داستان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں جنہوں نے صداقت اور صراحت کے ساتھ اسے روشن کیا ہے العقیدۃ الی الشورۃ ص ۴۶، ۴۸۔

(۱۱۹) عبد الرزاق کے استدلالی مباحثہ کتاب الاسلام و اصول الحکم میں رجوع کر سکتے ہیں کہ جہاں اس نے خلافت کو اس عنوان کے تحت باطل کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ دین کے

اصول میں سے ایک اصل اور اس کے امور میں سے ایک امر ہے۔ وہ اس سلسلہ میں علماء کے اجماع بالواسطہ اصل اجماع کا انکار کرتا ہے، چنانچہ اور اس کے تمام نقادوں نے اسی ایک نکتہ کو مور د تو جہے قرار دیا اور اس زاویہ کے تحت اس کے نظریات کو رد کرنے کی کوشش کی ہے۔ بطور نمونہ مراجعہ کریں، علماء از ہر کے ان سات اشکالات کی طرف کہ جسے انہوں نے اس کے نظریہ کے خلاف بیان کیا ہے اور پھر انہیں اشکالات کی بنیاد پر محاکمہ کیا اور جامعہ از ہر سے نکال دیا۔ کتاب الاسلام و اصول الحکم ص ۱۲ پر محمد عمارہ کے مقدمہ کی طرف رجوع کریں۔ نیز کتاب سد باب الاجتہاد و ماترتب علیہ عبد الکریم خطیب کی طرف رجوع کریں کہ جنہوں نے ایک دوسرے زاویہ سے عبدالرزاق ہی کے نظریات کو رد ہرایا ہے ان کا اصلی ہدف باب اجتہاد کو کھولنا اور اس کی مدد سے دینی بحران کو ختم کرنا اور مسلمانوں میں دینی شعور بیدار کرنا اور اسلامی سماج کو زیادہ اسلامی بنانے میں مدد کرنا تھا، سابق حوالہ، ص ۷۔

(۱۲۰) عتبی کے نظریات کے باب میں الحركة الاسلامية في الجزيرة العربية ص ۱۱۹،

- ۱۳۰ -

(۱۲۱) بطور نمونہ یوسف قرضانی کی دلسوچھتوں کی طرف رجوع کیا جائے جسے انہوں نے جوانوں کے نام اپنی کتاب الصحوة الاسلامية بین الجمود والتطور لکھی ہے اور انہیں پیغام دیا ہے کہ وہ دین کی غلط تفسیر اور اس میں زیادہ روی کو ترک کر دیں اور اس کے اصول سے تجاوز نہ کریں۔

(۱۲۲) تاریخ خلفاء، ص ۷۷

(۱۲۳) الاسلام و اصول الحکم، محمد عمارہ کے مقدمہ کے ہمراہ ص ۹ جو المغار شمارہ ۲۳ اپریل سال ۱۹۵۲ء۔ ۲۹ رمضان ۱۳۴۳ق، ص ۱۳۔

(۱۲۴) مجلہ دانشکدہ ادبیات و علوم انسانی دانشگاہ مشہد، شمارہ ۵۷، ص ۵۸، ۵۷، ص ۴، ۴۔

(۱۲۵) احمد شوقي جومصر کا ملک الشعراء تھا اسے عثمانیوں بلکہ ترکوں سے اسلام و اسلامیت کے پرچمدار ہونے کی وجہ سے ایک خاص ارادت تھی، اس کے دیوان الشوقیات میں مختلف مناسبتوں کے تحت ترکوں اور عثمانیوں کی تعریف و تجید ملے گی بلکہ احساسات اور حذبات سے لبریز اشعار کہے ہیں۔ مثلاً اسی میں ترکوں کی تعریف کرتے ہوئے انھیں اشرف امت کا لقب دیا ہے اور انھیں مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے: وہ نہ ہی (ترک جوانوں) کے افکار کی تلاش میں جائیں اور نہ ہی نفس کے مقابلہ میں ذلیل و خوار بلکہ ایک متحرک اور ثابت قدم انسان رہیں، ص ۶، ۲۰۷، ۲۰۶، اسی طرح ایک مقام پر دریافتی فوج کو دیکھتے ہوئے کہ جن کی کشتوں پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، وجد میں آ جاتا ہے اور اشعار کہتا ہے (۲۱۱، ۲۰۸) یونانیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے ترکوں کی بڑی تعریف کرتا ہے اور اس لشکر کے سردار مصطفیٰ کمال کو خالد ترک کا لقب دیتا ہے (ص ۴، ۲۵۸، ۴۴) یہاں تک کہ جب شریف حسین نے خلافت کا دعویٰ کر دیا تو اس نے سلطان عبدالجبار کے لئے ایک طولانی شعر لکھ کر روانہ کیا (سال ۱۱۹، ۴) چونکہ اسے مکہ و مدینہ کا اصلیٰ مالک سمجھتا ہے لہذا اس سے درخواست کرتا ہے کہ وہاں سے شریف حسین کا خاتمہ کر دے۔ (ص ۴، ۱۹) جب اتنا ترک کے ذریعہ خلافت کو ساقط کر دیا گیا تو اس نے اس وقت نہایت غمگین اشعار کہے جس کا مضمون اس طرح ہے

شادی کے نغمہ نوحہ میں بدل گئے اور خوشی کے شادیا نے موت کا پیغام لائے ہیں۔ اور پھر انھیں اشعار کے ضمن میں مسلمانوں سے درخواست کرتا ہے کہ اسے نصیحت کریں تاکہ وہ اپنی نیت سے منصرف ہو جائے۔ (ص ۹۰۔ ۹۳) ان اشعار کو شریف حسین کی مدح میں اور ترک اور عثمانیوں کی نذمت میں کہے اشعار سے موازنہ کریں۔ ثورۃ العرب ضد الاترک، ص ۴۵۳ کے بعد

(۱۲۶) الاسلام و اصول الحکم، محمد عمارہ کے مقدمہ کے ہمراہ، ص ۸۔  
 (۱۲۷) الاسلام و اصول الحکم، ص ۹، جواخبر الاحرام شمارہ ۱۲۵، مئی سال ۱۹۲۵، مجلہ المغارشمارہ ۲۳ اپریل ۱۹۲۵، ص ۳۱ سے منقول ہے، خلافت کے ساقط ہونے کی وجہ سے جو ہنگامہ آرائی ہوئی اور پھر مذکورہ مجمع کی جانب سے حمایتوں کے نعرے بلند ہوئے، رجوع کریں سابق حوالہ کی طرف، ص ۱۷ اور ۱۴۔

(۱۲۸) سابق حوالہ، ص ۱۷ جو المغارج ۲۱۵ جنوری ۱۹۲۵، ص ۱۰ سے منقول ہے۔

(۱۲۹) سابق حوالہ، ص ۱۳ جو اخبار السیاستہ شمارہ ۲۲۵ جنوری سال ۱۹۲۵ سے منقول ہے۔

(۱۳۰) رجوع کریں D. Charles Smiths. Islam and The ,

### Search of

#### • 1. p.Social Order in Modern Egypt

(۱۳۱) ان ایام میں خلافت کے منصب کے لئے بعض مسلمان حکام جیسے باڈشاہ مصر ملک فؤاد کے دل میں وسوسہ ہوا۔ مقدمہ الاسلام و اصول الحکم، ص ۸ اور اس داستان کی تفصیل کو

کتاب اسلام والخلافۃ فی العصر الحدیث ص ۳۵، ۱۴۵، کی طرف مراجعہ کر سکتے ہیں۔ اور قابل توجہ تو یہ ہے کہ رشید رضا اور اس کے تفکر افراد نے یمن کے امام کو جامع الشراط ہونے کی وجہ سے خلافت کے لئے انتخاب کر لیا تھا۔ اندریشہ ہائی سیاسی در اسلام معاصر، ص ۱۳۷۔

(۱۳۲) لفظ خلافت کے مطلق ہونے سے حکومت اسلامی کی ریاست سمجھ میں آتی ہے بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ خلافت حکومت اسلامی کے معنی میں ہے اور اس بات پر اجماع ہے کہ حکومت کے رئیس کو خلیفہ مانا جا سکتا ہے۔ معالم الخلافۃ فی الفکر السیاسی الاسلامی، ص ۳۔

(۱۳۳) بطور نمونہ مراجعہ کریں الفکر الاسلامی الحدیث فی مواجهۃ الافکار الغربی ص ۲۴، ۷۔

(۱۳۴) حسن البناء کے اس جواب کی طرف رجوع کریں کہ جو اُس نے کیا چاہتے ہو؟ کے جواب میں لکھا ہے من اصول الفکر السیاسی الاسلامی، ص ۱۱۔

حکومت اسلامی کے مفہوم کے معین ہونے کی پہلی علمتیں اور اس کا آرزو میں تبدیل ہو جانا اس کے جواب میں مل سکتا ہے۔

(۱۳۵) اسلامی ممالک مخصوصاً مصر اور ہند میں مغربی قوانین کے نفوذ کی تاریخ کے لئے .PP, A History of Islamic Law, Islamic Surveys

. 162-149

Isramicsacityg , Gibb and HarebdBrown.H.A.126(۱۳۶)

Islamic Society and the , pp.vmr 1rst,amd the Weet  
. vol,1,West

(۱۳۸) بطور نمونہ مرزا ملک خان کی طرف سے جتنے بھی ملاحظہ قانون اخبار میں شائع ہوئے ہیں ان کی طرف رجوع کیا جائے۔

(۱۳۹) عبد العزیز البدربی، عثمانی حکومت میں نئے قوانین کے نفوذ کو اس طرح توضیح دیتے ہیں۔... ۱۸۵۷ء میں نئے قوانین مخلصہ قوانین جزا، تجارت، حقوق مدنی، آہستہ آہستہ نفوذ کرنا شروع ہو گئے۔ لیکن جب تک شیخ الاسلام نے اس کے لئے شیریعت سے مخالف نہ ہونے کا فتوانہ دے دیا اس وقت تک جاری نہ ہو سکے۔ علماء اسلامی حکومت میں قوانین مدنی کے ورود کو جائز نہیں سمجھتے تھے جس کی وجہ سے ان لوگوں نے معاملات کے سلسلہ میں ایک مجلہ کا شائع کرنا شروع کیا جو ان قوانین بنانے والوں کی فہم کے مطابق احکام شرعیہ سے مستند تھے۔ الاسلام بین العلماء والحكام ص ۱۷۔ نیز تحریر الحجۃ ج ۱، کی طرف رجوع کریں۔

(۱۴۰) , The Faith of a Modern, William Shepard

Muslim) Intellectual

(۱۴۱) سابق حوالہ، ص ۴۔

(۱۴۲) اہل سنت کے درمیان تحریک اخوان المسلمين کے مؤسس حسن البنا ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ ایک سیاسی اور انقلابی تحریک کی بنیاد رکھی ہے۔ وہ اپنے مانے والوں کو اس طرح تعلیم دیتے ہیں اگر کوئی تم سے پوچھے کہ لوگوں کو کس بات کی طرف دعوت دے رہے ہو؟ تو جواب دینا کہ اس اسلام کی طرف کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پر نازل ہوا تھا اور حکومت اس کا ایک جزء اور آزادی اس کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ اگر وہ کہے کہ یہ تو

سیاست ہے تو جواب دینا کہ یہ اسلام ہے اور ہم ایسی کوئی تقسیم نہیں جانتے۔ اگر وہ کہے کہ تم انقلاب کے منادی ہو تو جواب دینا کہ ہم حق و حقیقت اور صلح کے طالب ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے اور وہ ہمارا فخر ہے پس اگر ہمارے مقابلہ میں کھڑے ہوئے اور ہماری تبلیغ میں مانع ہوئے تو یہ یاد رہے کہ خدا نے ہمیں دفاع کی اجازت دی ہے اور پھر اس صورت میں تم لوگ ظالم ٹھہر دے گے۔ من اصول الفکر السیاسی الاسلامی، ص ۱۱ جو بین الامم والیوم۔ حسن البناء کی کتاب سے منقول ہے۔

(۱۴۳) معالم فی الطریق، ۸، ۱۱۔

(۱۴۴) یہاں تک کہ ایک آزاد انسان اور ایک ذمہ دار دانش ورکتاب معالم الخلافۃ الاسلامیۃ نامی کتاب کے مؤلف جس نے اس کے سلسلہ میں سلف کے نظریات اور اس کے شرائط نیز، اس کی اطاعت اور عدم مخالفت کے تحت تقدیم کرتے ہیں، وہ بھی زیادہ اس بات کے حامی نہیں ہیں کہ کوئی نظام حاکم کے سامنے قیام کرے۔ جبکہ جو اس نے خلافت کی تعریف کی ہے اس کے اسلاف اور ہم عصر وہ مخالف اور معقول اور مرتقب یافتہ ہے۔ شریعت کے قوانین کو پورے جہان میں جاری کرنا اور اسلام کی تبلیغ کے لئے تمام مسلمانوں پر ایک عمومی ریاست سابق حوالہ، ص ۳۰۔ یا ایک دوسرے مقام پر بھی اس طرح کہتا ہے امت صاحب قدرت ہیا ورجب وہ خلیفہ سے بیعت کرتی ہے تاکہ وہ حکومت کی ریاست کو سنبھالے اور اسلام کی زندگی کو عملی جامہ پہنانے تو ایسا فرد اس کی قدرت میں اس امت کا نائب ہو گا، اس لئے کہ یہ امت احکام کے جاری ہونے اور اس کے نافذ ہونے کی خواہاں ہے اور خلیفہ امت

کی نیابت میں ایسا ہی کرتا ہے پس وہ شخص خلیفہ نہیں ہو سکتا جس کی بیعت لوگوں نے اپنی رضایت اور اپنے اختیار سے نہ کی ہو اور بیعت امت کی جانب سے خلیفہ کے نائب ہونے کی علامت ہے۔ سابق حوالہ ص ۳۸۔

وہی مؤلف ایک دوسرے مقام پر حاکم کے خلاف خروج سے متعلق کہتا ہے: اگر قیام مسلمانوں میں خوزیری کا باعث ہو تو یہ قیام جائز نہیں ہے اس لئے کہ ملک میں فتنہ ایجاد کرنا شرعی طور پر حرام ہے۔ اور جو حرام کا موجب بنے تو اس قaudہ کی رو سے (وسیله حرام حرام ہوتا ہے) حرام ہے۔ اس صورت میں اس کی اطاعت واجب ہے اور اس کے ساتھ فتنہ کو دبائے کے لئے جہاد واجب ہے۔ اور ابھی صورت میں وہ امیر ہو گا خلیفہ نہیں ہو گا مگر یہ کہ مسلمان اپنے ارادہ و اختیار سے اس کی بیعت کریں۔ سابق حوالہ ص ۱۲۶۔

(۱۴۵) ہمارے زمانے کے ایک ممتاز اہل سنت عالم دین شیخ اسعد بیوض <sup>لتعمیہ</sup> کہتے ہیں: حکومت اسلامی سے مراد شریعت کی تطبیق اور اسے جاری کرنا ہے۔ اس کلام کو بارہا اسی عالم سے نقل کیا گیا ہے نیز رجوع کریں کتاب تحول و ثبات ص ۱۲۱، ۱۲۰۔

(۱۴۶) مزید توضیح کے لئے کتاب، پیغمبر و فرعون ص ۷۵، ۱۹۲، ۱۹۳ ملاحظہ ہو۔

(۱۴۷) اس طرح کی بہت ساری تنقیدوں کا ختمی جواب جو کہ جدید امیدوں کا نتیجہ ہیں کہ جس نے معاشرتی، اقتصادی، فکری و سیاسی حالات نے ان کو جنم دیا ہے، اہل سنت کے وارستہ عالموں میں سے ایک عالم دین، محمد ضیاء الدین الریس نے، اس وقت ان تنقیدوں کے جوابات دئے تھے جب یہ (اعتراضات) اس درجہ شدید نہ تھے، بڑے ہی متواضعانہ انداز

میں دیا ہے البتہ اتنا ضرور ہے کہ ان جوابات کے مخاطب غیر مسلمان یا بد عقیدہ مسلمان ہیں۔ لیکن بہر حال اس کا جواب ان تمام لوگوں کیلئے ہے جنہوں نے پوری تاریخ میں علماء اہلسنت پر ان کے سیاسی موقف کی وجہ سے تقدیروں کی بارش کی ہے۔ وہ خواہ مسلمان اور وفادار ہوں یا غیر مسلمان اور غیر ذمہ دار ہوں۔ بعض مؤرخین بالخصوص مستشرقین علماء اہل سنت پر الزام لگاتے ہیں اور ان کے متعلق ایسی باتوں کی نسبت دیتے ہیں کہ نہ ہی ان کی کوئی واقعیت ہے اور نہ ہی انھیں پسند ہے۔ اس کو پیش کرتے ہیں معترضین یہ کہتے ہیں کہ وہ حکام کی جانب مائل تھے، ان کی سیاست اور راہ و روش کے موافق اور ان کے درباری امور میں ان کے مددگار تھے۔ مثلاً امویوں کے زمانہ میں حسن بصری، شعبی سعید ابن جبیر اور سعید ابن مسیب اور عباسیوں کے دور میں ابو حینیفہ، مالک اور احمد ابن حنبل تھے جنہوں نے اپنے دور کے حکام اور امراء کے خلاف آواز بلند کی یہاں تک کہ وہ اصول و قواعد جن کی بنیاد پر وہ حکام صاحب قدرت بن گئے تھے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا انظیریات السیاسیۃ الاسلامیۃ، ص ۷۱، پر اور ایک دوسرے مقام پر سیاسی مسائل میں عدم توجہ کے اسباب بیان کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں اہل سنت والجماعت کا یہ اعتقاد تھا کہ حاکم کے خلاف ایسا قیام جس کی کامیابی کا امکان نہ ہو تو ایسا قیام فتنہ کا باعث، قتل و غارتگر یا اور ہرج و مرج کا موجب ہے، لہذا سیاست سے کنارہ کشی کو پسند کرتے تھے اور علمی مشغولیت کو ترجیح دیتے تھے جس کا فائدہ زیادہ اور پایدار تھا سابق حوالہ ص ۷۱۔ اسی مطلب کی مزید وضاحت میں کہتے ہیں اہلسنت نے امامت اور اس سے متعلق تمام مسائل کو خوارج، شیعہ، معتزلہ اور مرجدہ کے لئے چھوڑ دیا

کہ جو اس میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنا وقت اس مسئلہ کے متعلق نظریات اور عقائد کو درست کرنے سے محفوظ رکھا اور اس وقت ان مسائل کو حل کیا جب وہ اس مسئلہ سے فارغ ہو گئے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست میں وہ بالکل ہی بیگانہ تھے یا اموی و عباسی سیاست سے راضی تھے سابق حوالہ ص ۷۰ وضاحت کے لئے رجوع کریں ص ۶۹،

- ۷۵

(۱۴۸) اس نکتہ بلکہ اس لایخل مشکل کو گب بخوبی بیان کرتا ہے: اس طرح سے یہ نکتہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ حالاں کہ خلیفہ کو بھی قانون کی رو سے معزول کیا جا سکتا ہے لیکن جس قانون کے تحت خلیفہ کو بر طرف کیا جائے اس کا کوئی وسیلہ موجود نہیں ہے۔ مشکل تنہا اور دی کی نہیں تھی بلکہ اس کے دور تک تمام الہامت کے درمیان فکر اور تدبیر کی مشکل تھی۔ اور یہ نکتہ اس مطلب کی تائید کرتا ہے کہ سنیوں کی سیاسی فکر اور اعتقادی نظریہ پردازی درحقیقت تاریخ امت اسلامی کو عقلانی بنانے کیلئے ہے اور اس کے بغیر کوئی نظریہ پردازی اور اندیشہ کا وجود ہی نہیں ہے۔ مزید وضاحت کے لئے رجوع کریں نظریۃ الامامة عند الشیعۃ الامامیۃ ص ۱۶۳۔

(۱۴۹) انقلابی اشیائی، ص ۱۱۶، ۲۶۶۔

(۱۵۰) رجوع کریں سد باب الاجتہاد و ماترتب علیہا ص ۵، ۸، ۱۰، یہ اس کتاب کا مؤلف خود علامہ کی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، اس نے اس کتاب میں حقیقت کو بیان کیا ہے کہ علماء اہل سنت میں فکری و اجتہادی تحرک کے نہ ہونے کی وجہ سے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نیز باب اجتہاد کے دوبارہ کھلنے کے سلسلہ میں امین کے نظریات۔ ملاحظہ ہوں۔

William Shepard The Faith of a Modern  
Muslim Intellectual

(۱۵۱) دینی تعلیمی نظام کو جدید قوانین کے قاب میں دھالنے اور اس کے نتائج کے سلسلہ میں الفکر الاسلامی الحدیث وصلتہ بالاستعمار الغربی نامی کتاب کے ص ۱۷۶-۱۸۱، میں عبدہ کے نظریات ملاحظہ ہوں اس قابل توجہ تو صیف جس کے مطالعہ سے علماء از ہر کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے، اگر ان علماء کے ہاتھوں میں کوئی کتاب آجائے اور اس میں ایسے مطالب ہوں جس کا وہ لوگ مطلب نہیں جانتے اور مصنف کی مراد کو سمجھ نہیں پاتے اور اگر اس کے کچھ مطلب کو سمجھ بھی جائیں تو اسے رد کر دیتے اور قبول نہیں کرتے ہیں اور اگر اسے قبول بھی کر لیں تو اسے اپنے علم اور خواست کے مطابق اس کی تفسیر کرتے ہیں۔

بلکہ اس میں تحریف کردیتے ہیں۔ اور خالد محمد خالد کے نظریات کا کتاب الشیعہ فی الامیز ان ص ۳۷۵-۳۷۸ میں مطالعہ کریں۔ نیز کتاب وعاظ الصلاطین، ص ۲۹۱، ۲۰۲ اور بالخصوص اس کے نتیجہ کو معلوم کرنے کے لئے پیامبر و فرعون نامی کتاب کا ص ۱۰۲، ۱۱۵۔ ملاحظہ ہو

نیز Charles D Smith Islam and The Search .Order in Egypt

113-PP 109,of Social Modernity

70- 63, PP,Fazlur Rahman Islam and Modernity

(۱۵۲) کتاب پیغمبر و فرعون ص ۲۷۳، ۲۹۵، ۲۹۰، میں اس موضوع کے تحت بہترین نمونہ کیلئے العذری مجلہ کے شماروں کی طرف بالخصوص، ۱۹۸۱، ۱۹۸۵، میں شائع ہوئے محبوں کی طرف

رجوع کریں۔

---

## کتاب کے عربی اور فارسی منابع اور مأخذ کا تعارف

آل کاشف الغطائی، اشیخ محمد حسین: اصل الشیعۃ و اصولہا، ط٤، بیروت مؤسسه الاعلامی  
للمطبوعات، ۱۴۰۲/۱۹۸۲

آل کاشف الغطائی، اشیخ محمد حسین: تحریر الحجۃ، الخفی الاشرف المکتبۃ المترضویہ مطبعہ  
الحیدریہ، ۱۳۵۹۔

آیتی، عبدالحمد: ترجمۃ معلقات سبع، طبع دوم، تهران، ناشر اشرفی، ۱۳۵۷۔

افغانی، جمال الدین مع اشیخ محمد عبدہ: العروۃ الوثقی، ط٣، بیروت دارالکتاب العربي،  
۱۴۰۳/۱۹۸۳۔

احمد بن حنبل: منند منتخب کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال، بدون ناشر، بدون تاریخ۔  
کتاب فضائل الصحابة، تحقیق وصی اللہ بن محمد عباس، ط١، مرکز احث اعلمنی واحیاء التراث  
اسلامی لجماعہ امام القری /۱۴۰۳-۱۹۸۳

کتاب الزهد، تحقیق محمد جلال شریف، دار النھضة العربیة السنّۃ، تحقیق محمد السعید بسیونی  
زغلول، ط١، دارالکتب العلمیہ /۱۴۰۵-۱۹۸۵،  
ابن الحداد، محمد بن منصور: الجھر لغفیس فی سیاست الرئیس، تحقیق رضوان السید، ط١، دار الطیعہ،  
۱۹۸۳

اسمیت، ولیفر د، کنت ول: اسلام در جهان امروز، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،

۱۳۵۶-

- ابن جوزی، ابی فرج عبد الرحمن: مناقب الامام احمد بن حنبل، تحقیق عبد الله بن عبد الحسن الترکی، ط ۱، قاہرہ، مکتبۃ النجفی، ۱۹۷۹ / ۱۳۹۹.
- ابو الفرج الجوزی: کتاب الرد علی المتعصب العنید، تحقیق محمد کاظم الحمودی، ۱۹۸۳ / ۱۴۰۳.
- ابن العربي، ابی بکر: العواصم من القواسم، فی تحقیق موافق الصحابة بعد وفاة النبي صلی اللہ علیہ وآلہ، تحقیق محب الدین الخطیب، بیروت المکتبۃ العلمیة ۱۹۸۵ / ۱۴۰۵.
- ابو الفرج الصفہانی، علی بن حسین: الاغانی دار احیاء التراث العربي.
- ایمن، احمد: ضحی الاسلام، ط ۷، مکتبۃ النھضة المصریة، بدون تاریخ فجر الاسلام، الطبعۃ الحادیۃ عشرۃ، دارالکتاب العربي، ۱۹۷۹.
- ظہر الاسلام، ط ۴، مکتبۃ النھضة المصریة، ۱۹۶۶.
- الامین الحنفی، عبد الحسین احمد: الغدیر فی الکتاب والسنۃ، ط ۳، دارالکتاب العربي، ۱۳۸۷ / ۱۹۶۷.
- ابن ابی الحدید: شرح نجح البلاغ، تحقیق ابوالفضل ابراهیم، ط ۲، بیروت دار احیاء الکتب العربیہ، ۱۳۸۵ / ۱۹۶۵.
- ابن بابویہ، ابی جعفر محمد بن علی: معانی الاخبار، تصحیح علی اکبر غفاری، دار المعرفۃ، ۱۳۹۹ / ۱۹۷۹.
- ابن الاشیر: الكامل فی تاریخ، دارصادر ۱۴۰۲ / ۱۹۸۲.

- 
- ابن احمد، قاضی عبد الجبار: شرح الاصول الخمسة، تحقیق عبد الکریم عثمان، ط١، مکتبہ وحبتہ، ۱۹۶۵/۱۳۸۴۔
- ابن قتیبہ الدینوری، ابو محمد عبد اللہ بن مسلم: عيون الاخبار، بیروت دارالكتب العلمیة، ط١، ۱۹۸۶/۱۴۰۶۔
- تاویل مختلف الحدیث، تصحیح محمد زہری الاخبار، بیروت دارالجیل ۱۳۹۳/۱۹۷۲۔
- الامامة وسیاسته ہو المعروف بتاریخ اخلافی، مکتبۃ ومطبعة مصطفی البابی الخلی و ولادہ، ۱۹۶۹/۱۳۸۸۔
- ابن قیم الجوزیۃ: اعلام الموقعين عن رب العالمین، تحقیق ط عبد الرؤوف سعد، دارالجیل، ۱۹۷۳۔
- ابن ہشام: السیرۃ النبویۃ، تحقیق مصطفی السقای، داراحیاء التراث العربی۔
- الابیجی، قاضی عبد الرحمن بن احمد: المواقف فی علم الكلام، عالم الکتب
- افندی، قاضی بہلوں بہجت: تشریع و محاکمه در تاریخ آل محمد، ترجمہ میرزا مہدی ادیب، مشہد انتشارات فردوسی، بدون تاریخ۔
- الامین الانطاکی، محمد مرعی: حلقات من الضلال الى الہدی، بدون ناشر بدون تاریخ۔
- لماذ اخترت مذهب الشیعۃ، بیروت، مؤسسه الاعلامی للمطبوعات، بدون تاریخ۔
- ایزوتسو، توشی ھیکو: ساختمان معتابی مفاهیم اخلاقی، دینی در قرآن، ترجمہ فریدون بدوده ای، تهران، انتشارات قلم، ۱۳۶۰۔
-

ایز و تسو، توشی حکیم: خدا و انسان در قرآن، ترجمہ احمد آرام، چاپ دوم دفتر نشر و فرہنگ اسلامی،  
۱۳۶۸-

الافقانی، سعید: من الحاضر للغة العربية، ط ۲، بیروت دار الفکر، ۱۹۷۱،  
ابو یوسف، قاضی: الخراج دار المعرفة للطباعة والنشر، ۱۹۷۹، ۱۳۹۹،  
ارموی، میر جلال الدین حسین (محمد): تعلیقات نقش، تهران، انتشارات انجمن آثار ملی،  
۱۳۵۸-

ابن جُزَّی: القوانین الفقهیة، دار الفکر، بدون تاریخ.  
ابن خلدون، عبدالرحمٰن: مقدمة ابن خلدون، ترجمہ پروین گنابادی، شرکت انتشارات علمی و  
فرهنگی، ۱۳۶۶،  
الب تکین، عیسیٰ یوسف: قضییہ ترکستان الشرقیۃ، ترجمہ اسماعیل حقی شن کول مؤسسه مکہ للطباعة  
والاعلام، ۱۳۹۸ / ۱۹۸۷-

طعیش، محمد یوسف: ازالۃ الاعتراض عن محقی آل اباض، مسقط یوزارة التراث القومی  
والثقافة، سلطنة عمان، ۱۹۸۲-

ابن رشید القرطبی، محمد بن احمد: بدایۃ الجتهد ونهایۃ المقتضد، قم منشورات الشریف الرضی،  
۱۴۰۶-

ابن تیمیۃ، ابو العباس احمد: منهاج السنۃ النبویۃ فی نقش کلام الشیعۃ والقدریۃ، مطبعة الکبری  
الامیریۃ، ط ۱۳۲۱، ۱۳۲۱-

اقضاء الصراط المستقیم مخالفۃ اصحاب الحجیم، تحقیق محمد حامد الفقی، بیروت دارالعرفۃ، بدون تاریخ۔

السياسة الشرعية في اصلاح الرأي والرعيّة، تحقیق لجنة احیاء التراث العربي، بیروت دار الجیل، ۱۴۰۸/۱۹۸۸۔

ابن الشعبة الحرانی، ابو محمد: تحف العقول، بیروت مؤسسه اعلامی للمطبوعات، ۱۳۹۴/۱۹۷۴۔

ابن حزم، ابی محمد علی بن احمد: الملی، تحقیق لجنة احیاء التراث العربي، دار الدقاقد الجدیدة۔  
ابن حزم، ابی محمد علی بن احمد: الفصل في الملل والآهواء والنحل، تحقیق محمد ابراهیم نصر دار الجیل، ۱۴۰۵/۱۹۸۵۔

الاشعری، ابی الحسن علی بن اسحیل: الابانۃ عن اصول الدینیۃ دار الکتاب العربي، ۱۴۰۵/۱۹۸۵۔

ابن الجوزی البغدادی: ابی الفرج عبد الرحمن: تلیبیس ابلیس، بیروت دار القلم، ۱۴۰۳۔  
محمد بن ابو یعلی، قاضی ابو الحسن طبقات الحنابلۃ، تحقیق محمد حامد الفقی، قاهرہ، مطبعة السنۃ الحمدیۃ/۱۳۷۱/۱۹۵۲۔

احد اعضاء ماجمیعیات اسریّۃ العربیّۃ: ثورۃ العرب ضد الاتراؤک، مقدماً تھا اسبابھا، نتاً تبحھا: تحقیق عصام محمد شبارو، بیروت دار مصباح الافکر، ۱۹۸۷۔

البنایی، حسن: خاطرات زندگی حسن البنایی، ترجمہ ایرج کرمانی، تهران دفتر نشر و فرهنگ

اسلامی، ۱۳۶۶۔

بار تولد: خلیفہ و سلطان مختصری در بارہ بر مکیان، ترجمہ سیر و س ایزدی، تهران انتشارات امیر کبیر ۱۳۵۸۔

البدربی، عبدالعزیز، الاسلام بین العلماء والحكام، المدینة المنورۃ، الکتبۃ العلمیۃ ۱۹۶۶۔

الصھی، محمد: الفکر الاسلامی الحدیث وصلتہ بالاستعمار الغربی، ط ۵، بیروت دارالفکر، ۱۹۷۰۔

بغدادی، محمد بن نعمان عکبری: امامی شیخ مفید، ترجمہ حسن استاد ولی، مشهد بنیاد پژوهشہای اسلامی، ۱۳۶۴۔

تا فلار لوین: موج سوم، ترجمہ شھبید خت خوارزمی، تهران نشرنو، ۱۳۶۲۔

التعجیانی السماوی، محمد: ثم اهتدیت، لندن، مؤسسه الغجر ۱۹۸۸۔

التونسوی، عبدالستار: مناقب ائمۃ الاربعة فی مؤلفات الشیعیة تعریف محمد سلیم شاہ، فیض آبادی دارالنشر الاسلامیۃ العلمیۃ، ۱۴۰۳۔

الجندی، انور: العالم الاسلامی والاستعمار السیاسی والاجتماعی والثقافی، ط ۲، دارالکتاب اللبناني، ۱۹۸۳۔

مؤلفات فی المیزان، وزارة الشؤون الاسلامیة والادوکاف لدولۃ الامارات العربیة المتحدة، بدون تاریخ۔

الجرجاني، السيد الشریف علی بن محمد، مع حاشیتین من عبدالکریم السیاکوتی و مولی حسن چلبی، شرح المواقف، تصحیح السيد بدر الدین النعناعی، مطبعة السعادة، ۱۳۲۵۔

- الجزیری، عبد الرحمن: کتاب الفقه علی المذاہب الاربعة، استامبول دار الدعوة، ۱۹۸۷۔
- الجاحظ، ابی عثمان عمرو بن بحر بن محبوب: البیان والتعین، تحقیق حسن السنوی، ط۱، مطبعة التجاریة الکبری، ۱۳۴۵/۱۹۲۶۔
- حائزی، عبد الحادی نخستین رویارویی‌های اندیشه گران ایران با دور ویه تمدن بورژوازی غرب، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۷۔
- حسن، حسن: من العقيدة الی الشورة، ط۱، بیروت دار التنویر للطباعة والنشر والمركز الشعافی، العرب للطباعة والنشر، ۱۹۸۸۔
- الحسنی، حاشم معروف: الانقاضات الشیعیة عبر التاریخ، قم، منشورات الرضی، ۱۴۰۴۔
- الحر العالمی، شیخ محمد بن حسن: وسائل الشیعیة الی تحصیل المسائل الشرعیة، تحقیق ونشر مؤسسه آل بیت (ع) لایحاء تراث، قم، ۱۴۰۹۔
- حسن، حسن عباس: الفکر السیاسی الشیعی، الاصول والمبادی، ط۱، بیروت دار العلمیة للطباعة والنشر والتوزیع، ۱۹۸۸۔
- حسین، ط: الاسلامیات، ط۴، بیروت دار العلم للملائیین، ۱۹۸۴۔
- حسین، ط: آن روزها، ترجمہ حسین خدیجویم، تهران، انتشارات سروش، ۱۳۶۳۔
- خالد، خالد محمد: رجال حول الرسول، ط۲، دار الکتاب العربي، ۱۹۷۳۔
- خلفیات، عوض محمد: الاصول التاریخیة للفرقة الاباضیة، ط۲، مسقط وزارة التراث القومی والثقافة سلطنة عمان، بدون تاریخ۔

الخالدی، محمود: معالم الخلافة في الفكر السياسي الإسلامي، ط١، عمان، مکتبۃ المحتسب، ١٤٠٤ / -

- ١٩٨٤

الختاص، عبد اللہ عوض: سید قطب الادیب الناقد، ط١، امان، مکتبۃ المنار، ١٩٨٣ -

الخوانساري، السيد احمد: جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ط٢، مکتبۃ الصدقوق، ١٣٥٥ -

الخطیب، عبدالکریم: الخلافة والامامة، دینانہ وسیاست، دارستہ مقاشرۃ الحکم والحكومة فی الاسلام، ط٢، دار المعرفۃ، ١٣٩٥ / - ١٩٧٥

عمر بن الخطاب، الوثیقۃ الخالدة للدین الخالد، ط١، دار الفکر العربي، ١٩٧٨ -

سد باب الاجتہاد و ماتریق علیہ ط١، بیروت مؤسسه الرسالۃ، ١٩٨٥١٤٠٥ -

الدرینی، محمد تقی: خصائص التشريع الاسلامی فی السياسة والحكم، ط١، بیروت مؤسسه الرسالۃ، ١٤٠٢ / - ١٩٨٢

دومن، هائزی: فرانسوی مارکسیسم، ترجمہ منوچهر بیات منتخاری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ١٣٥٥ -

الرزفولی، الشیخ حیدر بن المولی: صلوٰۃ الجمیعۃ، دزفول، مکتبۃ الشیخ الانصاری، ١٤٠٧ -

دانکوس، حلن کار: امپراتوری فروپاشیدہ، ترجمہ عباس آگاھی، معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی، ١٣٦٦ -

ریوکین، مایکل: حکومت مسکو و مسئلہ مسلمانان آسیا مرکزی شوروی، مترجم محمود رمضان زاده، مشهد بنیاد پژوهشخانی اسلامی، ١٣٦٦ -

- الرکیس، محمد ضیاء الدین: الاسلام والخلافة فی عصر الحدیث، نقد کتاب الاسلام واصول الحکم، ط۱، منشورات العهد الحدیث، ۱۳۹۳/۱۹۷۳
- الزھرانی، محمد مسفر: نظام الوزارة فی الدولة العباسیة: العهد ان البویحی و السلجوقی، مؤسسہ الرسالة، ۱۴۰۰/۱۹۸۰۔
- السبجاني، الشیخ جعفر: المثل و النخل: محاضرات، قم، مرکز مدیریت حوزہ علمیہ قم، ۱۴۰۸۔
- السيوطی، جلال الدین: تاریخ الخلفاء، تحقیق محمد محی الدین عبد الحمید، ط۱، مطبعة السعادة، ۱۳۷۱/۱۹۵۲۔
- سلیمان معروف، احمد: قرائۃ جدیدۃ فی موقف الخوارج فلکرهم وادھم، ط۱، دمشق، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، ۱۹۸۸۔
- الشهرستاني، عبدالکریم: المثل و النخل، تحقیق محمد سید کیلانی، دار المعرفة، ۱۴۰۲/۱۹۸۲۔
- شرف الدین الموسوی، عبدالحسین: المراجعات، تهران، مؤسسه المکتبه بدون تاریخ۔
- النص والاجتہاد، تحقیق البجتی، ط۱، قم، مطبعة سید الشهداء ۱۴۰۴۔
- شمس الدین، محمد مهدی: ثورۃ الحسین، ظروفها الاجتماعیة و آثارها الانسانيۃ، ط۵، قم، دار المحقق المسلم، ۱۹۷۸۔
- الشاطبی الغرناطی، ابن اسحق ابرایم بن موسی: الاعتصام، دار الفکر۔
- الشكعتی، مصطفی: الانتماء الاربعة، ط۱، بیروت، دار الکتاب اللبناني، ۱۴۰۲/۱۹۸۳۔
- الصالح، صمی: لنظم الاسلامیة، نشأتها وتطورها، ط۲، دار العلم للملايين، ۱۳۸۸/۱۹۶۸۔

صحی، احمد محمود: نظریہ الامامیت لدری الشیعۃ الاشیعیہ، تحلیل فلسفی للعقیدۃ، قاهرہ، دار المعارف بمصر۔

طہرانی، الشیخ آقا بزرگ: تاریخ حضرت الاجتہاد، خوانسار، مدرسه الامام المهدی، ۱۴۰۱۔  
طبری، ابی جعفر محمد بن جریر: تاریخ الطبری المعروف بتاریخ الامم والملوک، ط٤، بیروت  
 مؤسسه الاعلامی للمطبوعات، ۱۹۸۳۔

الطوی ابی جعفر محمد بن محمد بن احسن نصیر الدین: تجربہ العقائد، تحقیق محمد جواد حسین الجلایی، ط١،  
مرکز النشر مكتب الاعلامی الاسلامی، ۱۴۰۷۔

الظھیری، اسرئیل قدمی، محمد بن علی: غرض السیاست فی اعراض الریاست، تصحیح جعفر شعار، تهران،  
انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۹۔

عثمان، محمد فتحی: من اصول الفکر السیاسی الاسلامی، ط١، مؤسسه الرسالۃ، ۱۳۹۹ / ۱۹۷۹۔  
عسکری، سید مرتضی: نقش عایشہ در تاریخ اسلام، ترجمہ عطاء اللہ سردار نیاود گیر افراڈ، نشر کوکب،  
- ۱۳۶۷۔

عطیہ، عزت علی: البدعة، تحدیدها و موقف الاسلام منھا، ط٢، بیروت، دار الکتاب العربي،  
- ۱۴۰۰ / ۱۹۸۰۔

العامر، عبد الطیف: الحركة الاسلامية في الجزيرة العربية، ط١، منظمة الثورة الاسلامية في  
الجزيرة العربية، ۱۴۰۶۔

عبدالرازاق، علی: الاسلام واصول الحکم، دراسة، ووثاق بقلم محمد عماره، ط١، بیروت المؤسسة

- العربیۃ للدراسات والنشر، ۱۹۷۲ء۔
- عنایت، حمید: اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ترجمہ بھاء الدین خرمشاھی، چ، ۱، تهران، انتشارات خوارزمی، ۱۳۶۲ء۔
- عطوان، حسین: الزندقة والاشعوبية في العصر العباسي الاول، بیروت دار الجمل، ۱۹۸۴ء۔
- الامويون والخلافة، ط، ۱، بیروت دار الجمل، ۱۹۸۶ء۔
- غزالی، امام محمد: ایحا الولد، ترجمہ باقر نجاری، بخش فرنگی دفتر مرکزی جمادا نشگاهی، ۱۳۶۴ء۔
- الغزالی، ابی حامد بن محمد: احیاء علوم الدین، ط، ۱، بیروت دار الکتب العلمیة / ۱۴۰۶، ۱۹۸۶ء۔
- الغزالی، ابی حامد بن محمد: الاقتصاد في الاعتقاد، تحقیق محمد مصطفی ابوالعلائی، قاهرہ، مکتبۃ الجندی، ۱۹۷۲ء / ۱۳۹۳
- الغزالی، محمد: السنۃ النبویۃ بین اهل الفقه وائل الحدیث، ط، ۱، دار الشروق، ۱۴۰۹ / ۱۹۸۹ء۔
- فقیحی، علی اصغر: وصاییان، بررسی و تحقیق گونه ای درباره عقائد و تاریخ فرقہ وصایی، تهران، انتشارات اسماعلیان، ۱۳۶۴ء۔
- قطب، سید: معالم فی الطریق، دارالشرق، بدون تاریخ۔
- قدامۃ، احمد بن محمد: المغنى ویلیه الشرح الکبیر لشمس الدین ابی الفرج، دارالکتاب العربي، ۱۴۰۳ / ۱۹۸۳ء۔
- قرزوینی رازی، عبد الجمل: نقض معروف به بعض مثالیب النواصب فی نقض بعض فضائج الرواوض، تصحیح میر جلال الدین محدث، تهران انتشارات نجمن آثار ملی، ۱۳۵۸ء۔

- 
- الکرکی، شیخ علی بن الحسین: رسائل المحقق الکرکی، قم مکتبۃ السید المرعشی لغفی، ۱۴۰۹۔
- جامع المقاصد فی شرح القواعد، تحقیق ونشر مؤسسه آل بیت (ع) الاحیاء التراث، ۱۴۰۸۔
- کوپل، ژیل: پیامبر و فرعون، جنبشہای نوین اسلامی در مصر، ترجمہ حمید احمدی، طبع اول، تهران، انتشارات کیجان، ۱۳۶۶۔
- گوکالب، خیای: ناسیونالیسم ترک و تمن باختر، ترجمہ فریدون بازرگان، تهران مؤسسه فرهنگی منطقہ ای، ۱۳۵۱۔
- امنقری، نصری مراحم: وقعة صفین، تحقیق عبد السلام محمد حارون، قم، مکتبہ بصیرتی، ۲، ۱۳۸۲۔
- الموسی المقرم، عبدالرزاق: مقتل الحسين او حديث کربلا، ط ۵، قم، مکتبہ بصیرتی، ۱۳۹۴۔
- المسعودی، ابن الحسن علی بن الحسین: التنبیہ والاشراف، تصحیح عبد اللہ اسماعیل الصاوی قاهرہ، دار الصاوی للطبع والنشر والتالیف، بدون تاریخ
- المظفر، اشیخ محمد حسین: دلائل الصدق فی الجواب عن (ابطال الباطل) الذی وضعه افضل بن روز بھان للرد علی (نحو الحق) للآیتیة۔۔۔
- العلامة الحلى (قدہ) فی المسائل الخلافیة بین فرقی الاسلام الشیعۃ والسنیة، ط ۱، مکتبہ بصیرتی، ۱۳۹۵۔
- الماوردي: ادب الدنيا والدين، تحقیق مصطفی السقای، ط ۴، دار الکتب العلمیہ، ۱۳۹۸ / ۱۹۷۸۔

- 
- الماوردي (البصرى البغدادى)، ابى الحسن علی بن محمد: الکلام السلطانیہ والولايات الدرینیہ، قم، مرکز المنشر مكتب الاعام الاسلامی، ۱۴۰۶ -
- المتضى، احمد بن تھجی: طبقات الم Gurzat، تحقیق سنوسنہ دیفلمد، فلرز، فیسبادن، فراترستانیر، ۱۹۸۷ -
- الموسی، عبد الحسین شرف الدین: الفصول الحممه فی تالیف الامة، ط ۳، قم، منشورات الرضی، ۱۳۶۴ -
- المسعودی، ابى الحسن علی بن الحسین: مروج الذهب و معادن الجوهر، تحقیق محمد مجی الدین عبد الحمید، دار المعرفة، ۱۴۰۴ / ۱۹۸۴ -
- المبارک، محمد: افکر الاسلامی، الحدیث فی مواححة الافکار الغربی، بیروت ۱۹۷۱ -
- محمد مسجد جامعی: سیر تحویلی و حبابیت، وحابیت در عربستان امروز، تهران ۱۳۶۴ -
- آفریقا، میراث گذشتہ موقعیت آینده، تهران، انتشارات الحدی ۱۳۶۸ -
- تحول و ثبات، تهران، انتشارات الحدی، ۱۳۶۸ -
- ایدئو لوژی و انقلاب، بی جا، بی نا، ۱۳۶۱ -
- محمصانی، حسین: تراث اخلفاء الراشدین فی الفقه والقضاء، ط ۱، بیروت دارالعلم للملائین، ۱۹۸۴
- منتظری، حسین علی: البدرا الزاهری صلوٰۃ الجمیعہ والمسافر، قم انتشارات فرقہ تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۲ -
-

- الخجفی، الشیخ محمد حسن: جواہر الكلام فی شرح شرایع الاسلام، تحقیق الشیخ عباس قوچانی، ط٧، دار الاحیاء التراث العربی، ۱۹۸۱۔
- الندوی، ابراھیم حسن: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، ط١٠، کویت دارالعلوم، ۱۳۹۷ / ۱۹۷۷۔
- ناکینی، شیخ محمد حسین: تنبیه الامة وتنزیہ الملۃ، توضیحات از سید محمود طالقانی، چھٹا ایڈیشن، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۵۹۔
- النوری الطبرسی، مرتضیٰ حسین: مبتدا و مبتدا و متنبیط المسائل، تحقیق مؤسسه آل بیت (ع) الاحیاء التراث، ۱۴۰۷۔
- الوزیر الیمانی، محمد بن ابراهیم: العواصم والقواسم فی الذب عن سنته ابی القاسم، تحقیق شعیب الارتو وط،الجز الثالث، عمان، دارالبشیر ۱۴۰۷ / ۱۹۸۷۔
- حالیدی، فرد: دیکتا توری و توسعہ، ترجمہ محسن یلغانی و علی طلوع، تهران، انتشارات علم، ۱۳۵۸۔
- الحمدی، علی المتنقی بن حسام الدین: کنز العمال فی الاقوال والافعال، تحقیق الشیخ بکری حیانی، ط٥، مؤسسه الرسالۃ، ۱۴۰۵۔

## کتاب کے مغربی (انگریزی) منابع اور مأخذ کا تعارف

- , Islamic movements in Egypt: Hussain.Asaf
- , an Annotated Bibliography: Palistian and Iran  
, 1983, Mansell Publishing Co,London
- Roots of North Indian Shism in Iran and : J.R.I.Cole  
Religion and state in,Iraq
- . 1986,Oxford University Press,1859 1722,Awadh A History of Islamic ,Islamic Surveys:.. J. N,Coulson . 1971, Edinburgh University Press, Edinburgh, Law
- Che Guevara and the Cuban : David,deutschmann Writings and Speeches of Ernest ,Revolution . 1987, Path Finder, Sydney,CheGuevare
- The Making of . Islam and the west: Dorman,Daniel , Edinburgh University Press, Edinburgh,an Image .1980

- 
- Islamic Society : ,Sir Hamilton and Harold BowenGibb  
, Oxford University Press, London, and the West  
. 1963
- Oxford , Oxford,Mohammedansim : . H.A.R.Gibb  
. 1953,University Press
- Their Doctorine and , The Zahiris: Ignaz,Goldziher  
Acontribution to the History of Islamic ,their history  
. 1971, E.J.Brill, Leiden, theology
- Essays in the Nature , Islam: Grunebaum,G.E.Von  
, London, and Growth of a Cultural Tradition  
. 1969, Kegan Paul LTD,Routledge
- A Study in , Medieval Islam: Grunebaum,G.E.Von  
the University of , Chicago,Cultural Orientation  
. 1969,Chicago Press
- A The New Arab Social Order: SaadEddin,Ibrahim  
west view ,Study of the Social Impact to oil welth  
. 1982,Press
-

The Original of Early Development of ∵, S.H.M Jafri

- . 1979, LTD, Lonndon Group, London,Shia Islam  
translated by , On Being a Christian:kung Hang
- . 1977, Collins London,Edward Quinn  
, Sphere books, The Dagger of Islam: John,Laffin
- . 1979,LTD  
, its Rise,The Caliphate: K.C.S.I, Sir William,Muri  
Darf, London, and fall,Decline
- . 1984,Publishers,LTD

The Politics of , Faith and power: Edward,Morimer

- . 1982, Faber and Fabr, london,Islam  
,Inside the Iranian Revolution: John D,Stemple
- . Indiana niversity Press,1981,Bloomington

The Shape of , Islamic Futures: Ziauddin,Sardar

- . 1985, Publishing Limited, Mansell,Ideas to Come  
Islam and the Search for Social : Charls D,Smith

A Biography of Muhammad ,Order in Modern Egypt

Y.State University of NewYork . N,Hussain Haykal

. 1983,Press

The Faith of a Modern Muslim ;Sheppard William

the Religious AS pects and Implication of ,Intellectual

Vihas , New Delhi,the Writings of Ahmad Amin

.Publishing House,1982

Caliphate and Kingship in Medieval :- H. Amir,Saddiqi

. Inc,1977, Porcupine Press, Philadelphia,Persian

,Vatican Council 2nd X(Ed. P. O, Austin,Flahnery

, Dullin,The Conciliar and Post concilar Documents

. 1975,Duminican Publications



*"Wisdom is the lost property of the Believer,  
let him claim it wherever he finds it"*

*Imam Ali (as)*

---